

يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ ۝ قُلْ لَا تَعْتَذِرُوا

Ya'taziroona ilaikum izaa raja'tum ilaihim; qul laa ta'taziroo

لَنْ نُؤْمِنَ لَكُمْ قَدْ نَبَأَنَا اللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ وَسَيَرِي اللَّهُ

lan nu'mina lakum qad nabba annal laahu min akhbaarikum; wa sa yaral laahu

عَلَيْكُمْ وَرَسُولَهُ ثُمَّ تُرْدُونَ إِلَى عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ

'amalakum wa Rasooluhoo thumma turaddoona ilaa 'Aalimil Ghaibi washshahaadati

فَيُنَيِّسُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۝ سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا

fa yunabbi'ukum bimaa kuntum ta'maloon(94) Sa yahlifoona billaahi lakum iza

الْقَلْبَتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ ۝ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ

nqalabtum ilaihim litu'rido 'anhuma fa a'rido 'anhuma innahum

رِجُسٌ وَمَاؤِهِمْ جَهَنَّمُ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ۝ يَحْلِفُونَ

rijsunw wa ma'waahum jahannamu jaza'aa'an bi maakaanoo yaksiboon(95) Yahlifoona

لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ ۝ فَإِنْ تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضِي

lakum litardaw 'anhuma fa in tardaw 'anhuma fa innal laaha laa yardaa

عِنِ الْقَوْمِ الْفَسِيقِينَ ۝ الْأَعْرَابُ أَشَدُ كُفْرًا وَنِفَاقًا وَأَجَدَرُ

'anil qawmil faasiqeen(96) Al A'raabu ashaddu kufranw wa nifaqaanw wa ajdaru

الَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ ۝ وَاللَّهُ عَلِيهِمْ

alla ya'lamo hudooda maaa anzalal laahu 'ala Rasoolih; wallaahu 'Aleemun

حَكِيمٌ ۝ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرِمًا وَيَرْبَضُ

Hakeem(97) Wa minal A'raabi mai yattakhizu maa yunfiq maghramanw wa yatarabbus

بِكُمُ الدَّوَارُ ۝ عَلَيْهِمْ دَأْرَةُ السُّوءِ ۝ وَاللَّهُ سَيِّعُ عَلِيهِمْ

bikumud dawaaa'ir; alaihim daaa'iratus saw'; wallaahu Samee'un 'Aleem(98)

وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا

Wa minal A'raabi mai yu'minu billaahi wal yawmil aakhiru wa yattakhizu maa

مِنْزَلٌ ۝ تَقْتِيمٌ: حروف کو پڑتی آئندگان اور کوہارکا

کوہارکا: اونچے اور سبھی اور کوہارکا میں کے بعد (ب) ہوئی آئندگان میں جیسا کچھ حدا

جیسا کچھ حدا: اس سبھی کوہارکا کے پڑھنا اچھا ہے

پڑھنا اچھا ہے: تم ان سبھی کوہارکا کے پڑھنا اچھا ہے

يُنْفِقُ قُرْبَتٍ عِنْدَ اللَّهِ وَ صَلَوَاتُ الرَّسُولِ إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَهُمْ

yunfiq qurubaatin 'indal laahi wa salawaatir Rasool; 'alaaa innahaa qurbatul lahum;

سَيِّدُ خَلْقِهِمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

sayudkhiliu humul laahu fee rahmatih; innal laaha Ghafoorur Raheem (section 12) (99) Was saabiqoonal

الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَ الْأَنصَارُ وَ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِيمَانٍ

awwaloona minal Muhaajireena wal Ansaari wallazeenat taba'oo hum bi ihsaanir

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَ رَضُوا عَنْهُ وَ أَعْدَلَهُمْ جَنَّتٌ تَجْرِي

radiyal laahu 'anhum wa radoo 'anhu wa a'adda lahum jannaatin tajree

تَحْتَهَا الْأَنْهَرُ خَلْدِيَّنَ فِيهَا آبَدًا ذِكْرُ الْفَوْزِ الْعَظِيمِ

tahtahal anhaaru khaalideena feehaa abadaa; zaalikal fawzul 'azeem(100) Wa

مِنْ حَوْلِكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنْفِقُونَ وَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ

mimmann hawlakum minal A'raabi munaafiqona wa min ahlil Madeenati

مَرِدُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُمْ

maradoo 'alan nifaaq, laa ta'lamuhum nahnu na'lamuhum; sanu'azzibuhum

مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى عَذَابٍ عَظِيمٍ

marrataini summa yuraddoona ilaa 'azaabin 'azeem(101) Wa aakharoo na'tarafoo

بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَيْلًا صَالِحًا وَ أَخَرَ سَيِّئًا عَسَى اللَّهُ أَنْ

bizunoobihim khalatoo 'amalan saalihanw wa aakhara saiyan 'asal laahu 'any

يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

yatooba 'alaihim; innal laaha Ghafoorur Raheem(102) Khuz min amwaalihim sadaqtan

تُظَهِّرُهُمْ وَ تُزَكِّيْهُمْ بِهَا وَ صَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَوَاتَكَ سَكْنٌ

tutahhiruhum wa tuzakkeehim bihaa wa salli 'alaihim inna salaataka sakanul

لَهُمْ وَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلَيْهِمْ

lahum; wallaahu Samee'un 'Aleem(103) Alam ya'lamooo annal laaha huwa yaqbali tawbata

مُتَّقَّدٌ: اونوں مدد کی ادا کو ایک الگ کے برابر لامہ کرنا

منزل ۲: تلقین: حروف کو پڑھنی اور کوہا رکھنا۔ قلقلیہ: حروف کو پڑھنے کا سکھنے کا کام۔

کوہا: الگ کی ادا کو کوہا کرنے کی آئینہ اور کوہا کی مدد کے بھروسہ (ب) ہوئی آؤ کوہا کی مدد (ا) میں جیسا کچھ حدا

جیسا کچھ حدا۔ ان سب ایک الگ کے برابر لامہ کے پڑھانا اجب ہے

عَنْ عِبَادَةٍ وَيَا حُذُّ الصَّدَقَتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَابُ الرَّحِيمُ ﴿١٠٣﴾

'an ibaadihee wa ya'khuzus sadaqaati wa annal laaha huwat Tawwaabur Raheem(104)

وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ طَ وَ

Wa qul i'maloo fasayaral laahu 'amalakum wa Rasooluhoo wal mu'minoon; wa

سَتُرْدُونَ إِلَى عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٠٥﴾

saturaddoona ilaa 'Aalimil Ghaibi washshahaadati fa yunabb'i ukum bimaa kuntum ta'maloon(105)

وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ

Wa aakharoona murjawna li amril laahi immaa yu'azzibuhum wa immaa yatoobu 'alaihim;

وَاللَّهُ عَلَيْهِ حَكِيمٌ ﴿١٠٦﴾ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِداً فِرَارًا وَكُفْرًا

wallaahu 'Aleemun Hakeem(106) Wallazeenat takhazoo masjidan diraaranw wa kufranw

وَتَفَرِّقُوا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ

wa tafreeqan bainal mu'mineena wa irsaadal liman haarabal laaha wa Rasoolahoo

مِنْ قَبْلٍ طَ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى طَ وَاللَّهُ يَشْهُدُ إِنَّهُمْ

min qabl; wa la yahlifunna in aradnaaa illal husnaa wallaahu yash hadu innahum

لَكَذِبُونَ ﴿١٠٧﴾ لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا طَ لَمْسُجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَىٰ مِنْ

lakaaziboon(107) Laa taqum feehi abada; lamasjidun ussisa 'alat taqwaa min

أَوَّلَ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ طَ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا طَ

awwali yawmin ahaqqu 'an taqooma feeh; feehi rijaalun yuhibbona 'any yata tah haroo;

وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَهَّرِينَ ﴿١٠٨﴾ أَفَمَنْ أَسَسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَىٰ

wallaahu yuhibbul muttah hireen(108) Afaman assasa bunyaanaahoo 'ala taqwaa

مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانِ خَيْرٍ أَمْ مِنْ أَسَسَ بُنْيَانَهُ عَلَى شَفَا

minal laahi wa ridwaanin khairun am man assasa bunyaanaahoo 'ala shafaa

جُرْفٌ هَارِفٌ نَاهَرٌ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ طَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ

jurfin haarin fanaara bihee fee Naari Jahannam; wallaahu laa yahdil qawmaz

معنی: اون ھڈہ اور سکھنے دی کی آڑا تو یاکہ اللہ کے برادر لہا کرنا

معنی: اون ساکن اور سکھنے دی کے بعد (بے ہوں) کی آڑا تو یاکہ اللہ (تک) میں پھیلا کر جانا

معنی: اس سب سے یاکہ اللہ کے برادر لہا کے پڑھانا اچب ہے

الظَّلَمِينَ ﴿٦٩﴾ لَا يَرَأُ بُنْيَانُهُمُ الَّذِي بَنَوْا رِبْيَةً فِي قُلُوبِهِمْ

zaalimeen(109) Laa yazaalu bunyaanu humul lazee banaw reebatan fee quloobihim

إِلَّا أَنْ تَقْطَعَ قُلُوبُهُمْ وَ إِنَّ اللَّهَ عَلَيْهِ حَكِيمٌ ﴿١٠٠﴾ إِنَّ اللَّهَ أَشْتَرَى

illaaa an taqatta'a quloobuhum; wal laahu 'Aleemun Hakeem (section 13) (110) Innal laahash taraa

مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَفْسَهُمْ وَ أَمْوَالُهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ

minal mu'mineena anfusahum wa amwaalhum bi anna lahumul jannah;

يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَ يُقْتَلُونَ وَ عَدُاؤُهُمْ عَلَيْهِ

yuqaatiloona fee sabeeil laahi fa yaqtulooona wa yuqataloona wa'dan 'alaahi

حَقًا فِي التَّوْلِيدِ وَ الْإِنْجِيلِ وَ الْقُرْآنِ وَ مَنْ أَوْفَ بِعَهْدِهِ مِنْ

haqqan fit Tawraati wal Injeeli wal Qur'aan; wa man awfaa bi'ahdihee minal

اللَّهُ فَاسْتَبَشَ وَ ابْتَيْعُكُمُ الَّذِي بَأَيْعَثْتُمْ بِهِ وَ ذَلِكَ هُوَ الْفَوزُ

laah; fastabshiroo bi bay'ikumul lazee baaya'tum bih; wa zaalika huwal fawzul

الْعَظِيمُ ﴿١٠١﴾ الْتَّابِعُونَ الْعِبْدُونَ الْخَبِدُونَ السَّابِحُونَ الْكَعُونَ

'azeem(101) At taaa'iboonal 'aabidoonal haamidoonas saaa'ihoonar raaki'oonas

السَّاجِدُونَ الْأَمْرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ

saajidoonal aamiroona bilma'rroofi wannaahoona 'anil munkari wa

الْحَفِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ وَ بَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٠٢﴾ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَ

lahaafizoona lihudoodil laah; wa bashhiril mu'mineen(112) Maa kaana lin nabiyyi wa

الَّذِينَ أَمْنَوْا أَنْ يَسْتَعْفِفُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَ لَوْ كَانُوا أُولَئِنَّ قُرْبَىٰ

llazeena aamanooo 'any yastaghfiroo lil mushrikeena wa law kaanoo ullee qurbaa

مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَبُ الْجَحِيمِ ﴿١٠٣﴾ وَ مَا كَانَ اسْتِغْفارُ

min ba'di maa tabiyana lahum annahum Ashaabul jaheem(113) Wa maa kaanas tighfaaru

إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَ عَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ

ibraaheema li abeehi illaa 'an maw'idatinw wa 'adahaaa iyyaahu falammaa tabaiyana lahooo

معنی: اون ہدھے اور سکھدھے دیکھی آدازوالیک الٰف کے برابر لامہ کرنا

بالخلف: اون سکھن اور سکھن اور سکھن سکھن کے برابر (ب) ہوں کی آدازوالیکیم (نک) میں جھگا کرچھ خدا

بھل: اس سب سے الٰف کے برابر لامہ کے برابر لامہ کے پڑھا جب ہے

أَنَّهُ عَدُوٌ لِلَّهِ تَبَرَا مِنْهُ ۝ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَا وَآخَرُ حَلِيمٌ ۝ وَمَا كَانَ

annahoo 'aduwul lillaahi tabarra a minh; inna Ibraheem la awwaahun haleem(114) Wa maa kaan
اللَّهُ لِيُفِيلَ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّىٰ يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ

laahu liyudilla qawman ba'da iz hadaahum hatta yubaiyina lahum maa yattaqoon;

إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيهِمْ ۝ إِنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۝

innal laaha bikulli shai'in 'Aleem(115) Innal laaha lahoo mulkus samaawaati wal ardi

يُحِيٌ وَيُمِيتُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ۝

yuhyee wa yumeet; wa maa lakum min doonil laahi minw waliyyinw wa laa naseer(116)

لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَجِّرِينَ وَالْأَنْصَارِ الَّذِينَ

Laqat taabal laahu 'alan nabiyi wal Muhaajireena wal Ansaaril lazeenat

اَتَبْعَوْهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقِ

taba'ooohu fee saa'atil 'usrati min ba'di maa kaada yazeeghu quloobu fariqin

مِنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ۝ وَ عَلَى الشَّرِّ

minhum thumma taaba 'alaihim; innahoo bihim Ra'oofur Raheem(117) Wa 'alas salaasatil

الَّذِينَ خَلِقُوا طَحْنَىٰ إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحْبَتْ

lazeena khullifoo hattaaa izaa daaqat 'alaihimul ardu bimaa rahabat

وَضَاقَتْ عَلَيْهِمُ أَنفُسُهُمْ وَظَنَّوْا أَنْ لَا مَلْجَأً مِنَ اللَّهِ إِلَّا

wa daaqat 'alaihim anfusuhum wa zannooo al laa malja-a minal laahi illaaa

إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا ۝ إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَابُ الرَّحِيمُ ۝

ilaihi summa taaba 'alaihim liyatooboo; innal laaha Huwat Tawwaabur Raheem (section 14) (118)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تَقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّدِيقِينَ ۝ مَا كَانَ

Yaaa aiyuhal lazeena aamanut taqlu laaha wa koonoo ma's saadiqueen(119) Maa kaana

لِأَهْلِ الْبَرِّيَّةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنْ الْأَعْرَابِ أَنْ يَتَخَلَّفُوا

li ahli Madeenati wa man hawlahum minal A'raabi ai yatakhallafoo

عَنْ رَسُولِ اللَّهِ وَ لَا يَرْغِبُوا بِأَنفُسِهِمْ عَنْ نُفْسِيهِ طَلِكَ

'ar-Rasoolil laahi wa laa yarghaboo bi anfusihim 'an nafsih; zaalika

بِإِنَّهُمْ لَا يُعِيْبُهُمْ ظَمَاءُ وَ لَا نَصَبٌ وَ لَا مَخْصَةٌ فِي سَبِيلٍ

بِإِنَّهُمْ لَا يَطْعُونَ مَوْطَئًا يَغْيِظُ الْكُفَّارَ وَ لَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ

laahi wa laa yata'ona mawti'ai yagheezul kuffara wa laa yanaaloona min 'aduwwin

نَيْلًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ طَ إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ

nailan illaa kutiba lahum bihee 'amalun saalih; innal laaha laa yudee'u ajral

الْحُسْنَيْنِ ۖ وَ لَا يُنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَ لَا كَبِيرَةً

muhsineen(120) Wa laa yunfiqoona nafa qatan sagheeratanw wa laa kabeeratanw

وَ لَا يَقْطَعُونَ وَادِيَا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيْهِمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا

wa laa yaqt'a'ona waadiyan illaa kutiba lahum liyajziyahum laahu ahsana maa

كَانُوا يَعْلُوْنَ ۖ وَمَا كَانَ الْبُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَةً فَلَوْلَا

kaanoo ya'mloon(121) Wa maa kaanal mu'minoona liyanfiroo kaaaffah; falaw laa

نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لَيَتَفَقَّهُوْا فِي الدِّينِ وَ

nafara min kulli firqatin minhum taaa'ifat liyatfaqqahoo fiddeeni wa

لِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ۖ يَا أَيُّهَا

lyunziroo qawmahum izaa raja'oo ilaihim la'allahum yahzaroon (section 15) (122) Yaaa aiyuhal

الَّذِينَ امْنَوْا قَاتَلُوا الَّذِينَ يَلُونُكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَ لَيَجِدُوا فِيْكُمْ

lazeena aamanoo qaatali lazeneen yalonakum minal kuffari walyajidoo feekum

غِلْظَةً طَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ۖ وَإِذَا مَا أُنْزَلَتْ سُورَةً

ghilzah; wa'lamooy annal laaha ma'al muttaqeen(123) Wa izaa maaa unzilat Sooratan

فَيِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هُنَّةً إِيمَانًا فَآمَّا الَّذِينَ

faminhum mai yaqoolu aiyukum zaadat hu haaziheem eemaanaa; fa ammal lazeneen

معنی: اونہوں مدد و مرکم مدد کی آزاد ایک الٰہ کے برادر لہا کرنا

معنی: اونہوں مدد و مرکم مدد کی آزاد ایک الٰہ کے برادر لہا کرنا (ب) یوں آزاد ایک الٰہ کے برادر لہا کرنا

معنی: اونہوں مدد و مرکم مدد کی آزاد ایک الٰہ کے برادر لہا کر کے پڑھا جائے

امْنُوا فَرَأَتُهُمْ إِيمَانًا وَ هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿١٢٣﴾ وَ أَمَّا الَّذِينَ

aamanoo fazaadat hum eemaanaw wa hum yastabshiroon(124) Wa ammal lazeena

فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَرَأَتُهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَ مَا تُوا

fee quloobihim maradun fazaadat hum rijsan ilaa rijsihim wa maatoo

وَ هُمْ كُفَّارٌ ﴿١٢٥﴾ أَوْ لَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً

wa hum kaafiroon(125) 'A wa laa yarawna annahum yuftanoona fee kulli 'aamin marratan

أَوْ مَرَّتَيْنِ شَمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذَكَّرُونَ ﴿١٢٦﴾ وَإِذَا مَا أُنْزَلْتُ

'aw marrataini thumma laa yatooboona wa laa hum yazzakkaroon(126) Wa izaa maaa unzilat Sooratu

سُورَةُ نَظَرٍ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ طَهْ لَهُنْ يَرَكُمْ مِنْ أَحَدٍ شَمَّ

nazara ba'duhum ilaa ba'din hal yaraakum min ahadin thumman

الْحَسَرَ فَوْا طَ صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ بِإِنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ ﴿١٢٧﴾

sarafoo; saraafal laahu qulobahum bi annahum qawmul laa yafqahoona(127)

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنفُسِكُمْ عَنِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ

Laqad jaaa'akum Rasoolum min anfusikum 'azeezun 'alaahi maa 'anittum

حَرَيْصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿١٢٨﴾ فَإِنْ تَوَلُّوْا


hareesun 'alaikum bilmu'mineena ra'oofur raheem(128)Fa in tawallaw

فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ طَعْنَتُ وَ هُوَ دَبْ

faqul hasbiyal laahu laaaa ilaha illa Huwa 'alaahi tawakkaltu wa Huwa Rabbul

الْعَرْشُ الْعَظِيمُ ﴿١٢٩﴾

'Arshil 'Azeem (section 16) (129)



Bismillaahir Rahmaanir Raheem

الْرَّ تِلْكَ آيَتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ ﴿١﴾ أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ

Alif-Laaam-Raa; tilka Aayaatal Kitaabil Hakeem (1) 'A kaana linnaasi 'aabani 'an

منزل ۳ تَقْرِيمٌ: حروف کو پڑھنی آئندگان کو حرف کو پڑھنے کا ایک ادا کاری محتوا ہے۔ اس کا معنی ہے کہ حروف کو پڑھنے کی وجہ سے اس کو ایک ادا کاری محتوا کا دیکھا جائے۔ اس کا معنی ہے کہ حروف کو پڑھنے کے لئے ایک ادا کار کے پڑھانا اچیب ہے۔

أَوْحَيْنَا إِلَى رَجُلٍ مِّنْهُمْ أَنْ أَنذِرِ النَّاسَ وَبَشِّرِ الَّذِينَ

'awhainaaa 'ilaa rajulin minhum 'an anzirin naasa wa bashshiril lazeena

أَمْنُوا أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ قَالَ الْكُفَّارُونَ

'amanoo 'anna lahum qadama sidqin 'inda Rabbihim; qaalal kaafiroona

إِنَّ هَذَا السِّحْرُ مُبِينٌ إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ

'inna haazaa la saahirun mubeen (2) Inna Rabbakumul laahul lazee khalqaas samaawaati

وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُدَبِّرُ

wal arda fee sittati aiyaamin thummas tawaa 'alal 'Arshi yudabbirul

الْأَمْرُ مَا مِنْ شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ ذُلِّكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ

amra maa min shafee'in illaa min ba'di iznih; zalikum laahu Rabbukum

فَاعْبُدُوهُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا وَعَدَ اللَّهُ

fa'budooh; afalaa tazakkaroon (3) Ilaihi marji'ukum jamee 'anw wa'dal laahi

حَقًاٌ إِنَّهُ يَبْدُوُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ لِيَجِزِيَ الَّذِينَ أَمْنُوا وَ

haqqaa; innahoo yabda'u khalqa thumma yu'eeduhoo liyajziyal lazeena aamanoo wa

عَلِمُوا الصِّلْحَتِ بِالْقُسْطِ وَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ

'amilus saalihaati bilqist; wallazeena kafaroo lahum sharaabun min

حَسِيمٍ وَ عَذَابٍ أَلَيْهِمْ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ هُوَ الَّذِي جَعَلَ

hamee minw wa 'azaabun 'aleemun bimaa kaanoo yakfuroon (4) Huwal lazeen ja'alash

الشَّمْسَ ضِيَاءً وَ الْقَمَرَ نُورًا وَ قَدَرَةً مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ

shamsa diyaaa'anw walqamara nooranw wa qaddarahoo manaazial li ta'lamoos 'adadas

السِّنِينَ وَ الْحِسَابَ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذُلِّكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ

sineena walhisaab; maa khalaqal laahu zaalika illa bilhaqq; yufassil

الْآيَتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ إِنَّ فِي اخْتِلَافِ الَّيْلِ وَ النَّهَارِ وَمَا

aayaati li qawmin ya'lamoona (5) Inna fikh tilafil laili wannahaari wa maa

معنی: اون ھڈے اور سکھ دیکی ادا اڑاکیں الگ کے بر ایسا کرنا

منزل ۳ تفہیم: حروف کو پر یعنی آدا کو حرف کرنے اور کوئی حرف کو ادا کرنے کو کہا جائے۔

باختلاف: اون سکھ ادا کو حرف یعنی آدا کو کوئی حرف (ب) ہو کی آدا کو حرف (ا) میں جیسا کچھ ہے

بیان: اس سب سے آدکیں الگ کے بر ایسا کر کے پڑھنا اجب ہے

خَلَقَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا يَتَّقُونَ إِنَّ

khalaqal laahu fis samaawaati wal ardi la aayaatin liqawmin yattaqoon (6) Innal

الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءً نَا وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَأَطْمَانُهُمَا

lazeena laa yarjoona liqaa'an wa raddoo bilhayaatid dunyaa watma' annoor

بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اِيمَانِنَا غَافِلُونَ إِنَّ أُولَئِكَ مَأْوَاهُمُ النَّارُ

bihaa wallazeena hum 'an Aayaatinaa ghaafiloon (7) Ulaaa'ika ma'waahumun Naaru

بِهَا كَانُوا يَكْسِبُونَ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَاتِ

bimaa kaanoo yaksiboon (8) Innal lazeena aamanoo wa 'amilus saalihiati

يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بِإِيمَانِهِمْ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَرُ فِي

yahdeehim Rabbuhum bi eemaanihim tajree min tahtihim anhaaru fee

جَنَّتِ النَّعِيمِ إِنَّ دَعْوَهُمْ فِيهَا سُبْحَنَ اللَّهُ وَتَحْمِيدُهُمْ

jannaatin Na'eem (9) Da'waahum feehaa Subhaanakal laahumma wa tahiyatuuhum

فِيهَا سَلَامٌ وَآخِرُ دَعْوَهُمْ أَنِّ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

feehaa salaam; wa aakhiru da'waahum anil hamdu lillaahi Rabbil 'aalameen (section 1) (10)

وَلَوْيُعِجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالُهُمْ بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ

Wa law yu'ajjilul laahu linnaasish sharra sti' jaalahum bil khairi laqudiya ilaihim

أَجْلُهُمْ فَنَذَرَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءً نَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ

'ajaluhum fa nazarul lazeena laa yarjoona liqaa'an fee tughyaanihim ya'mahoon (11)

وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنِيَّةٍ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَابِيَّاً

Wa izaa massal insaanad durru da'aanaa li jambihhee aw qaa'idan aw qaa'aliman

فَدَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَانَ لَمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرِّ مَسَّهُ كَذَلِكَ

falammaa kashafnaa 'anhu durrahoo marra ka an lam yad'unaaa ilaa durrin massah; kazaalika

زُينَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ

zuuyina lilmsrifineen maa kaanoo ya'maloon (12) Wa laqad ahlaknal quroona min

مُنْزَل٢: اون ھڈہ اور سم مھدہ دیکی ادا اڑاکیں الک کے برادر لاما کرنا

مُنْزَل٣: تغییر: حروف کو پر لینی آؤ کو جو رکھتا ہے اور سم سان گیس کے بعد (ب) ہوئی آؤ کو جو ختم (ن) میں جھپٹ کر کچھ حدا

مُنْزَل٤: اس سب سے پرانی الک کے برادر لاما کے پڑھانا اجب ہے

قَبِيلُكُمْ لَهَا ظَلَمُوا لَ وَ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَ مَا كَانُوا

qablikum lammaa zalamoo wa jaaa'at hum Rusuluhum bil baiyinaati wa maa kaanoo

لِيُؤْمِنُوا طَكْذِيلَكَ نَجِزِي الْقَوْمَ السُّجْرِيمِينَ ۝ ثُمَّ جَعَلْنَاهُمْ

liyu'minoo; kazaalika najzil qawmal mujrimeen (13) Thumma ja'alnaakum

خَلِيفَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ۝ وَ إِذَا

khalaaa'ifa fil ardi min ba'dihim li nanzura kaifa ta'maloon (14) Wa izaa

تُثْلِي عَلَيْهِمْ أَيَّاتُنَا بَيِّنَاتٍ ۝ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا أَنْتَ

tutlaa 'alaikum aayaatunaa baiyinaatin qaalal lazeena laa yarjoona liqaaa'a na'ti

بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِيلٍ ۝ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ

bi Qur'aanin ghairi haazaaa aw baddilh; qul maa yakoonu leee 'an 'ubaddilahoo min

تِلْقَائِي نَفْسِي ۝ إِنْ أَتَبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ

tilqaaa'i nafsee in attabi'u illaa maa yoohaaa ilaiya innee akhaafu in

عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ۝ قُلْ لَوْشَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ

'asaytu Rabbee 'azaaba Yawmin 'Azeem (15) Qul law shaaa'al laahu maa talawtuahoo

عَلَيْكُمْ وَلَا أَذْرِكُمْ بِهِ ۝ فَقَدْ لَيْسَتْ فِيهِمْ عُمَراً مِنْ قَبْلِهِ

'alaikum wa laaa adraakum bihee faqad labistu feekum 'umuran min qablih;

أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۝ فَمَنْ أَظْلَمُ مِنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ

afalaa ta'qiloon (16) Faman azlamu mimmanif taraa 'alal laahi kaziban aw kazzaba

كَذَّبَ بِأَيْتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ ۝ وَ يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ

bi Aayaatih; innahoo laa yuflihul mujrimoon (17) Wa ya'budoona min doonil

الَّهُ مَا لَا يُضْرِبُهُمْ وَ لَا يَنْفَعُهُمْ وَ يَقُولُونَ هُؤُلَاءِ شُفَاعَاؤُنَا

laahi maa laa yadurruhum wa laa yanfa'uhum wa yaqooloona haaa'ulaaaa'i shufaa'aaa'unaa

عِنْدَ اللَّهِ ۝ قُلْ أَتُنَبِّئُنَّ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي

'indal laah; qul 'a tunabbi 'oonal laaha bi maa laa ya'lamu fis samaawaati wa laa fil ard;

﴿٢﴾ مَنْزِلٌ مَنْزِلٌ: اونوں مکھ دیکی ادازوں کیلئے الٰہ کے برپا رہا کرنا

﴿٣﴾ تَقْرِيمٌ: حروف کو پر یعنی آدم اور کوہا رکھنا۔ قَلْمَحٌ: سارے حروف کو اکرے کرنا۔

﴿٤﴾ اخْلَاقٌ: اون سماں اخْلَاقٌ یعنی جو ہی آدم و حرف (ب) ہوں کی آنکھوں میں جھپٹ کرچکھا

﴿٥﴾ یعنی اس سب سے الٰہ کے برپا رہا کر کے پڑھانا اجب ہے

الْأَرْضِ سُبْحَنَهُ وَ تَعْلَى عَمَّا يُشَرِّكُونَ ﴿١٨﴾ وَمَا كَانَ النَّاسُ

subhaanahoo wa Ta'aalaa 'ammaa yushrikoon (18) Wa maa kaanan naasu

إِلَّا أُمَّةٌ وَاحِدَةٌ فَاحْتَلَفُوا ۚ وَلَوْلَا كَلِمَةً سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ

illaaa ummatanw waahidatan fa khtalafoo; wa law laa kalimatum sabaqat mir Rabbika

لَقِيَ بَيْنَهُمْ فِيهَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ۖ وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنْزِلَ

laqudiya bainahum fee maa feehi yakhtalifoon (19) Wa yaqooloona law laaa unzila

عَلَيْهِ أَيَّهُ مِنْ رَبِّهِ فَقُلْ إِنَّا لِغَيْبِ اللَّهِ فَالْمُتَظَّلِّ وَإِنِّي مَعَكُمْ

'alaihi aayatun mir Rabbihee faqul innamal ghaibu lillaahi fantaziroo innee ma'akum

مِنَ الْمُسْتَنْتَظِرِينَ ۖ وَإِذَا آذَنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَعَ

minal muntazireen (section 2) (20) Wa izaaa azaqnan naasa rahmatan min ba'di darraaa'a

مَسْتَهْمُ إِذَا لَهُمْ مَكْرَهٌ فِي آيَاتِنَا ۖ قُلِ اللَّهُ أَسْعَ مَكْرَهًا إِنَّ

massat hum izaa lahumm makrun fee aayaatinaa; qulil laahu asra'u makraa; inna

رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَكْرِهُونَ ۖ هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ

rusulanaa yaktuboona maa tamkuroon (21) Huwal lazee yusayyirukum fil barri walbahri

حَتَّىٰ إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلُكِ ۖ وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيْحٍ طَيْبَةٍ وَفَرِحُوا بِهَا

hattaaa izaa kuntum fil fulki wa jaraina bihim bi reehin tayyibatinw wa farihoo bihaa

جَاءَتْهَا رِيْحٌ عَاصِفٌ ۖ وَجَاءَهُمُ الْبَوْجٌ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ ۖ وَظَنَّوْا

jaaa'at haa reehun 'asifunw wa jaaa'ahum mawju min kulli makaaninw wa zannooo

أَنَّهُمْ أُحِيطُ بِهِمْ ۖ دَعَا اللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ۖ لَئِنْ أَنْجَيْتَنَا

'annahum 'uheeta bihim da'a wullaaha mukhliseena lahud deena la'in anjaitanaa

مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّكَرِيَّينَ ۖ فَلَمَّا آتَجْهُمْ إِذَا هُمْ يَغْنُونَ

min haazihee la nakoonanna minash shaakireen (22) Falammaaa anjaahum izaa hum yabghoona

فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ۖ يَا يَاهَا النَّاسُ إِنَّمَا يَغْيِيْكُمْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ مَتَّاعٌ

fil ardi bighairil haqq; yaaa aiyuhanneasu innamaas bagh yukum 'alaaa anfusikum mata'al

معنی: اون ھڈہ اور سکھ دیکھ کر آڑا لوکیں الٰہ کے برادر لہما کرتا

معنی: اون سکھ اور سکھ دیکھ کر جو حروف کو پڑھتی آڑا لوکیں اون حروف کو اکھر کردا

معنی: اون سکھ اور سکھ دیکھ کر جو آن حروف کو پڑھتی آڑا لوکیں اون حروف کو اکھر کردا

معنی: اون سکھ اور سکھ دیکھ کر جو آن حروف کو پڑھتی آڑا لوکیں اون حروف کو اکھر کردا

الْحَيَاةُ الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَنَنِيْعُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿۲۳﴾

hayaatid dunyaa thumma ilainaa marji'ukum fununabi 'ukum bimaa kuntum ta'mloon (23)

إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَبَاءٌ أَنْرَلُهُ مِنَ السَّاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ

Innamaa masalul hayaatid dunyaa ka maa'in anzalnaahu minas samaa'i fakhtalata bihee

نَبَاتُ الْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَ الْأَنْعَامُ حَتَّىٰ إِذَا آخَذَتِ

nabaatal ardi mimmaa ya'kulun naasu wal an'aam; hattaaa izaa akhazatil

الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَأَزْيَنَتْ وَقَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَدِرُونَ عَلَيْهَا لَا

ardu zukhrufahaa wazzayyanat wa zanna ahluhaaa annahum qaadiroona 'ala ihaaa

أَتَهَا أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْنَهارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَانُ لَمْ تَغُنِّ

ataahaaa amrunaa lailan aw nahaaran faja'alnaahaa haseedan ka 'an lam taghna

بِالْأَمْسِ لَكَذِيلَكَ نُفَضِّلُ الْأَيْتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ وَاللَّهُ يَدْعُونَا ﴿۲۴﴾

bil-ams; kazaalika nufasilul aayaati liqawmin yatafakkaroon (24) Wallaahu yad'ooo

إِلَى دَارِ السَّلَمِ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ لِلَّذِينَ ﴿۲۵﴾

ilaal daaris salaami wa yahdee many yashaa'u ilaa Siraatin Mustaqeem (25) Lil lazeena

أَخْسَنُوا الْحُسْنَى وَ زِيَادَةً وَ لَا يَرْهَقُ وُجُوهُهُمْ قَتَرٌ وَ لَا ذَلَّةٌ

ahsanul husnaa wa ziyadatunw wa laa yarhaq wujoohahum qatarunw wa laa zillah;

أُولَئِكَ أَصْحَبُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ ﴿۲۶﴾

ulaaa'ika ashaabul jannati hum feehaa khalidoon (26) Wallazeena kasabus saiyyi ati

جَزَاءُ سَيِّئَةٍ بِسِلْهَا وَ تَرْهِقُهُمْ ذَلَّةٌ مَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ

jazaai' u saiyyi'at bimsilhahaa wa tarhaquhum zillah; maa lahum minal laahi min

عَاصِمٌ كَانَهَا أَغْشَيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطْعًا مِنَ الْيَلِ مُظْلِمًا

'aasimin ka annamaaaa ughshiyat wujoohuhum qita'an minal laili muzlimaa;

أُولَئِكَ أَصْحَبُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ وَيَوْمَ نَحْشُ هُمْ جَمِيعًا مُمْ

ulaaa'ika Ashaabun Naari hum feeha khalidoon (27) Wa yawma nahshuruhum jamee'an thumma

معنی: اون ھڈہ اور سکھہ دیکی ادا اڑاکیں الگ کے برابر لامہ کرنا

معنی: اون سکن اور سکھی اور سکم سکن میں کے بعد (بے ہوئی آؤ تو چھیشم) (اک) میں جیسا کچھ حدا

معنی: اس سب اڑاکیں الگ کے برابر لامہ کے پڑھانا اجب ہے

نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانُكُمْ أَنْتُمْ وَشَرَكُوكُمْ فَرَأَيْلَنَا بَيْنَهُمْ

naqoolu lil lazeena ashrafkoona makaanakum antum wa shurakaaa'ukum; fazaiyalnaa bainahum

وَقَالَ شَرَكُوكُمْ مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ ۝ فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا

wa qaala shurakaaa'uhum maa kuntum iyyaanaa ta'budoon (28) Fakafaa billaahi shaheedan

بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِنْ كُنَّا عَنِ عِبَادَتِكُمْ لَغَفِيلِينَ ۝ هُنَالِكَ تَبْلُوْا

bainanaa wa bainakum in kunnaa 'an 'ibaadatikum laghaafileen (29) Hunaalika tabloo

كُلُّ نَفْسٍ مَا أَسْلَفَتْ وَرُدَّوْا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ وَضَلَّ عَنْهُمْ

kullu nafsin maaa'aslafat; wa ruddoo ilal laahi mawlaahumul haqqi wa dalla 'anhum

مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ۝ قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمْنَ

maa kaanoo yaftaaron (section 3) (30) Qul mai yarzuukum minas samaaa'i wal ardi ammany

يَمْلِكُ السَّمَاءَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ

yamlikus sam'a wal absaara wa mai yukhrrijul haiya minal maiyiti wa yukhrrijul

الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ

mai yita minal haiyi wa mai yudabbirul amr; fasa yaqoolonal laah; faqul

أَفَلَا تَتَّقَوْنَ ۝ فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا

afalaatta tattqafoon (31) Fazaalikumul laahu Rabbukumul haqq; famaaaza ba'dal haqqi illad

الْفَلْلُ ۝ فَإِنْ تُصْرَهُ فُونَ ۝ كَذِلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَىَ

dalaalu fa anna tusrafoon (32) Kazaalika haqqat Kalimatu Rabbika 'alal

الَّذِينَ فَسَقُوا أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۝ قُلْ هَلْ مِنْ شَرَكَ إِلَيْكُمْ

lazeena fasaqooo annahum laa yu'minoon (33) Qul hal min shurakaaa 'ikum

مَنْ يَبْدُوا الْخُلُقَ ثُمَّ يُعِيْدُهُ ۝ قُلِ اللَّهُ يَبْدُوا الْخُلُقَ ثُمَّ يُعِيْدُهُ

mai yabda'u khalqa thumma yu'eeduh; qulil laahu yabda'u khalqa thumma yu'eeduhoo

فَإِنْ تُؤْفَكُونَ ۝ قُلْ هَلْ مِنْ شَرَكَ إِلَيْكُمْ مَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ

fa annaa tu'fakoon (34) Qul hal min shurakaaa 'ikum mai yahdeee ilal haqq;

معنی: اون ہڈے اور سامنے ملے کیا جاؤ ایک الٰہ کے برادر لامہ کرنا

متذکرہ: حروف کو پڑھنی آئی اور کوچھ رکھنا۔ فلسفیہ: حروف کو پڑھنے سکن حرف کو اکار کرنا۔

کوچھ: الٰہ کی اور سامنے جو بھی آئیں اور کوچھ ملے جائیں۔ (تک) میں جیسا کچھ حدا

جیسا کچھ: اس سب سے ایک الٰہ کے برادر لامہ کر کے پڑھنا۔ اسپرے پڑھنے کے

معنی: ... تمیں الٰہ کے برادر لامہ پاٹیں ایک الٰہ کے برادر لامہ کر کے پڑھنا۔ اسپرے اس پاٹیں کے

قُلِ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ

qulil laahu yahdee lilhaqq; afamai yahdeee ilal haqqi ahaqu ai yuttaba'a

أَمْ لَا يَهِدِّي إِلَّا أَنَّ يَهْدِي فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ

ammal laa yahiddeee illaaa ai yuhdaa famaa lakum kaifa tahlkumoon (35)

وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرَهُمْ إِلَّا ظَنَّاً إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا

Wa maa yattabi'u aksaruhum illaa zanna; innaz zanna laa yughnee minal haqqi shai'aa;

إِنَّ اللَّهَ عَلَيْهِ بِمَا يَفْعَلُونَ وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَنْ

innal laaha 'Aleemun bimaa ya'aloon (36) Wa maa kaana haazal Qur'aanu ai

يُفْتَرَى مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ

yuftaraa min doonil laahi wa laakin tasdeeqal lazee baina yadaahi

وَتَفْصِيلُ الْكِتَابِ لَا رَبِّ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَمْ يَقُولُونَ

wa tafseelal Kitaabi laa raiba fee mir Rabbil 'aalameen (37) 'Am yaqooloonaf

إِفْتَرَاهُ قُلْ فَاتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ

taraahu qu'l fa'too bi sooratin mislihee wad'oo manis tata'tum min

دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَدِقِينَ بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا

doonil laahi in kuntum saadiqeen (38) Bal kazzaboo bimaa lam yuheetoo

بِعِلْمِهِ وَلَا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ

bi'ilmihee wa lammaa ya'tihim ta'weeluh; kazaalika kazzabal lazeena min qabilihim

فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ

fanzur kaifa kaana 'aaqibatuz zaalimeen (39) Wa minhum maiyu'min bihe

وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُسْفِسِدِينَ وَإِنْ

wa minhum mal laa yu'min bih; wa Rabbuka al'amu bilmufsideen (section 4) (40) Wa in

كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِيْ عَمَلِيْ وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَتْمُمْ بَرِيْئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ

kazzabooka faqil lee 'amalee wa lakum 'amalukum antum bareee'ona mimmaaa a'malu

منزل ۳ تفہیم: حروف کو پڑھنے سکن جس کو اپنے لامہ کرنا

● علیقہ: اون چھڈے اور سم مٹھے دیکھا ادا ذریکہ اللہ کے برادر لامہ کرنا

● بالخدا: اون سماں ادا ذریکہ اور سم مٹھے دیکھا ادا ذریکہ اللہ (ب) ہوں کی آدمیوں کی خشی (ت) میں جھپٹ کرچھ خدا

● بھلی: اس سہی ادا ذریکہ اللہ کے برادر لامہ کر کے پڑھانا اجب ہے

وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٢٣﴾ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَعِنُونَ إِيَّاكَ أَفَلَمْ

wa ana bareee'um mimmaa ta'maloon (41) Wa minhum mai yastami'oona iliak; afa anta

تُسْبِعُ الْحَمْدَ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ ﴿٢﴾ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظَرُ إِلَيْكَ

tusmi'us summa wa law kaanoo laa ya'qiloon (42) Wa minhum mai yanzuru ilaik;

أَفَأَتَتْ تَهْدِي الْعُمَىٰ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبَصِّرُونَ ﴿٣٣﴾ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ

afa anta tahdil 'umya wa law kaanoo laa yubsiroon (43) Innal laaha laa yazlimun

النَّاسُ شَيْئًا وَلَكِنَ النَّاسُ أَذْفَسُهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿٢٣﴾ وَيَوْمَ يَحْشُّهُمْ

naasa shai'anw wa laakin nannaasa anfusahum yazlimoon (44) Wa Yawma yahshuruhum

بَلْ وَمَنْ يُكَفِّرُ بِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

كَمْ يَبْتَوِرُ لِسَانُهُ إِذْ يَعْدُ عَوْنَ بِيَمِّهِ
ka'an lam yalbasooo illaa saa'atan minan nahaari yata'aarafoona bainahum; qad

• 3 • 1 3 9 1 3 9 | - - 3 - 3 9 1 3 9 1 3 9 | - - 3 - 3 9 1 3 9 1 3 9 | - - 3 -

khasir al-lazeen kazzaboo bi liqaa'il laahi wa maa kaanoo muhtadeen (45) Wa imma

وَمِنْهُمْ مَنْ يَرْجُو أَنْ يُؤْتَى مَالاً وَمِنْهُمْ مَنْ يَرْجُو إِنْ يُؤْتَى مَالاً

nuriyannaka ba'dal lazee na'iduhum aw natawaffayannaka fa ilainaa marji'uhum

شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ ﴿١٢﴾

thummal laahu shaheedun 'ala maa yaf'aloon (46) Wa likulli ummatir Rasoolun ta'iza

Digitized by srujanika@gmail.com

jaaa a Rasoolunum qudiya bainanum biqisti wa hum laa yuzlamoon (47) wa

• [About](#) | [Contact](#) | [Privacy Policy](#) | [Terms of Service](#)

لَنَفْسِهِ لَمَّا شَاءَ اللَّهُ لَكُمْ أَمْةً أَخَاهُ اذَا حَاءَ

linafsee darranw wa laa naf'an illaa maa shaaa'al laah; likulli ummatin ajalun izaa jaaa'a

٣٩ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَ لَا يَسْتَقْدِمُونَ

منزل ۳ تفہیم: حروف کو پڑھنے اور ادا کرکے الف کے پڑھانے کا کام۔ باہر کارنا
گلخا: بون سکن اور کوئی نرم سماں میں کے پڑھنے (ب) ہو۔ آئندہ دن اسکی ادا کر کرچھ
جھٹکا: اس کا کام ایسا الف کے پڑھانے کے پیش کے

أَرَعَيْتُمْ إِنْ أَتَكُمْ عَذَابٌ بَيْتًا أَوْنَهَا رًا مَاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ

'a ra'aytum in ataakum 'azaabuhoo bayaatan aw nahaaraa maazaa yasta'jilu minhul

الْمُجْرِمُونَ ۴۷ أَثْمَّ إِذَا مَا وَقَعَ أَمْتَمْ بِهِ أَكْنَ وَقَدْ كُنْتُمْ بِهِ

mujrimoon (50) 'A thumma izaa maa waqa'a aamantum bih; aaal 'aana wa qad kuntum bihee

تَسْتَعْجِلُونَ ۵۱ ثُمَّ قَيْلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ

tasta'jiloon (51) Thumma qeela lii lazeena zalamoo zoqoo 'azaabal khuldi

هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ ۵۲ وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقُّ هُوَ

hal tujzawna illaa bimaa kuntum taksiboon (52) Wa yastanbi'oonaka 'a haqqun huwa

قُلْ إِنِّي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ وَمَا آتَتُمْ بِمُعْجِزِينَ ۵۳ وَلَوْ أَنَّ

qul ee wa Rabbee innahoo lahaqq; wa maaa antum bimu'jizeen (section 5) (53) Wa law anna

لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ وَآسِرُوا

likulli nafsin zalamat maa fil ardi laftadat bih; wa asarrun

الشَّادِمَةَ لَمَّا رَأَوْا الْعَذَابَ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقُسْطِ وَهُمْ

nadaamata lammaa ra awul 'azaab, wa qudiya bainahum bilqist; wa hum

لَا يُظْلَمُونَ ۵۴ أَلَا إِنَّ اللَّهَ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَلَا إِنَّ

laa yuzlamoon (54) Alaaa inna lillaahi maa fis samaawaati wal ard; alaaa inna

وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۵۵ هُوَ يُحْيِي وَيُمْيِتُ

wa'dal laahi haqqunwa wa laakinna aksaruhum laa ya'lamoon (55) Huwa yuhyye wa yumeetu

وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۵۶ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتُكُمْ مَوْعِظَةً مِنْ

wa ilaihi turja'oон (56) Yaaa aiyuhan naasu qad jaaa'atkum maw'izatun mir

رَبِّكُمْ وَشَفَاعَ لِيَنِ الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِلْمُؤْمِنِينَ ۵۷

Rabbikum wa shifaa'ul limaa fis sudoori wa hudanu wa rahmatul lil mu'mineen (57)

قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذِلِكَ فَلَيَفْرُ霍ُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا

Qul bi fadlil laahi wa bi rahmatihee fi bi zaalika fal yafrahoo huwa khairun mimmaa

يَحْمُونَ ﴿٥٨﴾ قُلْ أَرَعِيهِمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَبَحْتُمْ

yajma'oon (58) Oul ara'aитum maaa anzalal laahu lakum mir rizqin faja'altum

مِنْهُ حَرَامًا وَ حَلَالًا ۖ قُلْ اللَّهُ أَذْنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ ﴿٥٩﴾

minhu haraamanw wa halaalan qul aaallaahu azina lakum; am 'alal laahi taftaroon (59) Wa

مَا ظَنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيَمةِ إِنَّ

maa zannul lazeena yaftaroona 'alal laahil kaziba Yawmal Qiyaamah; innal

اللَّهُ لَذُو فَضْلِ النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ ﴿٦٠﴾

laaha lazoo fadlin 'alan naasi wa laakinna aksarahuun laa yashkuroon (section 6) (60) Wa

تَكُونُ فِي شَاءٍ وَمَا تَشْتُلُوا مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ

maa takoonu fee sha'ninw wa maa tatloo minhu min qur'aaninw wa laa ta'maloona min

۲۰۱۷ | ۱۰۰ | ۹۰ | ۸۰ | ۷۰ | ۶۰ | ۵۰ | ۴۰ | ۳۰ | ۲۰ | ۱۰ | ۰

سِنِ إِلَّا نَا عَلَيْكُمْ شَهُودًا إِذْ لَعِنْتُمْ فِيهِ وَمَا يَعْزِبُ 'amalin illaa kunnaa 'alaikum shuhoodan iz tufeedoona feeh; wa maa ya'zubu

'ar Rabbika min misqaali zarratin fil ardi wa laa fis samaaa'i wa laaa

أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ ﴿٦١﴾ أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ

asghara min zaalika wa laaa akbara illaa fee Kitaabin Mubeen (61) Alaa innaa awliya'yal

وَالْمُؤْمِنُونَ الْمُؤْمِنَاتُ الْمُؤْمِنَاتُ الْمُؤْمِنَاتُ الْمُؤْمِنَاتُ

يَتَّقُونَ لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ ۚ لَا
يَأْمُلُونَ
٦٢

yattaqoon (63) Lahumul bushraa fil hayaatid dunyaa wa fil Aakhirah; laa

تَبْدِيل لِكَلِمَاتِ اللَّهِ ذَلِكُ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿٢٣﴾ وَلَا يَحْنُكُ

tabdeela li kalimaatil laah; zaalika huwal fawzul 'azeem (64) Wa laa yahzunka

قُولُهُمْ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَبِيعًاٰ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٦٥﴾ **أَلَا إِنَّ لِلَّهِ**

منزل ۲ تفہیم: معروف کو پہنچانی اور مکار کا گھنٹا
لکھنا: اون سکن اور کوئی اور سماں کی جس کے بعد (ب) میں مچا کر پڑھنا
کھو رکھنا: الگ کی دوسری کوئی ایسا کام کہ اس کا پتہ نہ ہے
پہنچنا: اس کے لئے کام کی کوئی بھروسہ نہ ہے

مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ ۚ وَ مَا يَتَبَعُ الدَّيْنَ يَدْعُونَ

man fis samaawaati wa man fil ard; wa maa yattabi'ul lazeena yad'oona

مِنْ دُونِ اللَّهِ شَكَاءٌ ۖ إِنْ يَتَبَعُونَ إِلَّا الظَّنُّ ۖ وَ إِنْ هُمْ إِلَّا

min doonil laahi shurakaa'; iny yattabi'oon illaz zanna wa in hum illaa

يَخْرُصُونَ ۝ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَ النَّهَارَ

yakhrusoon (66) Huwal lazee ja'ala lakumul laila litaskunoo feehi wannahaara

مُبِصِّرًا ۖ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَسْعَوْنَ ۝ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ

mubsiraa; inna fee zaalika la Aayaatil li qawmin yasma'oon (67) Qaalut takhazal laahu

وَلَدًا سُبْحَنَهُ هُوَ الْغَنِيُّ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَ مَا فِي الْأَرْضِ ۖ إِنْ

waladan Subhaanahoo Huwal Ghaniyyu laho maa fis samaawaati wa maa fil ard; in

عِنْدَكُمْ مِنْ سُلْطَنٍ بِهَذَا ۖ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۝

'indakum min sultaanin bihaazaa; a' taqooloona 'al allaahi maa laa ta'lamoona (68)

قُلْ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذَبَ لَا يُفْلِحُونَ ۝

Qul innal lazeena yaftaroona 'al allahil kaziba laa yuflahoona (69)

مَتَاعٌ فِي الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نُذَيِّقُهُمُ الْعَذَابَ

Mataa'un fiddunya thumma ilainaa marji'uhum thumma nuzeequhumul 'azaabash

الشَّدِيدَ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ۝ وَ اتُلُّ عَلَيْهِمْ نَبَانُوحٍ إِذْ قَالَ

shadeeda bimaa kaanoo yakfuroon(section 7) (70) Watlu 'alaikum naba-a-Noohin iz qaala

لِقَوْمِهِ يُقَوِّمِ إِنْ كَانَ كَبُرٌ عَلَيْكُمْ مَقَامٌ وَ تَذَكِّرِي بِإِيمَانِ

liqawmihee yaa qawmi in kaana kabura 'alaikum maqaamee wa tazkeeree bi Aayaatil

الَّهُ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَاجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَ شَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يُكَنْ

laahi fa'alal laahi tawakkaltu fa ajmi'ooo amrakum wa shurakaa'akum thumma laa yakun

أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غَيْثَةٌ ثُمَّ اقْضُوا إِلَيْهِ وَ لَا تُنْظِرُونَ ۝ فَإِنْ تَوَلَّتُمْ

amrakum 'alaikum ghummataan thummaq dooo ilaiya wa laa tunziroon (71) Fa in tawallaitum

منزل ۳ ﴿تَقْرِيبُ حَدِيثِ دَوْلَةِ مَهْدِيٍّ وَ إِذْلِيلُ الْفَلَقِ﴾ کے برابر لامہ کرنا

﴿إِذْلِيلُ الْفَلَقِ﴾، دُوَلَةِ مَهْدِيٍّ اور دَوْلَةِ مَهْدِيٍّ کے بھر (ب) یا آئُوْلَوْجِیَّت (تاک) میں سچا کر جانا

﴿بَلْ ۝ إِنْ سَبَّ الْفَلَقَ﴾ کے برابر لامہ کر کے پڑھا جائے

﴿بَلْ ۝ إِنْ الْفَلَقَ﴾ کے برابر لامہ کر کے پڑھا جائے

فَبَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ

famaa sa altukum min ajrin; in ajriya illaa 'al allaahi wa umirtu an

اَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿٧﴾ فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي

akoona minal muslimineen (72) Fa kazzaboo fa najjainaahu wa man ma'ahoo fil

الْفُلُكِ وَجَعَلْنَاهُ خَلِيفَ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِاِيْتِنَا

fulki wa ja'alnaahum khalaatifa wa aghraqna lazeena kazzaboo bi aayaatinaa

فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنْذَرِينَ ﴿٧٣﴾ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِ

fanzur kaifa kaana 'aqibatul munzareen (73) Thumma ba'asnaa min ba'dihii

رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَيَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا

Rusulan ilaa qawmihim fajaa'ohum bil baiyinati famaa kaanoo liyu'minoo bimaa

كَذَّبُوا بِهِ مِنْ قَبْلٍ كَذِيلَ نَطَبَعُ عَلَى قُلُوبِ الْمُعْتَدِلِينَ ﴿٧٤﴾

kazzaboo bihee min qabl; kazaalika natba'u 'alaa qulobil mu'tadeen (74)

ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَى وَهُرُونَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَائِيهِ

Thumma ba'asnaa min ba'dihim Moosaa Wa Haaroon ilaa Fir'awn wa mala'ihee

بِإِيْتِنَا فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ ﴿٧٥﴾ فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ

bi aayaatinaa fastakbaroo wa kaanoo qawman mujrimeen (75) Falammaa jaaa'ahumul

مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا إِنَّ هَذَا لِسِحْرٍ مُبِينٌ ﴿٧٦﴾ قَالَ مُوسَى اتَّقُولُونَ

haqqu min 'indinaa qaalooy inna haazaa la sihrun mubeen (76) Qaalaa Moosaa 'a taqooloona

لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَكُمْ أَسِحْرٌ هَذَا وَلَا يُفْلِحُ السِّحْرُ وَنَ

lil haqqi lammmmaa jaaa'a kum 'a sihrun haazaa wa laa yuflihus saahiroon (77) Qaaloo

أَجْعَثْنَا لِتَلْفِتَنَا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ أَبَأْعَنَا وَتَكُونَ لَكُمَا الْكِبْرِيَاءُ

aj'utnana litalfitanaa 'ammaa wajadnaa 'alaahi aabaaa'anaa wa takoona lakumal kibriyaa'u

فِي الْأَرْضِ وَمَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ ﴿٧٨﴾ وَقَالَ فِرْعَوْنُ اتَّقُونِ

fil ardi wa maa nahnu lakumaa bi mu'mineen (78) Wa qaala Fir'awnu' toonee

معنی: اون ڈھوندے اور سکھ دی کیا ادا ذریکی الف کے برادر لام کرنا

منزل ۳ تلفیخ: حروف کو پڑھنی آئندگی اور کوچار کرنے کا حرف، ساکن حرف کو کار کرنے کا حرف

معنی: اون ساکن ادا ذریکی اور سکھ دی کیا آدا ذریکی حروف (ب) ہوئی آدا ذریکی حروف (ت) میں جھپٹ کر کرنا

معنی: اس سب سے لاکی الف کے برادر لام کر کے پڑھانا اجب ہے

بِطْلُ سَحْرٍ عَلَيْمٌ ﴿٦﴾ فَلَمَّا جَاءَ السَّحْرَةُ قَالَ لَهُمْ مُوسَى الْقَوَا

bikulli saahirin 'aleem (79) Falammaa jaaa'assa haratu qaala lahum Moosaa alqoo

مَا أَنْتُمْ مُلْقُونَ ﴿٧﴾ فَلَمَّا أَقْوَاهُمْ قَالَ مُوسَى مَا جِئْتُمْ بِهِ

maaaa antum mulqoon (80) Falammaaa alqaw qaala Moosaa maa ji'tum bihis

السِّحْرُ إِنَّ اللَّهَ سَيِّبِطُلُهُ ﴿٨﴾ إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ

sihr; innal laaha sa yubtiluhoo; innal laaha laa yuslihu 'amalal mufsideen (81)

وَيَعْلَمُ اللَّهُ الْحَقُّ بِكُلِّ هِبَةٍ وَلَوْكِرَةِ الْمُجْرِمُونَ ﴿٩﴾ فَمَآ أَمَنَ لِمُوسَى

Wa yuhiqqu laahul haqqa bi Kalimaathee wa law karihal mujrimoon (section 8) (82) Famaaa aamana li-Moosaa

إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِنْ قَوْمِهِ عَلَى حُوفِ مِنْ فِرْعَوْنَ وَ مَلَائِيمُهُ

illaa surriyyatun min qawmihee 'alaa khawfin min Fir'awna wa mala'iim

أَنْ يَفْتَنَهُمْ وَ إِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ وَ إِنَّهُ لَيَنِ

'any yaftinahum; wa inna Fir'awna la'aalin fil ardi wa innahoo laminal

الْمُسْرِفِينَ وَ قَالَ مُوسَى يَقُولُ إِنْ كُنْتُمْ أَمْنَتُمْ بِاللَّهِ

musrifeen (83) Wa qaala Moosaa yaa qawmi in kuntum aamantum billaahi

فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُسْلِمِينَ ﴿١٠﴾ فَقَالُوا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا

fa'alahi tawakkaloo in kuntum muslimeen (84) Faqaaloo 'alal laahi tawakkalnaa

رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ الظَّلِمِينَ ﴿١١﴾ وَنَجِنَا بِرَحْمَتِكَ

Rabbanaa laa taj'alnaa fitnata lilaqawmiz zaalimeen (85) Wa najjinaa birahmatika

مِنَ الْقَوْمِ الْكُفَّارِينَ ﴿١٢﴾ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ مُوسَى وَأَخِيهِ أَنْ تَبَوَّا

minal qawmil kaafireen (86) Wa awhainaaa ilaa Moosaa wa akheehi an tabaw wa aali

لِقَوْمٍ كَيْمَانِصَّا بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ

qawmikuma bi Misra buyootanw waj'aloo buyootakum qiblatanw wa aqeemus Salaah;

وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٣﴾ وَقَالَ مُوسَى رَبَّنَا إِنَّكَ أَتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَ

wa bashshiril mu'mineen (87) Wa qaala Moosaa Rabbanaaa innaka aataita Fir'awna wa

﴿٦﴾ قَلْقَلْه: حروف کو پڑھنی آئندگان اور کوچک رکھنا۔ قَلْقَلْه: حروف کو پڑھنی آئندگان اور کوچک رکھنا۔

﴿٧﴾ بَلْخَه: نام سکنی اور بخوبی اور سکم سکنی میں کے آنکھ (بَلْخَه) میں بھیجا کر جانا۔

﴿٨﴾ بَلْخَه: اس سب سے بڑی الگ کے برادر لہا کر کے پڑھنا اجب ہے۔

مَلَأَهُ زِينَةٌ وَّ أَمْوَالًا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لَرَبَّنَا لَيُضْلُّوا عَنْ

mala aaho zeenatanw wa amwaalan fil hayaatid dunyaa Rabbanaa liyudillo 'an

سَبِيلِكَ رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَىٰ أَمْوَالِهِمْ وَأَشْدُّ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ

sabeeлиka Rabbanat mis 'alaaa amwaalihim washdud 'alaa quloobihim

فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّىٰ يَرُوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ﴿٨٨﴾ **قَالَ قَدْ أُجِيبْتُ**

falaal yu'minoo hatta yarawul 'azaabal aleem (88) Qaala qad ujeebad

دَعَوْتُكُمَا فَاسْتَقِيَّا وَلَا تَتَّبِعُنِي سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٨٩﴾

da'watukumaa fastaqueema wa laa tattabi'aanni sabeeal lazeena laa ya'lamoona (89)

وَجَوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَاتَّبَعُهُمْ فِرْعَوْنُ وَ جُنُودُهُ

Wa jaawaznaa bi Baneee Israaa'eelal baha fa atba'ahum Fir'awnu wa junooduhoo

بَغْيَا وَ عَدْوَا طَحْتَىٰ إِذَا أَذْرَكَهُ الْغَرْقُ ﴿٩٠﴾ **قَالَ أَمَنَّتُ آنَّهُ لَا إِلَهَ**

baghyanw wa 'adwaa; hattaaa izaaa adrakahul gharaqu qaala aamantu annahoo laaa ilaaha

إِلَّا إِلَّذِي أَمَنَّتُ بِهِ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَ أَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿٩١﴾

illal lazeee aamanat bihee Banooo Israaa'eela wa ana minal muslimeen (90)

أَكُنْ وَ قَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَ كُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ ﴿٩٢﴾ **فَالْيَوْمَ**

Aaal 'ana wa qad 'asaita qablu wa kunta minal mufsideen (91) Falyawma

نُنْجِيَكَ بِبَدِينَكَ لِتَكُونَ لِيَنْ خَلْفَكَ أَيْةً وَ إِنَّ كَثِيرًا مِنَ

nunjaeeka bibadanika litakoonna liman khalfaka Aayah; wa inna kaseeran minan naasi

النَّاسِ عَنْ أَيْتَنَا لَغْفِلُونَ ﴿٩٣﴾ **وَلَقَدْ بَوَأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأً**

'an aayaatinaa laghaafiloona (section 9) (92) Wa laqad bawwa'naa Baneee Israaa'eela mubawwa

صَدِيقٌ وَ رَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ **فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّىٰ جَاءَهُمْ**

'a sidqinwa razaqnaahum minat taiyibaati fa makhtalafoo hattaa jaaa'ahum

الْعِلْمُ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيهَا كَانُوا

'ilm; inna Rabbaka yaqdee bainahum Yawmal Qiyaamatii feemaa kaanoo

معنی: اون ہڈی دار کم مدد کی ادا ذریکی الف کے برادر لہا کرنا

معنی: اون ساکن اور کم ساکن جی کے بعد (ب) ہوئی آؤ تو یہ شہم (تک) میں پھیلا کر جائے

معنی: اس سب ادیک کے برادر لہا کے پڑھانا اجب ہے

فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿٢﴾ فَإِن كُنتَ فِي شَكٍ مِّمَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ فَسُئِلْ

feehi yakhtalifoon (93) Fa in kunta fee shakkin mimmaaa anzalnaaaa ilaika fas'alil

الَّذِينَ يَقْرَءُونَ الْكِتَبَ مِنْ قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِنْ

lazeena yaqra'oonal Kitaaba min qablik; laqad jaaa'akal haqqu mir

رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُهَتَّرِينَ ﴿٣﴾ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ

Rabbika fa laa takoonanna minal mumtareen (94) Wa laa takoonanna minal lazeena

كَذَّبُوا بِأَيْتِ اللَّهِ فَتَكُونُ مِنَ الْخَسِيرِينَ ٩٥

kazzaboo bi Aayaatil laahi fatakoona minal khaasireen (95) Innal lazeena haqqat

عَلَيْهِمْ كُلِّتُ دِبَكَ لَا يُؤْمِنُونَ ۖ وَ لَوْ جَاءُهُمْ كُلُّ أَ

'alaihim Kalimatu Rabbika laa yu'minoon (96) Wa law jaaa'at hum kulla Aayatin

٩٤ فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةً أَمْنَثُ حَتَّىٰ يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ

hattaa yarawul 'azaabal aleem (97) Falaw laa kaanat qaryatun aamanat

فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمٌ يُونُسٌ طَلَّبُوا أَمْنًا وَكَشَفَنَا عَنْهُمْ

فَإِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ هُوَ الْمُنْتَصِرُونَ إِنَّمَا يَنْهَا مُشَكِّرٌ عَنِ الْأَقْرَبِينَ

¹Based on 1111 individuals from the 2000 U.S. Census. See also Table 1.

وَلَهُ شَاءَ رِبُّكَ لَا مَنْ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ حَسِيعًا طَافَأَنْتَ

Watermark: Published by arrangement with the Author

١٧ تُكَبِّرُ النَّاسُ حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ۝ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ

tukrim, nesse hattas ylekkoneen sulmijan (90). Wc pääs kaan linofiliaan.

تُؤْمِنَ إِلَّا يَأْذِنُ اللَّهُ ۖ وَيَجْعَلُ الرَّحْسَ عَلَى الَّذِينَ

tu'mina illaa bi iznil laab; wa ya'i'alur riisa 'alal Jazeena

لَا يَعْقِلُونَ ﴿١٠﴾ قُلْ انْظُرْ وَامَّا ذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْمَا

ja ya'qiloon (100) Qulin zuroo maazaa fissamaawaati wal ard: wa maa

منزل ۳ تفعیہ: حروف کی پہلی اور آخری الف بے پر ایسا کہنا
کہوری، بالکی اور کوئی نہیں کہے جائے (ایسا کہنا کہوری نہیں)۔ اس کے پر ایسا کہنا
دیکھا جائے۔ اس کے پر ایسا کہنا کہے جائے۔ اس کے پر ایسا کہنا کہے جائے۔

تُعِنِي الْأَيْتُ وَ النَّذْرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿١٠١﴾ فَهَلْ

tughnil Aayaatu wannuzuru 'an qawmil laa yu'minoon (101) Fahal

يَتَظَرُّونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلُوا مِنْ قَبْلِهِمْ قُلْ

yantaziroona illaa misla ayyamil lazeena khalaw min qablihim; qu!

فَانْتَظُرُّ وَا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظَرِينَ ﴿١٠٢﴾ ثُمَّ نُنْجِيُ رُسُلَنَا

fantaziroo innee ma'akum minal muntazireen (102) Thumma munajjee Ruslanaa

وَالَّذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ حَقًا عَلَيْنَا نُجُجُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٠٣﴾ قُلْ يَا يَاهَا

wallazeena aamanoo; kazaalika haqqan 'alaina nunjil mu'mineen (section 10) (103) Qul yaaa ayyuhan

النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي شَكٍ مِنْ دِيْنِي فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ

naasu in kuntum fee min deenee fa laa a'budul lazeena

تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَ لِكُنْ أَعْبُدُ اللَّهَ الَّذِي يَتَوَفَّكُمْ

ta'budoona min doonil laahi wa laakin a'budul laahal lazee yatawaffaakum

وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٠٤﴾ وَ أَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ

wa umirtu an akoona minal mu'mineen (104) Wa an aqim wajhaka

لِلَّذِينَ حَنِيفًا وَ لَا تَكُونُنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿١٠٥﴾ وَ لَا تَدْعُ مِنْ

liddeeni Haneefanw wa laa takoonanna minal mushrikeen (105) Wa laa tad'u min

دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَ لَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَدْتَ فَإِنَّكَ إِذَا مِنْ

doonil laahi maa laa yanfa'uka wa laa yadurruk; fa in fa'alta fa innaka izam minaz

الظَّلَمِيْنَ ﴿١٠٦﴾ وَ إِنْ يَسْسِكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَ إِنْ

zaalimeen (106) Wa iny yamsaskal laahu bidurrin falaa kaashifa lahoo illaa hoo; wa iny

يُرِدُكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَآدَ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ

yuridka bikhairin falaa raaadda lifadlih; yuseebu bihee many yashaa'u min 'ibaadih;

وَ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿١٠٧﴾ قُلْ يَا يَاهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ

wa huwal Ghafoorur Raheem (107) Qul yaaa ayyuhan naasu qad jaaa'akumul haqq mir

● نقاش: اون ہڈہ اور سکھ دیکی ادا ذرا کیاں الف کے برادر لاما کرنا
● منزل ۳ نقاشیم: حروف کو پڑھنی آئی اور کوچار کشا
● مکون: الف کی آوارگی اور سکھ میں کے آوارگی (ب) ہوں آئی اور مکون میں جیسا کچھ حدا
● بیچنے: اس سب سے ایک الف کے برادر لاما کے پڑھا جسے
● منزلي .. تمیں الف کے برادر پائیں الف کے برادر لاما کے پڑھا جسے

رَبُّكُمْ فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضلَّ



Rabbikum; famanih tadaa fa innamaa yahtadee li nafsih; wa man dalla

فَإِنَّمَا يُفْلِحُ عَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُم بِوَكِيلٍ ﴿٢٨﴾

fa innamaa yadillu 'alaihaa; wa maaa ana 'alaikum bi wakeel (108) Wattabi' maa yoohaaa

إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّىٰ يَحُكُّمَ اللَّهُ ۖ وَهُوَ خَيْرُ الْحَكَمِينَ

ilaika wasbir hattaa yahkumal laah; wa Huwa khairul haakimeen (section 11) (109)



Bismillaahir Rahmaanir Raheem

الرَّ كِتَبْ أُحْكِمَتْ أَيْتَهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ

Alif-Laaam-Raa; Kitaabun uhkimat Aayaatuhoo summa fussilat mil ladun Hakeemin Khabeer (!)

اللَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهُ أَنَّ فِي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ وَّ بَشِيرٌ وَّ أَنْ

Allaa ta'budooo illal laah; innanee lakum minhu nazeerunw wa basher (2) Wa anis

اَسْتَغْفِرُ لِلّٰهِ يُبَدِّلُ مَا تَعْمَلُونَ

taghfiroo Rabbakum summa toobooo ilaihi yumatti'kum mataa'an hasanan

إِلَى أَجَلٍ مُسْمًى وَ يُؤْتَى كُلُّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ طَ وَإِنْ

ilaaa ajalim musammanw wa yu'ti kulla zee fadlin fadlahoo wa in

تَوَلُّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ ﴿٢﴾ إِلَى اللَّهِ

tawallaw fa inneee akhaafu 'alaikum 'azaaba Yawmin Kabeer (3) Ilal laahi

مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٣﴾ آلَآ إِنَّهُمْ يَشْنُونَ

marji'ukum wa Huwa 'alaa kulli shai'in Qadeer (4) Alaa innahum yasnoona

صُدُورُهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ ۚ أَلَا حِينَ يَسْتَغْشُونَ شِيَابَهُمْ ۖ

sudoorahum liyastakhfoo minh; alaa heena yastaghshoona siyaabahum

يَعْلَمُ مَا يَسِّرَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصَّدُورِ

u maa yusirroona wa maa yu'linoon; innahoo 'aleemun bizaatis sudoor **(End Juz 11) (5)**

منزل ۲ تلقیہ: عروف کو پڑھنے کا ادراکِ الٰہ کے برایہ کرنا
 لفظ: دون ساکن اخوت کو ادراکِ مان کرنے کے بعد (ب) میں پہاڑ پر حدا
 کوئی رالی اسی ادراک کو کر دیں اور اپنے اخوت کو اسی ادراک کے پیش
 کر دیں۔ اسی ادراک کے پیش کر دیں اور اپنے اخوت کے پیش کر دیں۔

وَمَا مِنْ دَآبَةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَ يَعْلَمُ

Wa maa min daaabbatin fil ardi illaa 'alal laahi rizquhaa wa ya'lamu

مُسْتَقْرَّهَا وَ مُسْتَوْدِعَهَا كُلُّ فِي كِتْبٍ مُّبِينٍ ﴿٦﴾ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ

mustaqarrahaa wa mustawda'aaha; kullen fee Kitaabim Mubeen (6) Wa Huwal lazee khalaqas

السَّمَوَاتِ وَ الْأَرْضَ فِي سِتَّةٍ أَيَّامٍ وَ كَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ

samaawaati wal arda fee sittati aiyaaamin wa kaana 'Arshuhoo alal maaa'i

لِيَعْلُوْكُمْ أَيْكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً وَلَئِنْ قُلْتَ إِنْكُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ

liyabluwakum aiyukum ahsanu 'amalaa; wa la'in qulta innakum mab'oosoona min

بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سُحْرٌ مُّبِينٌ ﴿٧﴾

ba'dil mawti la yaqoolannal lazeena kafaroo in haazaaa illaa sihrum mubeen (7)

وَلَئِنْ أَخْرَنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَى أُمَّةٍ مَعْدُودَةٍ لَيَقُولُنَّ مَا

Wala'in akharnaa 'anhulum 'azaaba ilaaa ummatim ma'doodatil la yaqoolunna maa

يَخِسُّهُ إِلَّا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَ حَاقَ بِهِمْ

yahbisuh; alaa yawma ya'teemh laisa masroofan 'anhum wa haaqa bihim

مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ﴿٨﴾ وَلَئِنْ أَذْقَنَا إِلَّا إِنَّمَا مِنَّا رَحْمَةٌ ثُمَّ

maa kaanoo bihee yastehzooon (section 1) (8) Wa la'in azaqnal insaana minnaa rahmatan summa

نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَؤُسْ كَفُورٌ ﴿٩﴾ وَلَئِنْ أَذْقَنَهُ نَعْبَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ

naza'nahaa minhu, innahoo laya'oosun kafoor (9) Wala'in azaqnaahu na'maaa ba'da darraaa'a

مَسْتَهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيَّاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفِرَحٌ فَخُورٌ ﴿١٠﴾ إِلَّا الَّذِينَ

massat hu la yaqoolanna zahabas sayiaatu 'annee; innahoo lafarihun fakhoor (10) Illal lazeena

صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصِّلْحَتِ أُولَئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَ أَجْرٌ كَبِيرٌ ﴿١١﴾

sabaroo wa 'amilus saalihiati ulaaa'iaka lahum maghfiratunw wa ajrun kabeer (11)

فَلَعْلَكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَ ضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَنْ

Fala'allaka taarikum ba'da maa yoohaaa ilaika wa daaaa'iqum bihee sadruka ai

﴿٦﴾ لَعْنَهُ: اُونَّ هَذِهِ اُونَّ هَذِهِ دُوَّرَهُ مَهْرَهُ دُوكِيَّهُ آدَلَوَلِكَ الْفَلَكَ كَبِيرَلِهِ كَرَنَّا

﴿٧﴾ تَقْتِيمَهُ: حِروفَ كُوپِيَتِيَّهُ آدَلَوَلِكَ الْفَلَكَ كَبِيرَلِهِ كَرَنَّا

﴿٨﴾ لَعْنَهُ: اُونَّ سَكَنَ اُونَّ هَذِهِ دُوكِيَّهُ مَهْرَهُ دُوكِيَّهُ آدَلَوَلِكَ الْفَلَكَ كَبِيرَلِهِ كَرَنَّا

﴿٩﴾ بَعْنَهُ: اُونَّ سَكَنَ اُونَّ هَذِهِ دُوكِيَّهُ مَهْرَهُ دُوكِيَّهُ آدَلَوَلِكَ الْفَلَكَ كَبِيرَلِهِ كَرَنَّا

﴿١٠﴾ مَنْزِلٌ: بَعْنَهُ: اُونَّ سَكَنَ اُونَّ هَذِهِ دُوكِيَّهُ مَهْرَهُ دُوكِيَّهُ آدَلَوَلِكَ الْفَلَكَ كَبِيرَلِهِ كَرَنَّا

يَقُولُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ كَذَّاً أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ ۖ إِنَّهَا آتَتْ نَذِيرًا ۝

yaqooloo law laaa unzila 'alaihi kanzun aw jaaa'a ma'ahoo malak; innamaa anta nazeer;

وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَّكِيلٌ ۝ أَمْ يَقُولُونَ إِفْتَرَاهُ ۝ قُلْ فَاتُوا ۝

wallaahu 'alaa kulli shai'inw wakeel (12) Am yaqooloonaif taraahu qul faatoo

بَعْشَرِ سُورَةِ مِثْلِهِ مُفْتَرَاهٍ ۝ وَ اذْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ دُونِ ۝

bi'ashri Suwarim mislihee muftarayaatinw wad'oo manis tata'tum min doonil

اللَّهُ إِنْ كُنْتُمْ صَدِيقِينَ ۝ فَإِنَّمَا يَسْتَحِيُّ الْكُفَّارُ ۝ فَاعْلَمُوا أَنَّهَا ۝

laahi in kuntum saadiqeem (13) Fa il lam yastajeeboo lakum fa'lamoo annamaa

أُنْزِلَ بِعِلْمٍ اللَّهُ وَأَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۝ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ۝

unzilla bi'ilmil laahi wa al laaa ilaha illaa Huwa fahal antum muslimoon (14)

مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ۝ وَزِينَتَهَا نُوفٌ ۝ إِلَيْهِمْ أَعْمَالُهُمْ ۝

Man kaana yureedul hayaatad dunyaa zeenatahaa nuwaffi ilaihim a'maa

فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبَخِّسُونَ ۝ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَيَسَ لَهُمْ فِي ۝

lahum feehaa wa hum feehaa laa yubkhasoon (15) Ulaaa'ikal lazeena laisa lahum fil

الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ ۝ وَ حِيطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَ بِطْلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝

Aakhirati illan Naaru wa habita maa sana'oo feehaa wa baatilum maa kaanoo ya'maloon (16)

أَفَمَنْ كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّهِ ۝ وَ يَتَلُوَّهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ ۝ وَ مِنْ ۝

Afaman kaana 'alas baiyinatim mir Rabbihii wa yatloohu shaahidum minhu

قَبْلِهِ كِتَبٌ مُوسَىٰ إِمَامًا ۝ وَ رَحْمَةً ۝ أُولَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ ۝ وَ ۝

wa min qablihee Kitaabu Moosaaa imaamanw wa rahmah; ulaaa 'ika yu'minoona bih; wa

مَنْ يَكْفُرُ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ ۝ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ ۝

mai yakfur bihee minal Ahzaabi fan Naaru maw'iduh; falaa taku fee miriyatim

مِنْهُ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَ لِكَنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ۝

minh; innahul haqqu mir Rabbika wa laakinna aksaran naasi laa yu'minoon (17)

معنی: اون ھڈہ اور سکھہ دیکی ادا راویکی الٰہ کے برادر لہما کرنا

منزل ۳ تفہیم: حروف کو پڑھنی آئندگی اور کوچھ رکھنا

کوچھ ایسا کی اور سکھیں اور سکھ میں گھاٹے کی وجہ سے ایسا کوچھ رکھنا

جیسے اس سب سے راویکی الٰہ کے برادر لہما کر کے پڑھنا اسپتے ہیں میں کے

معنی: ... تمیں الٰہ کے برادر لہما کر کے پڑھنا اسپتے ہیں جیسے

وَمَنْ أَظْلَمُ مِنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا طَأْوِيلَكَ يُعَرِّضُونَ

Wa man azlamu mimmanif taraa 'alal laahi kazibaa; ulaaa'ika yu'radoona

عَلَى رَبِّهِمْ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هُؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ

'alaa Rabbihim wa yaqoolul ashhaa duhaha'ulaa'il lazeena kazaboo 'ala Rabbihim;

اللَّعْنَةُ اللَّهُ عَلَى الظَّالِمِينَ ۖ ۲۸ الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ

alaa la'natul laahi alaz zaalimeen (18) Allazeena yasuddoona 'an sabeeil

اللَّهُ وَيَنْجُونَهَا عِوْجَانَ طَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كُفَّارُونَ ۖ ۱۹ أُولَئِكَ لَمْ

laahi wa yabghoonaha 'iwajan wa hum bil Aakhiratihum kaafiroon (19) Ulaaa'ika lam

يَكُونُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ

yakoonoo mu'jizeena fil ardi wa maa kaana lahum min doonil laahi min

أُولَئِيَّاءُ يُضْعَفُ لَهُمُ الْعَذَابُ طَمَا كَانُوا يَسْتَطِيُّونَ السَّعَادَ وَ

awliyaaa'; yudaa'afu lahumul 'azaab; maa kaanoo yastatee'oonas sam'a wa

مَا كَانُوا يُبَصِّرُونَ ے ۲۰ أُولَئِكَ الَّذِينَ حَسِّنُوا أَنفُسَهُمْ وَأَضَلَّ

maa kaanoo yubsiroon (20) Ulaaa'ikal lazeena khasiroooo anfusahum wa dalla

عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ے ۲۱ لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمْ

'anhum maa kaanoo yaftaaron (21) Laa jarama annahum fil Aakhirati humul

الْأَخْسَرُونَ ے ۲۲ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصِّلَاةَ وَأَخْبَتُوا

akhsaroon (22) Innal lazeena aamanoo wa 'amilus saalihaati wa akhbatooo

إِلَيْهِمْ أُولَئِكَ أَصْحَبُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ے ۲۳ مَثَلُ

ilaa Rabbihim ulaaa'ika Ashaabul Jannati hum feehaa khaalidoon (23) Masalul

الْفَرِيقَيْنِ كَالْأَعْنَى وَالْأَصْمَى وَالْبَصِيرِ وَالسَّمِيعِ طَهُلْ يَسْتَوِينِ

fareeqini kal a'maa wal asammi walbaseeri wassamee'; hal yastawiyaani

مَثَلًا طَافَلًا تَذَكَّرُونَ ے ۲۴ وَلَقَدْ أَرَزَّلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمَهُ إِنِّي لَكُمْ

masalaa; afalaa tazakkaroon (section 2) (24) Wa laqad arsalnaa Noohan ilaa qawmihee innee lakum

مُتَّقَ: اونوں ہدی وار سکھ دیکی اور اولیک الٰف کے برادر لامہ کرتا

منزل ۲: تلقیخ: حروف کو پڑھنی آئندگانی اور حکم رکھنا۔ قلقلیخ: حروف کو پڑھنے اور حکم رکھنا۔

کوئی خدا، نون ساکن اور حکم رکھنے کے لئے بھروسہ (ب) ہوئی آئندگانی خوشی (خ) میں جیسا کچھ حدا

بیٹھ جائیں۔ ان سب اولیک الٰف کے برادر لامہ کے پڑھانا اچھا ہے۔

مُتَّقَ: ... تمیں الٰف کے برادر لامہ کے برادر لامہ کے پڑھانا اچھا ہے۔

نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿٢٥﴾ أَن لَا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهُ أَنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ

nazeerum mubeen (25) Al laa ta'budoon illal laaha innee akhaafu 'alaikum 'azaab

يَوْمَ الْيُمْ ٢٣ **فَقَالَ الْمَلَائِكَةُ أَنَّهُمْ قَوْمٌ مَا يَرَى إِلَّا**

Yawmin aleem (26) Faqaalal mala ul lazeena kafaroo min qawmihee ma naraaka illaa

بَشَّا مِثْنَا وَمَا زَلَكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِيْنَ هُمْ أَذَلُّنَا بَادِيَ

basharam mislanaa wa maa naraakat taba'aka illal lazeena hum araazilunaa baadiyar

الرَّأْيُ وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظَرْنَا إِلَيْكُمْ كَذِيلِينَ ﴿٢٤﴾

raayi wa maa naraa lakum 'alainaa min fadlim bal nazunnukum kaazibeen (27)

قَالَ يَقُوْمٌ أَرْعَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلٰى بَيْنَةٍ مِّنْ رَبِّيْ وَ اتَّسْفِيْ

Qaala yaa qawmi ara'aitum in kuntu 'alaa baiyinatim mir Rabbee wa aataanee

رَحْمَةً مِنْ عِنْدِهِ فَعُبَيْتُ عَلَيْكُمْ أَنْلِنْ مُكْبِوْهَا وَأَنْتُمْ لَهَا

rahmatam min 'indihee fa'um miyat 'alaikum anulzimuku moohaa wa antum lahaa

كِهُونَ وَيَقُومُ لَا أَسْلَكُمْ عَلَيْهِ مَالًا ۝ إِنْ أَجْرَى إِلَّا عَلَىٰ

kaarihoon (28) Wa yaa qawmi laaa as'alukum 'alaihi maalan in ajriya illaa 'alal

اللَّهُ وَمَا أَنَّابَطَارِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّهُمْ مُلْقُوا بِهِمْ وَلَكُفَّارُ

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَلَا تَنْزَهُ عَنْ سُلْطَانِهِ ۖ

طَدْدِيدٌ وَأَفْلَامٌ تَذَكَّرُ وَنَهَارٌ خَنَّابٌ

Journal of Health Politics, Policy and Law, Vol. 35, No. 4, December 2010
DOI 10.1215/03616878-35-4 © 2010 by The University of Chicago

اللَّهُمَّ لَا أَعْلَمُ بِالْجَنَاحِتَ وَلَا أَعْلَمُ بِالْمَلِكَ لَأَمْرُكَ لِلَّهِ تَعَالَى

تَدْرِي أَعْنُكْهُ لَهُ تَسْمُهُ اللَّهُ خَدْرًا طَالِلَهُ أَعْلَمُ سَافَةً

judges as abominable, his multiple human Hechazekian Allah also allows him no face.

أَنفُسِهِمْ ۝ إِنِّي أَذَلَّنَ الظَّالِمِينَ ﴿٣١﴾

anfusihim innee izal laminaz zaalimeen (31) Qaaloo yaa Noohu qad jaadaltanaa

فَأَكْثَرُتَ جَدَالَنَا فَاتِنَابِتَ تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّدِيقِينَ ﴿٣٢﴾

fa aksarta jidaalanaa faatinaa bimaa ta'idunaa in kunta minas saadiqeen (32)

قَالَ إِنَّمَا يَاٰتِيَكُمْ بِهِ اللَّهُ إِنْ شَاءَ وَمَا أَنْتُمْ بِسُعْجِزِينَ ﴿٣٣﴾ وَ

Qaala innamaa yaateekum bihil laahu in shaaa'a wa maaa antum bimu'jizeen (33) Wa

لَا يَعْلَمُنَعْلَمُ نُصْحِيَ إِنْ أَرَدْتَ أَنْ أَصْحَحَ لَكُمْ إِنْ كَانَ اللَّهُ

laa yanfa'ukum nushee in arattu an ansaha lakum in kaanal laahu

يُرِيدُنَعْلَمُ يُغْوِيَكُمْ هُوَ بِكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٣٤﴾ أَمْ يَقُولُونَ

yureedu ai yughwii yakum; Huwa Rabbukum wa ilaihi turja'oون (34) Am yaqooloona

أَفْتَرَاهُ طَقْلَ إِنْ افْتَرَيْتَهُ فَعَلَىٰ إِجْرَامِيْ وَأَنَا بَرِيءٌ مِّنْ

taraahu qu'l inif taraituhoo fa'alaiya ijraamee wa ana bareee'um mimmaa

تُجْرِمُونَ ﴿٣٥﴾ وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمَكَ

tujrimoon (section 3) (35) Wa ooziya ilaa Noohin annahoo lany-yu'mina min qawmika

إِلَّا مَنْ قَدْ أَمَنَ فَلَا تَبْتَسِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿٣٦﴾ وَاصْنَعِ

illaa man qad aamana falaa tabta'sis bimaa kaanoo ya'faloon (36) Wasna'il

الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبِنِيْ فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا

fulka bi-a'yuninaa wa wahyinaa wa laa tukhaa tibnee fil lazeena zalamoo;

إِنَّهُمْ مُغْرِقُونَ ﴿٣٧﴾ وَيَضْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأَ مِنْ

innahum mughraagoon (37) Wa yasn'u fulka wa kullamaa marra 'alaihi malaum min

قَوْمَهُ سَخِّنُوا مِنْهُ طَقْلَ إِنْ تَسْخِنُوا مِنَنَا نَسْخِنُ مِنْكُمْ

qawmihee sakhroo minh; qaala in taskharoo minnaa fa innaa naskharu minkum

كَمَا تَسْخِنُونَ ﴿٣٨﴾ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ لَمَنْ يَاٰتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيْهِ

kamaa taskharoon (38) Fasawfa ta'lamoona mai ya'teehi 'azaabun yuhkhzeehi

مِنْزَلٌ ۲۳ ﴿٣٩﴾ تَعْلِيمُهُ: حروف کو پڑھنی آئیں اور کوہارکا

کوہارکا: توں سائیں اور سیم سائیں میں کے بھر (ب) ہوں (ک) آئیں اور سیم سائیں (ل) آئیں اور سیم سائیں (ک) میں جھپٹ کر پڑھا

بُخْلٌ: ان سب سائیں اپنے الک کے برادر لہا کر کے پڑھا جائیں گے

وَيَحْلِلُ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ﴿٣﴾ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ

wa yahillu 'alaibi 'azaabun muqeem (39) Hattaaa izaa jaaa'a amrunaa wa faarat

الشَّنُورُ لَا قُلْنَا احْمِلُ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَ آهْلَكَ

tannooru qulnah mil feehaa min kullin zawjainis naini wa ahlaka

إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَ مَنْ أَمْنَ ۖ وَ مَا أَمْنَ مَعَهُ

illaa man sabaqa 'alaihil qawlu wa man aaman; wa maaa aamana ma'ahoo

إِلَّا قَلِيلٌ ﴿٤﴾ وَقَالَ اذْكُرُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرِيهَا وَمُرْسِهَا

illaa qaleel (40) Wa qaalar kaboo feehaa bismil laahi majraihha wa mursaahaa;

إِنَّ رَبِّيَ الْغَفُورُ رَحِيمٌ ﴿٥﴾ وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ

inna Rabbee la Ghafoorur Raheem (41) Wa hiya tajree bihim fee mawjin kaljibaali

وَنَادَى نُوحٌ ابْنَةَ وَ كَانَ فِي مَعْزِلٍ يُبَيِّنُ ارْكَبَ مَعَنَا

wa naadaa Noohunib nahoo wa kaana fee ma'ziliny yaa bunai yarkam ma'anaa

وَلَا تَكُنْ مَعَ الْكُفَّارِينَ ﴿٦﴾ قَالَ سَاوِيٌّ إِلَى جَبَلٍ يَعْصِنِي

wa laa takum ma'al kaafireen (42) Qaala sa aaweee ilaa jabaliny ya'simunee

مِنَ الْمَاءِ ﴿٧﴾ قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَنْ رَحِمَ

minal maaa'; qaala laa 'asimal yawma min amril laahi illaa mar rahim;

وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْبَوْجَ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ ﴿٨﴾ وَقَيْلَ يَأْرُضُ

wa haala bainahumal mawju fakaana minal mughraqueen (43) Wa qeela yaaa ardubla'ee

ابْلَعَى مَاءَكِ وَ يُسَمَّاءُ أَقْلِعَى وَغِيَضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ

maaa'aki wa yaa samaaa'u aq'i'ee wa gheedal maaa'u wa qudiyal amru

وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقَيْلَ بُعْدًا لِلنَّقُومِ الظَّلِيلِينَ ﴿٩﴾ وَ

wastawat 'alal joodiyi wa qeela bu'dal lilqawmiz zaalimeen (44) Wa

نَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِنِ وَإِنَّ وَعْدَكَ

naadaa noohur Rabbahoo faqala Rabbi innabnee min ahlee wa inna wa'dakal

مِنْزَلٌ ۲۳ ﴿٣﴾ تَقْتِيمَهُ: حروف کو پڑی ہیں اور کوچھ رکھنا۔ قَلْقِيمَه: حروف کو پڑی ہیں اور کوچھ رکھنا۔

کوچھ رکھنا۔ قَلْقِيمَه: حروف کو پڑی ہیں اور کوچھ رکھنا۔ (ب) یہی آئینہ حروف کو پڑی ہیں اور کوچھ رکھنا۔

جَهْنَمَ: اس سے اپنے ایک الف کے برابر لام کر کے پڑھنا۔ اب یہی یاد ہے۔

بَلْقَلْ: .. تمیں الف کے برابر پانچ الف کے برابر لام کر کے پڑھنا۔ اب یہی یاد ہے۔

الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَكَمِينَ ﴿٤٥﴾ قَالَ يَنْوُهُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ

haqqu wa Anta akkamul haakimeen (45) Qaala yaa Noohu innahoo laisa min ahlika

إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلَا تَسْئِلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ

innahoo 'amalun ghairu saalihin falaa tas'alni maa laisa laka bihee 'ilmun

إِنِّي أَعِظُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ ﴿٤٦﴾ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ

innee a'izuka an takoona minal jaahileen (46) Qaala rabbi innee a'oozu bika

أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِبِهِ عِلْمٌ وَإِلَّا تَغْفِرُ لِي وَتَرْحِمُنِي أَكُنْ مِنْ

an as'alaka maa laisa lee bihee 'ilmun wa illaa taghfir lee wa tarhamnee akum minal

الْخَسِيرَاتِ ﴿٤٧﴾ قَيْلَ يَنْوُهُ أَهْبِطُ بِسَلِيمٍ مِنَابَرَكَتِ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ أُمِّ

khaasireen (47) Qeela yaa Noohuh bit bisalaamim minnaa wa barakaatin 'alaika wa 'alaaa umamim

مِنْ مَعَكَ وَأُمَّمٌ سَنَسْتَعْتَهُمْ شَمْ يَسِّهُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٤٨﴾ تِلْكَ

mimmam ma'ak; wa umamun sanumatt'uhum summa yamassuhum minaa 'azaabun aleem (48) Tilka

مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوَحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قُومُكَ

min ambaa'il ghaibi nooheehaaa ilaika maa kunta ta'lamuhaaaa anta wa laa qawmuka

مِنْ قَبْلِ هَذَا طَفَاضِبْرَةٍ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ ﴿٤٩﴾ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ

min qabli haazaa fasbir innal 'aaqibata lilmuttaqeen (section 4) (49) Wa ilaa 'aadin akhaahum

هُدًىٰ قَالَ يَقُولُمْ أَعْبُدُ وَاللَّهُ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرَهُ إِنْ أَنْتُمْ

Hoodaa; qaala yaa qawmi' budul laaha maa lakum min ilaahein ghairu hooo in antum

إِلَّا مُفْتَرُونَ ﴿٥٠﴾ يَقُولُمْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ

illaa muftaroon (50) Yaa qawmi laaa as'alukum 'alaihi ajran in ajriya illaa 'alal

الَّذِي فَطَرَنِيٰ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٥١﴾ وَيَقُولُمْ أَسْتَغْفِرُ وَرَبَّكُمْ شَمْ

lazee fataranee; afalaa ta'qiloon (51) Wa yaa qawmis taghfiroo Rabbakum summa

تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلُ السَّيَّاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدُكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ

toobooo ilaihi yursilis samaaa'a 'alaikum midraaranw wa yazidkum quwwatan ilaa

مَنْزِلٌ ۲۳ ﴿٥٢﴾ تَقْتِيْمِ: حروف کو پڑی جانی آؤکھے رکھنا۔ قَلْقِيلٌ: سماں جو کچھ کو اکھر پر مانے جائیں۔

مَكْحُونٌ: اپنے سماں اور کھم سماں جس کے بے ہوش (بے ہو) ہی آؤکھیش (تک) میں جھپٹ کر کچھ حدا

بَعْدِ: اس سے بعد۔ پُلُجِ: الک کے برابر لام کر کے پڑھانا۔ جب ہے

قُوَّتُكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ ﴿٥٢﴾ **قَالُوا يَا يُهُودًا مَا جَعْلَنَا بَيْتَنَةً وَمَا**

quwwatikum wa laa tatawallaw mujrimeen (52) Qaaloo yaa Hoodu maa ji'tanaa bibaiyinatinw wa maa

نَحْنُ بَتَارِكِ الْهَمَنَةِ عَنْ قَوْلَكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِسُؤْمِنِينَ ﴿٥٣﴾

nahnu bitaarakkee aalihatinaa 'an qawlka wa maa nahnu laka bimu'mineen (53)

إِنْ نَقُولُ إِلَّا اعْتَرَكَ بَعْضُ الْهَمَنَةِ بِسُوءِ طَقَانِ إِنِّي أَشْهِدُ

In naqoolu illa' taraaka ba'du aalihatinaa bisooo'; qaala innee ushhidul

اللَّهُ وَأَشْهَدُ وَأَنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشَرِّكُونَ ﴿٥٤﴾ **مِنْ دُونِهِ فَكِيدُونِي**

laaha wash hadooo anne bareee'um mimmaa tushrikoon (54) Min doonihee fakeedoonee

جَيِّعاً شَمَّ لَا تُنْظِرُونِ ﴿٥٥﴾ **إِنِّي تَوَكَّلُ عَلَى اللَّهِ رَبِّيْ وَرَبِّكُمْ**

jamee'an summa laa tunziroon (55) Innee tawakkaltu 'alallaahi Rabbee wa Rabbikum;

مَامِنْ دَآبَةٍ إِلَّا هُوَ أَخْذِنَا صِيَّتَهَا إِنَّ رَبِّيْ عَلَى صِرَاطِ مُسْتَقِيمٍ ﴿٥٦﴾

maa min daabatin illaa Huwa aakhizum binaasiyatihaa; inna Rabbee 'alaa Siraatim mustaqeem (56)

فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ وَيَسْتَخِلْفُ رَبِّيْ

Fa in towallaw faqad ablughtukum maaa ursiltu biheee ilaikum; wa yastakhliifu Rabbee

قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضْرِبُنَّهُ شَيْئًا إِنَّ رَبِّيْ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ

qawman ghairakum wa laa tadur roonahoo shai'aa; inna Rabbee 'alaa kulli shai'in

حَفِيظٌ ﴿٥٧﴾ **وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ أَمْنُوا مَعَهُ**

Hafeez (57) Wa lammaa jaaa'a amrunaa najainaa Hoodanw wallazeena aamanoo ma'ahoo

بِرِّ حُبَّةٍ مِنَّا وَنَجَّيْنَاهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيلٍ ﴿٥٨﴾ **وَتَلْكَ عَادٌ جَحَدُوا**

birahmatim minnaa wa najainaahum min 'azaabin ghaleez (58) Wa tilka 'aad, jahadoo

بِإِيمَتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْرُسْلَةَ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيَّبِ ﴿٥٩﴾

bi Aayaati Rabbihim wa 'asaw Rusulahoo wattaba'ooo amra kulli jabbaarin 'aneed (59)

وَاتَّبَعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ إِلَّا إِنَّ عَادًا

Wa utbi'oo fee haazihid dunyaa la'natanw wa Yawmal Qiyaamah; alaaa inna 'Aadan

مِنْزَلٌ ۲۰ ﴿٥٩﴾ تَقْتِيْمِ: حروف کو پڑیں ایک آڑاکیں کرتا۔

مِنْزَلٌ ۲۱ ﴿٥٩﴾ تَقْتِيْمِ: حروف کو پڑیں ایک آڑاکیں کرتا۔

مِنْزَلٌ ۲۲ ﴿٥٩﴾ تَقْتِيْمِ: حروف کو پڑیں ایک آڑاکیں کرتا۔

مِنْزَلٌ ۲۳ ﴿٥٩﴾ تَقْتِيْمِ: حروف کو پڑیں ایک آڑاکیں کرتا۔

كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ طَالَ بَعْدَ الْعَادِ قَوْمُ هُودٍ ﴿٦٠﴾ وَإِلَى شَوُدَّ أَخَاهُمْ

kafaroo Rabbahum; alaa bu'dal li 'Aadin qawmin Hood (section 5) (60) Wa ilaa Samooda akhaahum

صَلِحًا قَالَ يَقُولُمْ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنْشَاكُمْ

Saalihaa; qaala yaa qawmi' budul laaha maa lakum min ilaahim ghairuhoo Huwa ansha akum

مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمِرُكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ ﴿٦١﴾

minal ardi wasta' marakum feehaa fastaghfiroohu summa toobooo ilaih;

إِنَّ رَبِّيَ قَرِيبٌ مُجِيبٌ ﴿٦٢﴾ **قَالُوا يَصْلِحُ قَدْ كُنْتَ فِينَا مَرْجُوا قَبْلَ**

inna Rabbee Qareebum Mujeeb (61) Qaaloo yaa Saalihu qad kunta feenaa marjuwan qabla

هَذَا آتَنَاهُنَا أَنْ نَعْبُدَ مَا يَعْبُدُ أَبَاؤُنَا وَإِنَّا لِنَفِي شَكٌ مِمَّا تَدْعُونَا

haaazaaa atahaanaaa an na'bu da maa ya'bdu aabaaa'unaaa wa innanaa lafee shakkim mimmaa ta'doonaaa

إِلَيْهِ مُرِيبٌ ﴿٦٣﴾ **قَالَ يَقُولُمْ أَرَعَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِنْ**

ilaihi mureeb (62) Qaala yaa qawmi ara'aytum in kuntu 'alaa baiyinatim mir

رَبِّيٍّ وَاتَّسِنِي مِنْهُ رَحْمَةً فَمَنْ يَنْصَرِنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ عَصَيْتَهُ

Rabbee wa aataanee minhu rahmatan famai yansurunee minal laahi in 'asaituhoo

فَمَا تَزَيَّدُ وَنَفِي غَيْرُ تَخْسِيرٍ ﴿٦٤﴾ **وَيَقُولُمْ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ أَيَّةٌ**

famaa tazeedoonanee ghaira takhseer (63) Wa yaa qawmi haazihee naaqatal laahi lakum aayatan

فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي الْأَرْضِ اللَّهُ وَلَا تَمْسُوهَا بِسُوءٍ فَيَا خَذُكُمْ

fazaroohaa taakul fee ardin laahi wa laa tamassoohaa bisooo'in fa yaakhuzakum

عَذَابٌ قَرِيبٌ ﴿٦٥﴾ **فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَبَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةٌ**

azaabun qareeb (64) Fa 'aqaroothaa faqaala tamatta'oo fee daarikum salaasat

أَيَّامٍ طَلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ ﴿٦٦﴾ **فَلَمَّا جَاءَهُ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا صَلِحَا**

aiyaamin zaalika wa'dun ghairu makzoob (65) Falammama jaaa'a amrunaa najjaina Saalihaw

وَالَّذِينَ أَمْنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَمِنْ خَزْنِي يَوْمٍ مَيْدِنٍ إِنَّ

wal lazeena aamanoo ma'ahoo birahmatim minnaa wa min khizi Yawmi'iz inna

مِنْ: اون ہدیہ دار مسیم مفتکہ دیکھی اور اذکریں الٰہ کے برادر لہما کرنا

منزل: ۲ تخفیم: حروف کو پر لینی آئندگانی اور سکھی کرنے کے لئے ایک آنونیشن قصہ (ب) ہے ایک آنونیشن قصہ (ا) میں صحیح کچھ خدا

بِخَلْقِهِ: دون سماں اور سکھی اور سکھی میں کے درجے (ب) ہے ایک آنونیشن قصہ (ا) میں صحیح کچھ خدا

بِخَلْقِهِ: ... تمیں الٰہ کے برادر پائیں الٰہ کے برادر لہما کر کے پڑھتا ہے

رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ ﴿٦﴾ وَأَخْذَ الدَّيْنَ طَلَبُوا الصَّيْحَةَ فَأَصْبَحُوا

Rabbaka Huwal Qawiyyul 'Azeez (66) Wa akhazal lazeena zalamus saihiatu fa asbahoo

فِي دِيَارِهِمْ جِئْشِينَ ﴿٦﴾ كَانُ لَمْ يَغْنُوا فِيهَا طَ إِنْ شَوُدًا

fee diyaarihim jaasimeena (67) Ka al lam yaqhnaw feehaaa; alaaa inna Samooda

كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَلَا بُعْدًا الشَّمْوَدُ ﴿٦٨﴾ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ

kafaroo Rabbahum; alaa bu'dal li Samood. (section 6) (68) Wa laqad jaaa'at Rusulunaaa Ibraheema

بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامٌ ﴿٦٩﴾ قَالَ سَلَمٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ

bilbushraa qaalo salaaman qaala salaamun famaa labisa an jaaa'a b'iijin

حَنِيدٌ ﴿٧٠﴾ فَلَمَّا رَأَ أَيْدِيهِمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نِكَّهُمْ وَأَوْجَسَ

haneez (69) Falammaa ra aaa aidiyahum laa tasilu ilaihi nakirahum wa awjasa

مِنْهُمْ خِيْفَةٌ ﴿٧١﴾ قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أُرْسَلْنَا إِلَى قَوْمٍ لُوطٍ وَأَمْرَأَتُهُ

minhum kheefah; qaalo laa takhaf innaaaaa ursilnaa ilaa qawmi Loot (70) Wamra atuhoo

قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرَنَاهَا بِاسْحَقَ ﴿٧٢﴾ وَمِنْ دَرَأِ اسْحَقَ يَعْقُوبَ

qaaa'imutn fadahikat fabashsharnaahaa bi Ishaqa wa minw waraaa'i Ishaqa Ya'qoob (71)

قَالَتْ يَوْيَلْتَىءَ أَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ ﴿٧٣﴾ وَهَذَا بَعْلُ شَيْخًا إِنْ هَذَا

Qaalat yaa wailataaa 'alidu wa ana 'ajoozunwa haaza ba'lee shaikhana inna haaza

لَشِئْ عَجِيْبٌ ﴿٧٤﴾ قَالُوا أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ

lashai'un 'ajeeb (72) Qaalooo ata'jabeena min amril laahi rahmatul laahi wa

بَرَكَتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ ﴿٧٥﴾ إِنَّهُ حَمِيدٌ مَجِيدٌ

barakaatuho 'alaikum Ahlal Bayt; innahoo Hameedum Majeed (73) Falammaa zahaba

عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ وَجَاءَتُهُ الْبُشْرَى يُجَادِلُنَا فِي قَوْمِ

an Ibraheemar raw'u wa jaaa'at hul bushraa yujaadilunaa fee qawmi

لُوطٍ ﴿٧٦﴾ إِنْ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّلَ مُنْيَبٌ

Loot (74) Inna Ibraheema lahaleemun awwwwahum muneeb (75) Yaaa Ibraheemu a'rid

● نقاش: اون ہڈی وار سکھ دیکی ادا دلکیں الگ کے بر ایسا کرنا

● بالغ: اون ساکن اور سکونی اور سکم ساکن ہیں کے بعد (ب) ہوئی آؤ کوچھ شہ (ت) میں جیسا کچھ حدا

● بیٹھ: اس سب سے پرانی الگ کے بر ایسا کر کے پڑھنا اجب ہے

عَنْ هَذَا إِنَّهُ قَدْ جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَإِنَّهُمْ أَتَيْهُمْ عَذَابٌ

'an haazaa innahoo qad jaaa'a amru Rabbika wa innahum aateehim 'azaabun

غَيْرُ مَرْدُودٍ ﴿٢﴾ وَلَمَّا جَاءَتُ رُسُلُنَا لُوتًا سَوْءَ بِهِمْ وَضَاقَ

ghairun mardood (76) Wa lammaa jaaa'at Rusulunaa Lootan see'a bihim wa daaqaa

بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصَيْبٌ ﴿٢﴾ وَجَاءَهُ قَوْمٌ يُهْرِعُونَ

bihim za'anw wa qaala haazaa yawmun 'aseeb (77) Wa jaaa'aho qawmu huu yuhra'oona

إِلَيْهِ وَمِنْ قَبْلٍ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ ﴿٣﴾ قَالَ يَقُومُ هَؤُلَاءِ

ilaihi wa min qablu kaanoo ya'maloona sayiaat; qaala yaa qawmi haaa'ulaaa'i

بَنَاتِقٍ هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُنُونِ فِي ضَيْفِي ﴿٤﴾

banataee hunna atharu lakum fattaqul laaha wa laa tukhzoomi fee daifee

الَّيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ ﴿٥﴾ قَالُوا لَقَدْ عَلِمْتَ مَا نَنَأِفُ

alaisa minkum rajulur rasheed (78) Qaaloo laqad 'alimta maa lanaa fee

بَنَتِكَ مِنْ حَقٍّ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نَرِيدُ ﴿٦﴾ قَالَ لَوْا نَلِي بِكُمْ

banatika min haqq, wa innaka lata'lamu maa nureed (79) Qaala law anna lee bikum

قُوَّةً أَوْ أَوْيَ إِلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ ﴿٧﴾ قَالُوا يَلُوتُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ

quwwatan aw aawee ilaa ruknina shaded (80) Qaaloo yaa Lootu innaa Rusulu Rabbika

لَنْ يَصِلُوا إِلَيْكَ فَاسِرِيْا هَلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ الْيَلِ وَلَا يَلْتَفِتُ مِنْكُمْ

lai yasiloo ilaika fa asri bi ahlika biqit 'im min al laili wa laa yaltafit minkum

أَحَدٌ إِلَّا امْرَأَتَكَ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ طَإِنَّ مَوْعِدَهُمْ

ahadun illam ra ataka innahoo museebuhaa maaa asaabuhum; inna maw'i dahumus

الصُّبُّحُ الَّيْسَ الصُّبُّحُ بِقِرَأَيْبٍ ﴿٩﴾ فَلَمَّا جَاءَهُمْ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيهَا

subh; alaisas subhu biqareeb (81) Falammaa jaaa'a amrunaa ja'alnaa 'aaliyahaa

سَافِلَهَا وَأَمْطَرَنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِنْ سِجِيلٍ لَمَنْفُودٍ ﴿١٠﴾ مَسَوَّمَةً

saafilahaa wa amtamaa 'alaihah hijaratun min sijjeelim mardood (82) Musawwamatun

﴿١﴾ مُتَّقَ: اونوں مدد وار سکھ دیکی اداڑا لایک الف کے برادر لامہ کرنا

﴿٢﴾ مُتَّقَ: حروف کو پر لینی آؤکھا رکھنا

﴿٣﴾ مُتَّقَ: حروف کو پر لینی آؤکھا رکھنا

﴿٤﴾ مُتَّقَ: اون ساکن اور سکھ اور سکھ میں کے بھرپور (ب) ہوں کی آؤکھی شہ (نک) میں جھپٹ کرچھ خدا

﴿٥﴾ مُتَّقَ: اس سب سے لایک الف کے برادر لامہ کے پڑھانا اجب ہے

عِنْدَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيْدٍ ﴿٨٣﴾ وَإِلَى مَدِيْنَ أَخَاهُمْ

'inda Rabbik; wa maa hiya minaz zaalimena biba'eed (section 7) (83) Wa ilaa Madyana akhaahum

شُعَيْبًا قَالَ يَقُومُ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٌ غَيْرُهُ وَلَا تَنْقُصُوا

Shu'aibaa; qaala yaa qawmi' budul laaha maa lakum min ilaa hin ghairuhoo wa laa tanqusul

الْبِكَيْاَلَ وَالْبِيْزَانَ إِنِّي أَرِكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ

mikyaala walmeesaan; innee araakum bikhairinw wa innee akhaafu 'alaikum

عَذَابَ يَوْمِ مُحِيطٍ ﴿٨٤﴾ وَيَقُومُ أَوْفُوا الْبِكَيْاَلَ وَالْبِيْزَانَ بِالْقِسْطِ

'azaaba Yawmim muheet (84) Wa yaa qawmi awful mikyaala walmeesaanaa bilqisti

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِيْنَ ﴿٨٥﴾

wa laa tabkhasun naasa ashyaaa'ahum wa laa ta'saw fil ardi mufsideen (85)

بَقِيَّتُ اللَّهُ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِيْنَ هُوَ وَمَا آتَنَا عَلَيْكُمْ

Baqiyatul laahi khairul lakum in kuntum mu'mineen; wa maa ana 'alaikum

بِحَفِيْظٍ ﴿٨٦﴾ قَالُوا يَا شُعَيْبَ أَصْلُوتُكَ تَأْمُرُكَ أَنْ نَتْرُكَ مَا يَعْبُدُ

bihafeez (86) Qaaloo yaa Shu'aybu asalaatuka taamuruka an natruka maa ya'budu

أَبَاوْنَا أَوْ أَنْ نَفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَوْا إِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَلِيمُ

aabaaa'unaaa aw an naf'alaa feee amwaalinaa maa nashaaa'oo innaka la antal haleemur

الرَّشِيدُ ﴿٨٧﴾ قَالَ يَقُومُ أَرَعَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّيْ

rasheed (87) Qaalaa yaa qawmi ara'aitum in kuntu 'ala baiyinatim mir Rabbee

وَرَزَقَنِيْ مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا

wa razaqanee minhu rizqan hasanaa; wa maaa ureedu an ukhaalifakum ilaa maaa

أَنْهُكُمْ عَنْهُ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا إِصْلَامَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقَنِي

anhaakum 'anh; in ureedu illal islaaha mastata't; wa maa tawfeeqee

إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكِّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ ﴿٨٨﴾ وَيَقُومُ لَا يَجِرُ مَنْكُمْ

illaa billah; 'alaahi tawakkaltu wa ilaa hi uneeb (88) Wa yaa qawmi laa yajri mannakum

شِقَاقٌ أَنْ يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ

shiqaaqee ai yuseebakum mislu maaa asaaba qawma Noohin aw qawma Hoodin

أَوْ قَوْمَ صَلِحٍ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِنْكُمْ بِعَيْدٍ ۖ ۸۹ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ

aw qawma Saalih; wa maa qawmu Lootim minkum biba'eed (89) Wastaghifiroo Rabbakum

شُمْ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّ رَحْمَةً وَدُودًّا ۖ ۹۰ قَالُوا يَشْعِيبُ مَا نَفَقَهُ

summa toobooo ilaih; inna Rabbee Raheemunw Wadood (90) Qaaloo yaa Shuaibu maa nafqahu

كَثِيرًا مِمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَذِكَ فِينَا ضَعِيفًا وَلَوْلَا رَهْطُكَ

kaseeram mimmaa taqoolu wa innaa lanaraaka feenaa da'eefanu wa law laa rahtuka

لَرْجُنَكَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ ۖ ۹۱ قَالَ يَقُومُ أَرْهَطِي أَعْنَ عَلَيْكُمْ

larajunaaka wa maaa anta 'alaimaa bi'azeez (91) Qaala yaa qawmi arahatee a'azzu 'alaikum

مِنْ اللَّهِ وَاتَّخَذُتُمُوهُ وَرَاعُكُمْ ظَهْرِيًّا إِنَّ رَبِّيْ بِسَاتَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ۖ ۹۲

minal laahi wattakhaztumoochu waraaa'akum zilhriyyan inna Rabbee bimaa ta'maloona muheet (92)

وَيَقُومُ أَعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ سُوفَ تَعْلَمُونَ لَمَنْ

Wa yaa qawmi' maloo 'alaa makaanatikum innee 'aamilun sawfa ta'lamoona mai

يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُنْهِيْهِ وَمَنْ هُوَ كَاذِبٌ وَارْتَقِبُوا إِنِّي مَعْكُمْ

yaateehi 'azaabun yukhzeehi wa man huwa kaazib; wartaqibooo innnee ma'akum

رَقِيبٌ ۖ ۹۳ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَيَنَا شَعِيبًا وَالَّذِينَ أَمْنُوا مَعَهُ بِرْحَمَةٍ

raqeeb (93) Wa lammaa jaaa'a amrunaa najjaamaa shu'aiban wal lazeena aamanoo ma'ahoo birahmatim

مِنَا وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَاصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ

minnaa wa akhazatil lazeena zalamus saihatu fa asbahoo fee diyaarihim

جَشِينَ ۖ ۹۴ كَانُ لَمْ يَغْنُوا فِيهَا لَا بُعْدًا لَمْدَيْنَ كَيْ بَعْدَتْ

jaasimeen (94) Ka-al-lam yaghnaw feehaa; alaa bu'dal li Madyana Kamaa ba'idat

شَمُودٌ ۖ ۹۵ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِإِيمَنَاهُ إِلَىٰ سُلْطَنِ مُرْيَنْ ۖ

Samood (section 8) (95) Wa laqad arsalnaa Moosaa bi Aayaatinaa wa sultaanim mubeen (96) Ilaa

﴿لَقَدْ﴾: اون ھڈہ اور سکھدہ دیکی اور اڑاکیں الگ کے برابر لامہ کرنا

﴿مَنْزِلٌ﴾: حروف کو پر لینی آؤ کوچھ رکھنا

﴿مَنْزِلٌ﴾: قافلہ، حروف کو پر لینی آؤ کوچھ رکھنا

﴿مَنْزِلٌ﴾: اون سکن اور کھجور ہیں اور سکم سکن ہیں کے بعد (ب) ہوئی آؤ کوچھ رکھنا

﴿مَنْزِلٌ﴾: جیسا کچھ رکھنا

﴿مَنْزِلٌ﴾: جیسا کچھ رکھنا

فِرْعَوْنَ وَ مَلَائِكَةَ فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَۚ وَ مَا أَمْرٌ فِرْعَوْنَ

Fir'awna wa mala'ihee fattaabaaa amra Fir'awna wa maaa amru Fir'awna

بِرْ شَيْءٍ ۖ يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ وَ بِئْسَ

birasheed (97) Yaqdumu qawmahoo Yawmal Qiyaamati fa awrada humun Naara wa bi'sal

الْوَرْدُ الْمَوْرُودُ ۖ وَ اتَّبَعُوا فِي هَذِهِ لَعْنَةَ وَ يَوْمَ الْقِيَمَةِ ۖ بِئْسَ

wirdul mawrood (98) Wa utbi'oo fee haazihee la'hatanw wa Yawmal Qiyaamah; bi'sar

الرِّفْدُ الْمَرْفُوذُ ۖ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْقُرْآنِ نَقْصَهُ عَلَيْكَ مِنْهَا

rifidul marfood (99) Zaalika min ambaa'il quraa naqussuhoo 'alaika minhaa

قَالِمٌ وَ حَصِيدٌ ۖ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَيَا

qaa'imun wa haseed (100) Wa maa zalamnahum wa laakin zalamooo anfusahum famaaa

أَغْنَتْ عَنْهُمْ أَهْتَهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ

aghnat 'anhum aalihatuhumul latee yad'oona min doonil laahi min

شَيْءٍ لَا جَاءَ أَمْرَرِيكَ وَ مَا زَادُوهُمْ غَيْرُ تَشْبِيبٍ ۖ وَ كَذِلِكَ

shai'il lammaa jaaa'a amru Rabbika wa maa zaadoohum ghaira tatbeeb (101) Wa kazaalika

أَخْذُرِيكَ إِذَا أَخْذَ الْقُرْآنَ وَ هِيَ ظَالِمَةٌ ۖ إِنَّ أَخْذَهَا أَلِيمٌ

akhzu Rabbika izaa akhazal quraa wa hiya zaalimah; inna akhzahooo aleemun

شَدِيدٌ ۖ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَةَ لِسَنٍ خَافَ عَذَابَ الْآخِرَةِ ۖ ذَلِكَ

shaded (102) Inna fee zaalika la aayatal liman khaafa 'azaabal Aakhirah; zaalika

يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ وَ ذَلِكَ يَوْمٌ مَشْهُودٌ ۖ وَ مَا نَوَّخَهُ إِلَّا

Yawmum majmoo'ul lahuun naasu wa zaalika Yawmum mashhood (103) Wa maa nu'akkhiruhoo illaa

لِأَجْلِ مَعْدُودٍ ۖ يَوْمٌ يَأْتِ لَا تَكُلُّ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۖ فِينَهُمْ

li ajalim ma'dood (104) Yawma yaati laa takallamu nafsun illaa bi iznih; faminhum

شَقِّيٌّ وَ سَعِيدٌ ۖ فَامْمَالَ لَازِئِنَ شَقْوَا فِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ

shaqiyunw wa sa'eed (105) Fa ammal lazeena shaqoo fain Naari lahum feehaa zafeerunw

مِنْزَلٌ ۲ ﴿تَعْلِيمٌ﴾: حروف کو پڑھنی آؤکھا رکھنا۔ ﴿فَلَقَلْبِهِ﴾: سماں جو قلب کا کہا جائے۔

﴿أَخْلَقَهُ﴾: دون سماں اور کم سماں کے درجے (ب) ہوں گے۔ آؤکھیش (نک) میں صحیح کچھ خدا

﴿بِعْدَهُ﴾: اس سے بعد کا۔ آؤکھا رکھنا۔ ﴿أَنْتَ﴾: اس سے پہلے کا۔ آؤکھا رکھنا۔

﴿مُقْلِلٌ﴾: تمنِ الک کے پڑھنا۔ پُلٹِ الک کے پڑھنا۔ اس کے پڑھنا۔ اس کے پڑھنا۔

وَ شَهِيقٌ ﴿١٠٦﴾ خَلِدِيْنَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّيْوَتُ وَ الْأَرْضُ إِلَّا

wa shaheeq (106) Khaalideena feehaa maa daamatis samaawaatu wal ardu illaa

مَا شَاءَ رَبُّكَ طِنَّ رَبَّكَ فَعَالٌ لِّيَا يُرِيدُ ﴿١٠٧﴾ وَ أَمَّا الَّذِيْنَ سُعدُوا

maa shaa'a Rabbuk; inna Rabbaka fa' alul limaa yureed (107) Wa ammal lazeena su'idoo

فِي الْجَنَّةِ خَلِدِيْنَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّيْوَتُ وَ الْأَرْضُ إِلَّا

faa'il Jannati khaalideena feehaa maa daamatis samaawaatu wal ardu illaa

مَا شَاءَ رَبُّكَ طِنَّ عَطَاءٌ غَيْرُ مَجْدُودٍ ﴿١٠٨﴾ فَلَا تَكُونَ فِي مِرْيَةٍ مَّا يَعْبُدُ

maa shaa'a Rabbuk; ataaa'an ghaira majzooz (108) Falaa taku fee miryatim mimma ya'budu

هُوَلَاءُ طِنَّ مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا كَمَا يَعْبُدُ أَبَاؤُهُمْ مِنْ قَبْلٍ وَ إِنَّا

haaaa'ulaaa'; maa ya'budoona illaa kamaa ya'buduaabaaa'uhum min qabl; wa innaa

لَمْ يَوْفُوهُمْ نَصِيبُهُمْ غَيْرُ مَنْ قُوْصٌ ﴿١٠٩﴾ وَ لَقَدْ أَتَيْنَا مُوسَى الْكِتَبَ

lamuwaaf foohum naseebahum ghaira manqoos (section 9) (109) Wa laqad aatainaa Moosal Kitaaba

فَاخْتَلِفَ فِيهِ طِنَّ وَ لَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقْضَى بَيْنَهُمْ

fakhtulifa feeh; wa law laa Kalimatun sabaqat mir Rabbika laqudiya bainahum;

وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيْبٌ ﴿١١٠﴾ وَ إِنَّ لَلَّهَ لَيَوْفِيْنَهُمْ رَبُّكَ

wa innahum lafee shakkim minhu mureeb (110) Wa inna kullal lammaa la yuwaaffiyan nahum Rabbuka

أَعْمَالَهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَيْرٌ ﴿١١١﴾ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَ مَنْ تَابَ مَعَكَ

a'malahum; innahoo bimaa ya'maloona Khabeer (111) Fastaqim kamaaa umirta wa man taaba ma'aka

وَ لَا تَطْغُوا طِنَّ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١١٢﴾ وَ لَا تَرْكُنُوا إِلَى الَّذِيْنَ

wa laa tataghaw; innahoo bimaa ta'maloona Baseer (112) Wa laa tarkanoo ilal lazeena

ظَلَمُوا فَتَسَكُّمُ النَّارِ طِنَّ وَ مَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ

zalamoo fatamassa kumun Naaru wa maa lakum min doonil laahi min awliya'aa

ثُمَّ لَا تُنْصَمُونَ ﴿١١٣﴾ وَ أَقِمِ الصَّلَاةَ طِنَّ فِي النَّهَارِ وَ زُلْفَاقَ مِنَ

summa laa tunsaroон (113) Wa ajimis Salaata tarafayin naahaari wa zulafam minal

معنی: اون ہڈے اور سکھنے والی آڑاٹوں کی الف کے برادر لہما کرنا

منزل ۳ تفہیم: حروف کو پر لئی آڑاٹوں کی الف کے برادر لہما کرنا (ب) ہوئی آڑاٹوں کی الف (ت) میں جیسا کچھ ہے

معنی: اون سکن اور سکھنے والی آڑاٹوں کی الف کے برادر لہما کر کے پڑھا جائے

معنی: اس سب سے بڑی الف کے برادر لہما کر کے پڑھا جائے

الْيَلِ إِنَّ الْحَسَنَتِ يُذْهِبُ النَّسِيَّاتِ ۖ ذَلِكَ ذَكْرٌ لِلَّذِكَارِيْنَ ۚ

layl; innal hasanaati yuzhibnas saiyi aat; zaalika zikraa liz zaakireen (114)

وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُفْسِيْعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِيْنَ ۚ فَلَوْلَا كَانَ

Wasbir fa innal laaha laa yudee'u ajral muhsineen (115) Falaw laa kaana

مِنَ الْقُرْوَنِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُو بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ

minal qurooni min qablikum ooloo baqiyyatiny yanhawna 'anil fasaadi

فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِنْ أَرْجِيْنَا مِنْهُمْ وَاتَّبَعَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوا

fil ardi illaa qaleelam mimman anjainaa minhum; wattaab'al lazeena zalamoo

مَا أَتَرْفُو فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِيْنَ ۚ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيَهْلِكَ الْقُرْبَى

maaa utrifoo feehi wa kaanoo mujrimeen (116) Wa maa kaana Rabbuka liyuhlikal quraa

بِظُلْمٍ وَآهُلًا مُضْلِحُونَ ۚ وَلَوْشَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ

bizulminw wa ahluhaa muslihoon (117) Wa law shaaa'a Rabbuka laja'alan naasa

أَمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِيْنَ ۚ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ

ummatanw wa hidatanw wa laa yazaaloona mukhtalifeen (118) Illaa mar rahima Rabbuk;

وَلِذِلِكَ خَلَقْهُمْ وَتَبَثَ كَلِيْهُ رَبُّكَ لَامْكَنَ جَهَنَّمَ مِنْ

wa lizaalika khalaqahum; wa tammat Kalimatu Rabbika la amla'an Jahannama minal

الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ ۚ وَكَلَّا نَقْصٌ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ

jinnati wannnaasi ajma'een (119) Wa kulla naqussu 'alaika min ambaaa'ir

الرُّسُلِ مَا شَيْتُ بِهِ فَوَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَ

Rusuli maa nusabbit bihee fu'aadak; wa jaaa'aka fee haazihil haqqu wa maw'izatunw

ذَكْرٌ لِلْمُؤْمِنِيْنَ ۚ وَقُلْ لِلَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا

wa zikraa lilmu' mineen (120) Wa qul lillazeena laa yu'minoo na'maloo

عَلَى مَكَانِتِكُمْ إِنَّا غِيلُونَ ۚ وَاتَّتَّهِرْ وَا إِنَّا مُتَّهِرُونَ ۚ وَلِلَّهِ

'alaa makaanatikum innaa 'amiloon (121) Wantaziroo innaa mun taziroon (122) Wa lillaahi

● نقاش: اون ہڈی دار سکھ دیکی ادا راویک اپنے کے برادر لامہ کرنا

● بالغ: اون سماں ادا راویک اور سکھ میں کے بعد (بیوی) آئی آدمیوں میں ایکی تھیں

● مذکور: اس سے ادا راویک اپنے کے برادر لامہ کے پڑھانا اچھا ہے

غَيْبُ السَّيْرِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ

ghaibus samaawaati wal ardi wa ilaihi yurja'ul amru kulluhoo fa'Tbu-dhu

وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْلَمُونَ

wa tawakkal 'alaih; wa maa Rabbuka bighaafilin 'amma ta'maloon (section 10) (123)



Bismillaahir Rahmaanir Raheem(

الرَّ تِلْكَ آيَةُ الْكِتَبِ الْمُبِينِ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَنَّا عَمَّا لَعَلَّكُمْ

Alif-Laaam-Raa; tilka Aayaatul Kitaabil Mubeen (1) Innaaa anzalnaahu quraanaan 'Arabiyyal la 'allakum

تَعْقِلُونَ نَحْنُ نَقْصُ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا

ta'qiloon (2) Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bimaaa awhainaaa

إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنُ وَإِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمْ يَنْغُلِفِلِينَ

ilaika haazal quraana wa in kunta min qablihee laminal ghaafileen (3)

إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا بَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكِبًا وَ

Iz qaala Yoosufu li abeehi yaaa abati innee ra aytu ahada 'ashara kawkabanw wash

الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سِجِّدِينَ قَالَ يَبْنَى لَا تَقْصُصُ

shamsa walqamara ra aytuhum lee saajideen (4) Qaala yaa bunaiya laa taqsus

رُعَيَاكَ عَلَى إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُ وَالَّكَ كَيْدًا إِنَّ الشَّيْطَنَ لِلْإِنْسَانِ

ru'yaaka 'alaaa ikhwatika fayakeedoo laka kaidaa; innash Shaitana lil insaan

عَدُوٌّ مُبِينٌ وَكَذِيلَكَ يَجْتَبِيَكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ

'aduwum mubeen (5) Wa kazaalika yajtabeeka rabbuka wa yu'allimuka min ta'weel

الْأَحَادِيثِ وَيُتَمِّمُ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى الِّيَعْقُوبَ كَمَا أَتَاهَا

ahaadeesi wa yutimmu ni'matahoo 'alaika wa 'alaaa Aali Ya'qooba kamaaa atammahaa

عَلَى أَبَوِيْكَ مِنْ قَبْلِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

'alaaa abawaika min qablu Ibraheema wa Isaaq; inna Rabbaka 'Aleemun hakeem (section 1) (6)

منزل ۲ تَقْتِيمِ: حروف کو پڑی جائیں اور کوہارکا
• غلظت: توں ھڈے اور سکم مٹھے دیکھیں اور اڑاکیں ایک ایسا کلمہ جس کے پڑھنے پر جو کوہارکا
• اچھتا: توں سماں اور سکم سماں جس کے پڑھنے پر جو کوہارکا (ب) ہوئے اور اکوچھیشم (تک) میں سچا کر پڑھا
• سچا: اس سہی کوہارکا کے پڑھنے پر جو کوہارکا کے پڑھنا اچھا ہے
• پاؤ: .. تمنیں کوہارکا کے پڑھنے پر جو کوہارکا کے پڑھنا اچھا ہے

لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ أَيْتٌ لِّسَائِلِينَ ﴿٤﴾ إِذْ قَالُوا

Laqad kaana fee Yoosufa wa ikhwatiheeee Aayaatul lissaaa'ileen (7) Iz qaaloo

لِيُوسُفَ وَأَخْوَهُ أَحَبَّ إِلَى آبِيهَا مِنَا وَنَحْنُ عُصَبَةٌ إِنَّ آبَانَا

la Yoosufu wa akhoohu ahabbu ilaaa Abeenaa minnaa wa nahnu 'usbatur; inna abaanaa

لَفِي ضَلَلٍ مُّبِينٍ ﴿٤﴾ **أَقْتُلُوا يُوسُفَ أَوْ أَطْهِرُوهُ أَرْضًا يَخْلُ لَكُمْ**

lafee dalaalim mubeen (8) Uqtuloo Yoosufa awitra hoohu ardany yakhlu lakum

وَجْهُهُ أَيْيُكُمْ وَتَكُونُوا مِنْ بَعْدِهِ قَوْمًا ضَلِّيْعِينَ ٦٧ ﴿٦٧﴾ قَالَ قَائِلٌ

wajhu abeekum wa takoonoo mim ba'dihee qawman saaliheen (9) Qaalaa qaaa'ilum

مِنْهُمْ لَا تَقْتُلُوا يُوسُفَ وَالْقُوَّةُ فِي غَيْبَتِ الْجُبِ يَلْتَقِطُهُ بَعْضُ

minhum laa taqtuloo Yoosufa wa alqoohu fee ghayaabatil jubbi yaltaqithu badus

السَّيَّادَةِ إِنْ كُنْتُمْ فَعِلِّيْنَ ۝ قَالُوا يَا ابْنَانَا مَا لَكَ لَا تَأْمَنَّا عَلَىٰ

sai yaarati in kuntum faa 'ileen (10) Qaaloo yaaa abaanaa maa laka laa ta'mannaa 'alaa

يُوسُفَ وَإِنَّا لَهُ لَنَصِحُونَ ﴿١٦﴾ أَرْسَلْنَا مَعَنَا عَدَا يَرْتَعُ وَيَلْعَبُ

Yoosufa wa innaa lahoo lanaa sihoon (11) Arsillhu ma'anaa ghadany yarta'wa yal'ab

وَإِنَّ لَهُ لَحْفَطُونَ ﴿٢﴾ **قَالَ إِنِّي لَيَحْزُنُنِي أَنْ تَذَهَّبُوا إِلَيْهِ وَأَخَافُ**

wa innaa laahoo lahaafizoon (12) Qaala innee la yahzununeee an tazhaboo bihee wa akhaafu

۱۹۷۰-۱۹۷۱

any ya'kulahuz zi'bu wa antum 'anhu ghaafiloон (13) Qaaloo la in akalahu

وَمُؤْمِنٍ بِرَبِّهِ وَلَا يَكُونُ مِنَ الظَّالِمِينَ

zzi'bu wa nahnu 'usbatun innaaa izal lakaasiroon (14) Falammaa zahaboo bihee wa

وَمِنْ أَنْجَانَ الْأَرْضِ وَالْمَاءِ وَالْجَنَّةِ وَالْمَنَّ وَالْمَلَائِكَةِ

ajma'ooo anyyaj'aloohu fee ghayaabatil jubb; wa awyainaaa ilaihi latunabbi 'annahum

سَمِّعَ هُنَّا هُنْ لَا شَعْرٌ وَنَمَّ حَاجَةً أَكْهَفَ عَشَاءً تَكَوَّنَ

متنزل ۳ تفہیم: حروف کو پڑائیں اور دو لایک الف کے پر اپنے لامبے کرننا
تھی۔ تو نہ دوسرے کو پڑائیں اور دو لایک الف کے پر اپنے کوتھے کرننا
لایک: اون میں ساکن اون میں ساکن کس کے لئے ہے (یہ بیوی آئندہ تھیں) (اپنے حدا
کو خود کر، بالکل اون میں ساکن کو خود کر دیں اسی کی اون دلائلیں ایک ایک
دیکھیں۔ اس سکیما الف کے پر اپنے لامبے کرنے کے پیشے کے
تفہیم: تھیں۔ تھیں الف کے پر اپنے لامبے کرنے کے پر اپنے لامبے کرنے کے
لایک: اون میں ساکن اون میں ساکن کے لئے ہے (یہ بیوی آئندہ تھیں) (اپنے حدا
کو خود کر، بالکل اون میں ساکن کو خود کر دیں اسی کی اون دلائلیں ایک ایک
دیکھیں۔ اس سکیما الف کے پر اپنے لامبے کرنے کے پیشے کے

قَالُوا يَا بَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَعِنُكَ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا

Qaaloo yaaa abaanaaa innaa zahabnaa nastabiqo wa taraknaa Yoosufa 'inda mataa'inaa

فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ وَمَا أَتَى بِمُؤْمِنٍ لَّنَا وَلَوْ كُنَّا صَدِيقِينَ

fa akhalahuz zi'b, wa maaa anta bimu'minil lanaa wa law kunnaa saadiqueen (17)

وَجَاءُوا عَلَى قَبِيْصِهِ بِدَمِ كَذِبٍ قَالَ بَنْ سَوَّلَتْ لَكُمْ

Wa jaaa'oo 'ala qameesi hee bidamin kazib qaala bal sawwalat lakum

أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبَرُ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَنُ عَلَى مَا تَصْفُونَ

anfusukum amra; fasabrun jameel; wallaahul musta'aanu 'ala maatasifoon (18)

وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَازْسَلُوا وَأَرِدُهُمْ فَأَذْلَى دَلْوَةً قَالَ يَيْشَرَى

Wa jaaa'at sayaaratun fa-arsaloo waaridahum fa adlaa dalwah; qaala yaa bushraa

هُذَا غُلْمٌ وَآسَرَ وَكَدُّ بِضَاعَةٍ وَاللَّهُ عَلَيْهِ بِئْتَا يَعْلَمُونَ وَ

haaza ghulaam; wa asarroohu bi-daa'ah; wallaahu 'aleemum bimaa ya'maloon (19) Wa

شَرَّهُ وَكُبِّشَنَ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ

sharawhu bisamanim bakhshin daraahima ma'doo datinw wa kaanoo feehi minaz zaahideen (section 2) (20)

وَقَالَ اللَّذِي أَشْتَرَهُ مِنْ مِصْرَ لِامْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثُولُهُ عَسَى

Wa qaala lazish taraahu mim Misra limra atihhee akriimee maswaahu 'asaaa

أَنْ يَنْهِي فَعَنَّا أُونَتَخِذَةَ وَلَدَّا وَكَذِلِكَ مَكَنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ

any-yanfa'anaaa aw nattakhizahoo waladaa; wa kazaalika mak-kannaa li-Yoosufa fil ardi

وَلِنُعَلِّمِهِ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ

wa linu'allimahoo min ta'weel ahaadees; wallaahu ghaalibun 'alaaa amrihee

وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ وَلَمَّا بَلَغَ أَشَدَّهُ أَتَيْنَاهُ حُكْمًا

wa laakinna aksaran naasi laa ya'lamoona (21) Wa lammaa balagha ashuddahooo aatainaahu hukmanw

وَعِلْمًا وَكَذِلِكَ نَجْزِي السُّخْسِنِينَ وَرَأَوْدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي

wa 'ilmaaa; wa kazaa lika najzil muhsineen (22) Wa raawadat hul latee huwa fee

مُنْتَدِلٌ: اون وادر سکھ دیکی اور اڑاکیں ایک الٹ کے برابر لہما کرنا

مُنْجَلَّ: خداوند کی ایک ایسا کام جس کے بعد (بے ہو) آئی آؤ جو کچھ ہے

مُنْجَلَّ: اون سکھ ایک ایسا کام کیا جائے جس کے بعد (بے ہو) آئی آؤ جو کچھ ہے

مُنْجَلَّ: ایک الٹ کے برابر لہما کر کے پڑھا جائے

بَيْتَهَا عَنْ نَفْسِهِ وَ غَلَقَتِ الْأَبْوَابَ وَ قَاتَ هَيْثَ لَكَ طَقَالَ

baitihaa 'an nafsihee wa ghallaqatil abwaaba wa qaala haita lak; qaala

مَعَادَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّ الْأَحْسَنِ مَشْوَايَةً إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ

ma'aazal laahi innahoo rabbee ahsana maswaay; innahoo laa yuflihuz-zaalimoon (23)

وَ لَقَدْ هَبَثُ بِهِ وَ هُمْ بِهَا لَوْلَا أَنَّ رَبَّهَا بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذِيلَكَ

Wa laqad hammat bihee wa hamma bihaa law laaa ar ra-aa burhaana rabbih; kazaalika

لِنَصْرَافَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ

linasrafa 'anhu sooo'a walfa hshaaa'; innahoo min 'ibaadi naal mukhlaseen (24)

وَ اسْتَبَقَ الْبَابَ وَ قَدَّرْتُ قَمِيْصَهُ مِنْ دُبْرِ الْفَيَّا سِيَدَهَا لَدَا

Wastabaqal baaba wa qaddat qameesahoo min duburinwa alfayaa saiyyidahaa lada

الْبَابُ قَاتَ مَا جَزَأَهُ مِنْ أَدَادِ بَاهِلَكَ سُوءًا لَا أَنْ يُسْجَنَ أَوْ

baab; qaala maa jazaa'u man araada bi ahlika sooo'an illaaa any-yusjana aw

عَذَابُ الْآيِمِمَ قَالَ هِيَ رَأْوَدَتِنِي عَنْ نَفْسِي وَ شَهِدَ شَاهِدُ

azaabun 'aleem (25) Qaala hiya raawadatnee 'an nafsee wa shahida shaahidum

مِنْ أَهْلِهَا إِنْ كَانَ قَمِيْصَهُ قُدَّ مِنْ قُبْلِ فَصَدَقَتْ وَ هُوَ

min ahlihaa in kaana qameesuhoo qudda min qubulin fasadaqat wa

مِنَ الْكُذِيلِينَ وَ إِنْ كَانَ قَمِيْصَهُ قُدَّ مِنْ دُبْرِ فَكَذَبَتْ

huwa minal kaazibeen (26) Wa in kaana qameesuhoo qudda min duburin fakazabat

وَ هُوَ مِنَ الصَّدِيقِينَ فَلَمَّا رَأَ قَمِيْصَهُ قُدَّ مِنْ دُبْرِ قَالَ إِنَّهُ

a huwa minas saadiqeen (27) Falammaa ra-aa qamee sahoo qudda min duburin qaala innah

مِنْ كَيْدِ كُنَّ طَ إِنْ كَيْدَ كُنَّ عَظِيمٌ يُوسُفُ أَعْرَضَ عَنْ هَذَا

min kaidikunna inna kaidakunna 'azeem (28) Yoosofu a'rid 'an haaza

وَ اسْتَغْفِرِي لِذَنْبِكَ إِنَّكَ كُنْتَ مِنَ الْخَطِيْبِينَ وَ قَالَ نِسْوَةٌ

wastaghfiree lizambiki innaki kunti minal khaati'een (section 3)(29) Wa qaala niswatan

● نقاش: اون ہڈی وار سکھ دیکی اور اڑاکیں الگ کے بر ایسا کرنا

● نقاش: حروف کو پیر لئی آئی اور کوچھ رکھنا

● نقاش: اون ساکن اور سکھ دیکی اور سکھ میں کس کے بعد (ب) ہوئی آئی وہاں پیش کیا تھا

● نقاش: اس سب سے ایک الگ کے بر ایسا کر کے پڑھا جائے

فِي الْمَدِينَةِ امْرَأٌ تُرَاوِدُ فَتَهَا عَنْ نَفْسِهِ قَدْ شَغَفَهَا

fil madeenatim ra atul'Azeezi turaawidu fataahaa 'an nafsihee qad shaghafahaa

حُبَّاً إِنَّ لَهُمَا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٣٠﴾ فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ

hubbaa; innaa lana raahaa fee dalaalim mubeen (30) Falammaa sami'at bimak rihinna arsalat

إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً وَأَتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا

ilaihinna wa a'tadat lahunna muttaka anw wa aataat kulla waahidatim min hunna sikkeenaw

وَقَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ ﴿٣١﴾ فَلَمَّا رَأَيْنَهُنَّ أَكْبَرْنَاهُنَّ وَقَطَعْنَ أَيْدِيهِنَّ

wa qaala tikh ruj 'alaihinna falammaa ra aynahooo akbarnahoo wa qatta'na aydiyahunna

وَقُلْنَ حَاشِ اللَّهُ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ ﴿٣٢﴾ قَالَتْ

wa quln haashha lillaahi maa haaza basharaa; in haazaa illaa malakun kareem (31) Qaalat

فَدِلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنِّي فِيهِ وَلَقَدْ رَأَوْدَتْهُ عَنْ نَفْسِهِ

fazaalikunnal lazee lumtunnanee feeh; wa laqad raawattuhoo 'an nafsihee fasta'sam;

فَاسْتَعْصَمْ وَلَيْنَ لَمْ يَفْعَلْ مَا أَمْرَأَهُ لَيْسَ جَنَّ وَلَيَكُونَنَا مِنْ

wa la'il lam yaf'al maaa aamruhu la yusjananna wa la yakoonam minas

الصَّغِيرَيْنَ ﴿٣٣﴾ قَالَ رَبُّ السِّجْنِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَ فِي إِلَيْهِ

saaghireen (32) Qaalaa rabbis sijnu ababbu ilaiya mimma yad'oo nanee 'ilaihi

وَإِلَّا تَصْرِفُ عَنِّي دُكْيَدُهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكْنُ مِنْ الْجَهِيلِيْنَ ﴿٣٤﴾

wa illaa tasrif'annee kaidahunna asbu ilaihinna wa akum minal jaahileen (33)

فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ إِنَّهُ هُوَ السَّيِّئُ

Fastajaaba laahoo rabbuhoo fasarafa 'anhu kaidahunn; innahoo huwas Samee'u'l

الْعَلِيْمُ ﴿٣٥﴾ ثُمَّ بَدَا لَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا رَأَوْا الْأَيْتِ لَيْسَ جُنْنَةً حَتَّىٰ

'Aleem (section 4) (34) Summa badaa lahun min ba'di maa ra-wul Aayaati layasjununnahoo hatta

١٢
٤

جِينَ ﴿٣٦﴾ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيْنِ ﴿٣٧﴾ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَيْنَ

heen (35) Wa dakhala ma'a hussijna fata-yaan; qaala ahaduhumaaa innee araaaneec

أَعْصَمْ حَمِرًا وَقَالَ الْآخِرُ إِنِّي أَذِنِي أَحْبَلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزًا

a'siru khamranw wa qaalal aakharu inneece araaneec ahmilu fawqa ra'see khubzan

تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ نَسْتَعْنَاهُ بِتَأْوِيلِهِ إِنَّا نَرَكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ٣٦

ta'kulut tairu minhu; nabbi'naa bi ta'weelih; innaa naraaka minal muhsineen (36)

قَالَ لَا يَأْتِي كُمَا طَعَامٌ تُرْزَقُنَاهُ إِلَّا نَبَاتُكُمَا بِتَأْوِيلِهِ قَبْلَ أَنْ

Qaala laa ya'teekumaa ta'aamun turzaqaniheee illaa nabba'tukumaa bi ta'weelihee; qabla any

يَأْتِي كُمَا ذِلِّكُمَا مِمَّا عَلِمْنَا إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ

ya'tizakumaa; zaalikumaa mimmaa 'allamanee rabbee; innee taraktu millata qawmil

لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كُفَّارٌ وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ

laa yu'minoona billaahi wahum bil aakhirati hum kaafiroon (37) Wattaba'tu millata

ابَاءِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ مَا كَانَ لَنَا أَنْ نُشَرِّكَ

aabaaa'eee Ibraheema wa Ishaaqa wa Ya'qoob; maa kaana lanaaa an nushrika

بِاللَّهِ مِنْ شَيْءٍ ذِلِّكَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ

billaahi min shai'; zaalikamin fadlil laahi 'alainaa wa 'alan naasi

وَلِكُنَّ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ يَصَاحِبِ السِّجْنِ عَارِبَابٌ

wa laakinna aksaran naasi laa yashkuuron (38) Yaa saahibayis sijni 'a-arbaabum

مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ الْلَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ

mutafarriqona khayrun amil laahul waahidul qahhaar (39) Maa ta'budoona min

دُونَهُ إِلَّا أَسْيَاءَ سَيِّتُهُوا أَنْتُمْ وَابْنُوكُمْ مَا أَنْزَلَ

doonihee illaaa asmaaa'an sam maitumoohaaa antum wa ababaa'ukum maaa anzalal

اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَنٍ إِنِّي الْحُكْمُ إِلَّا بِلَهِ أَمْرٌ إِلَّا تَعْبُدُوا

laahu bihaa min sultan; inlhukmu illaa lillaah; amara allaa ta'budooo

إِلَّا إِيَّاهُ ذِلِّكَ الدِّينُ الْقَيْمُ وَلِكُنَّ أَكْثَرُ النَّاسِ

illaaa iyyaah; zaalikad deenul qaiyimu wa laakinna aksaran naasi

● نقاش: اون ھڈہ اور سکھ دیکی آدا ڈالیک الٰہ کے برابر لہا کرنا

● نقاش: اون سکھ اور سکھ دیکی آدا ڈالیک الٰہ کے برابر (ب) ہوئی آدا ڈالیک میں جیسا کچھ حدا

● نقاش: اون سکھ اور سکھ دیکی آدا ڈالیک الٰہ کے برابر لہا کر کے پڑھا جاپے

لَا يَعْلَمُونَ ﴿٤٠﴾ يَصَاحِبِ السِّجْنِ أَمَّا أَحَدُكُمَا فَيَسْقُى رَبَّهُ

laa ya'llamoon (40) Yaa saahibayis sijni ammaaa ahadukumaa fa yasqee rabbahoo

خَمْرًا ۝ وَ أَمَّا الْأُخْرُ فَيُضَلُّ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ

khamranw wa ammal aakharu fa yuslabu fata'kulut tairu mir ra'sih;

قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِينِ ﴿٤١﴾ وَقَالَ لِلَّذِي فَلَّأَنَّ اللَّهَ

qudiyal amrul lazee feehi tastaftiyaan (41) Wa qaala lillazee zanna annahoo

نَاجِ مِنْهُمَا اذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ فَأَنْسِهِ الشَّيْطَنَ ذُكْرَ رَبِّهِ

najim minhumaz kurnee 'inda rabbika fa-ansaahush Shaitaanu zikra Rabbihii

فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضَعْ سِنِينِ ﴿٤٢﴾ وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَى سَبْعَ

falabisa fis sijni bid'a sineen (section 5)(42) Wa qaatal maliku innnee araa sab'a

بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعَ عِجَافٍ وَ سَبْعَ سُنْبُلَتٍ خُضْرًا

baqaraatin simaaniny ya'kuluhunna sab'un 'ijaafunw wa sab'a sumbulaatin khudrinw

وَ أُخْرَ يُبَشِّرُ يَأْيُهَا الْمَلَأُ آفْتُونِي فِي رُعْيَاتِ إِنْ كُنْتُمْ

wa ukhara yaabisaat; yaaa ayuhal mala-u aftoonee fee ru'yaaya in kuntum

إِلَيْكُمْ عِيَا تَعْبُرُونَ ﴿٤٣﴾ قَالُوا أَضْغَاثُ أَخْلَامٍ وَ مَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ

lirru'yaa ta'buroon (43) Qaalooo adghaausu ahlaa minw wa maa nahnu bi ta'weelil

الْأَخْلَامِ بِعِلْمِيْنِ ﴿٤٤﴾ وَقَالَ الَّذِي نَجَّا مِنْهُمَا وَادَّكَ بَعْدَ

ahlamaa bi'aalimeen (44) Wa qaatal lazee najaa minhumaa waddakara ba'da

أُمَّةٌ أَنَا أُنِئُكُمْ بِتَأْوِيلِهِ فَأَرْسَلُونَ ﴿٤٥﴾ يُوسُفُ أَيْهَا الصِّدِّيقُ

ummatin ana unabbi'ukum bi ta'weelihe fa-arsiloon (45) Yoosufu ayyuhas siddeeque

أَفْتَنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعَ عِجَافٍ وَ سَبْعَ

astinnaa fee sab'i baqaraatin simaaniny ya'kuluhunna sab'un 'ijaafunw wa sab'i

سُنْبُلَتٍ خُضْرًا وَ أُخْرَ يُبَشِّرُ لَعَلَّ أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ

sumbulaatin khudrinw wa ukhara yaabisaatil la'allee arji'u ilan naasi

● نَفَقَهُ: اُونَّ هَذِهِ دَوْرَتِمْ مَهْرَهِ دَوْرَتِمْ لَكَ اَوْ لَوْلَيْكَ الَّذِي بِرَاهِيمَ كَرَأَ

● فَلَقَقَهُ: حَرْفُ كُوپِيَتِيَّ اَوْ كَوْجَارِكَهُ ● فَلَقَقَهُ: سَكَنَ حَرْفُ كُوپِيَتِيَّ اَوْ كَوْجَارِكَهُ

● كَوْجَارِكَهُ: الْفَلَقَقَهُ اَوْ كَوْجَارِكَهُ جَزِيَّهُ بَيْنَ اَوْ كَوْجَارِكَهُ اَوْ كَوْجَارِكَهُ

● بَيْنَ: اَنْ سَبِّهِ الْفَلَقَقَهُ اَوْ كَوْجَارِكَهُ كَمْ بِرَاهِيمَ كَرَأَ

● مَنْزِلٌ ۲: تَفْعِيلُهُ: حَرْفُ كُوپِيَتِيَّ اَوْ كَوْجَارِكَهُ (بَيْنَ) مَيْسَرَهُ كَمْ بِرَاهِيمَ كَرَأَ

لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿٤٦﴾ قَالَ تَرْعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأْبًا فَبَأَ

la'allahum ya'lamoona (46) Qaala tazra'ona sab'a sineena da aban famaa

حَصَدْتُمْ فَذَرْوْكُمْ فِي سُنْبِلَةٍ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَأْكُلُونَ ﴿٤٧﴾ ثُمَّ

hasattum fazaroohu fee sumbu liheee illaa qaleelam mimmaa ta'kuloon (47) Thumma

يَأْتِيْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعَ شِدَادٍ يَأْكُلُنَّ مَا قَدَّمْتُمْ

ya'tee mim ba'di zaalika sab'un shidaadun ya'kulna maa qaddamtum

لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تُحْصِنُونَ ﴿٤٨﴾ ثُمَّ يَأْتِيْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ

lahunna illaa qaleelam mimmaa tuhsinoon (48) Thumma ya'tee mim ba'di zalika

عَامِهِ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِمُونَ ﴿٤٩﴾ وَ قَالَ الْمَلِكُ

'aamun feehi yughaa sun naasu wa feehi ya'siroon (section 6) (49) Wa qaalal maliku'

أَتُتُوْنِيْ بِهِ فَلَدَّا جَاءَكُ الرَّسُولُ قَالَ ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ

toonee bihee falammaa jaaa'ahur rasoolu qaalar-ji ilaa rabbika

فَسَأْلُهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ الَّتِيْ قَطَعْنَ أَيْدِيهِنَّ طَإِنَّ

fas'alhu maa baalun niswatal laatee qatta'na aydiyahunn; inna

رَبِّيْ بِكَيْدِهِنَّ عَلِيِّمٌ ﴿٥٠﴾ قَالَ مَا خَطَبُكُنَّ إِذْ رَأَوْدُتُنَّ يُوسُفَ

Rabbee bikaidihinna 'Aleem (50) Qaala maa khatbukunna iz raawattunna Yoosufa

عَنْ نَفْسِهِ قُلْنَ حَاشَ اللَّهُ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ ط

'annafsihi; qulna haasha lillaahi maa 'alimnaa 'alaihi min sooo';

قَالَتِ امْرَأُتُ الْعَزِيزِ إِنَّ حَضَرَ الْحَقِّ دَأْنَا رَأَوْدَتَهُ

qaalatim ra atul 'Azeezil 'aana hashasal haqq, ana raawat tuhoo

عَنْ نَفْسِهِ وَ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّدِيقِينَ ﴿٥١﴾ ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي

'an nafsihee wa innahoo laminas saadiqueen (51) Zaalika liya'lama annee

لَمْ أَخْنُهُ بِالْغَيْبِ وَ أَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَابِرِينَ ﴿٥٢﴾

Iam akhunhu bilghaibi wa annal laaha laa yahdee kaid al-khabireen (End Juz 12) (52)

منزل ۳ تفہیم: حروف کو پڑھنے کا انکھ کو کارہ کرنا

● عَلَيْكَ: اون ھڈہ اور سکھ دیکی ادا رکھنے والے الف کے برابر لہما کرنا

● اخْلَقَ: اون ساکن اخْلَقْ ہیں اور سکم ساکن گیس کے برابر (ب) ہوئی آؤ تو چھٹیم (ت) میں جھپٹ کرچھ

● بَعْدَ: اس سب سے بعد الک کے برابر لہما کر کے پڑھا جائے

وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا دَحَّمَ

Wa maa ubarri'u nafsee; innan nafsa la ammaaratun bissoo'i illaa maa rahima

رَبِّ إِنَّ رَبِّيْ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٥٣﴾ وَقَالَ الْمَلِكُ اتَّعْنُونِ بِهِ أَسْتَخْلِصُهُ

Rabbee; imna Rabbee Ghafoorur Raheem (53) Wa qaalal maliku' toonee bihee astakhliishu

إِنْفُسِيْ فَلَدَّا كَلَمَةً قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينُونَ آمِينُ ﴿٥٤﴾ قَالَ

linafsee falammaa kallamahoo qala innakal yawma ladainaa makeenun amen (54) Qaalaj

اجْعَلْنِي عَلَى خَرَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلَيْهِمْ ﴿٥٥﴾ وَكَذِلِكَ

'alnee 'alaa khazaaa'inal ardi innee hafeezun 'aleem (55) Wa kazaalika

مَكَنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ طَنْصِيبُ

makkanna li Yoosufa fil ardi yatabawwa'u minhaa haisu yashaaat'; nuseebu

بِرَحْمَتِنَا مَنْ شَاءَ وَلَا نُفِيَعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٦﴾ وَلَا جُزْ

birahmatinaa man nashaa'u wa laa nudee'u ajral muhsineen (56) Wa la ajrul

الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ أَمْنَوْا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ﴿٥٧﴾ وَجَاءَ إِخْوَةُ

Aakhirati khairul lillazeena aamanoo wa kaanoo yattaqoon (section 7) (57) Wa jaaa'a ikhwatu

يُوْسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفُهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ ﴿٥٨﴾ وَلَمَّا

Yoosufa fadkhaloo 'alaihi fa'arafahum wa hum lahoo munkiroon (58) Wa lammaa

جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ قَالَ اتَّعْنُونِ بِأَخِيْ لَكُمْ مِنْ أَبِيهِكُمْ إِلَّا

jahhazahum bijahaazihim qaala' toonee bi akhil lakum min abeekum; alaa

تَرَوْنَ أَنِّي أَوْفِيَ الْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ ﴿٥٩﴾ فَإِنَّمَا تَأْتُونِي

tarawna annee oofil kaila wa ana khairul munzileen (59) Fa il lam taatoonee

بِهِ فَلَاكِيلَ لَكُمْ عِنْدِيْ وَلَا تَقْرَبُونَ ﴿٦٠﴾ قَالُوا سَنُرَأِيْدُ عَنْهُ

bihee falaa kaila lakum 'indee wa laa taqraboon (60) Qaalo sanuraawidu 'anhу

أَبَاكُ وَإِنَّا لَفَعِلُونَ ﴿٦١﴾ وَقَالَ لِفَتَيْنِهِ اجْعَلُوهُ بِضَاعَتَهُمْ فِي

abaahu wa innaa lafaa'iloon (61) Wi qaala lifyaanihij 'aloo bidaa'atahum fee

رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا إِذَا اتَّقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ

rihaalihim la'allahum ya'rifoonaahaaa izan qalabooo ilaaa ahlihim la'allahum

يَرِجُعُونَ ﴿٦﴾ فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَىٰ أَبِيهِمْ قَالُوا يَا بَانَا مُنِعَ مِنَ الْكَيْلِ

yarji'oون (62) Falammaa raja'oo ilaaa abeehim qaalo yaaa abaanaa muni'a minnal kailu

فَأَرْسَلْنَا مَعَنَا أَخَانَا نُكْتَلَ وَإِنَّا لَهُ لَحَفِظُونَ ﴿٧﴾ قَالَ هَلْ

fa arsil ma'anaaa akhaanaa naktal wa innaa lahoo lahaafizoon (63) Qaala hal

أَمْنِنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا أَمْنَتُكُمْ عَلَىٰ أَخِيهِ مِنْ قَبْلٍ ﴿٨﴾ فَاللَّهُ

aamanukum 'alii illaa kamaa amintukum 'alaaa akheehimin qabl; fal laahu

خَيْرٌ حَفِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّحِيمِينَ ﴿٩﴾ وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ

khairun haafizanw wa Huwa arhamur Raahimeen (64) Wa lammaa fatahoo mataa 'ahum

وَجَدُوا بِصَاعِتَهُمْ رُدَثٌ إِلَيْهِمْ قَالُوا يَا بَانَا مَانَبَغِي هَذِهِ

wajadoo bida'a'tahum ruddat ilaihim qaalo yaaa abaanaa maa nabghee; haazihee

بِصَاعِتَنَا رَدْتُ إِلَيْنَا وَنَبَغِرُ أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ أَخَانَا وَنَزَدَ أَدْكَيْلَ

bida 'atunaa ruddat ilainaa wa nameeru ahlanaa wa nahfazu akhaanaa wa nazdaadu kaila

بَعِيرٌ ذِلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ ﴿١٠﴾ قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّىٰ تُؤْتُونِ

ba'eer; zaalika kailun yaseer (65) Qaala lan ursilahoo ma'akum hattaa tu'tooni

مَوْتِقًا مِنَ اللَّهِ لَتَاتُنَّنِي بِهِ إِلَّا أَنْ يُحَاطَ بِكُمْ فَلَمَّا أَتَوْهُ

mawsiqam minal lahis lataa tunnanee bihee illaa nay yuhaata bikum falammaaa aataawhu

مَوْتِقَهُمْ قَالَ اللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكَيْلٌ ﴿١١﴾ وَقَالَ يَبْنِيَ

mawsiqahum qaalaal laahu 'ala maa naqoolu Wakeel (66) Wa qaala yaa baniyya

لَا تَدْخُلُوا مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ

laa tadkhuloo mim baabinw waa hidinw wadkhuloo min abwaabim mutafarriqah;

وَمَا أَغْنَيْتُكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ

wa maaa ughnee 'ankum min laahi min shai'in; inil hukmu illaa lillaahi 'alaihi

مُتَقَّدٌ: اونوں مدد کی اور کوئی مدد کرنے والا بھی اپنے الٰہ کے پر اپنے لامبا کرتا

مُنْزَلٌ: مُتَقَّدٌ: جو روپ کو پیر یعنی آدمی اور کوئی رکھنا۔ قائلہ: مدنگی کو اپنے لامبا کرنے والا بھی اپنے الٰہ کے پر اپنے لامبا کرتا۔

مُكْوَنٌ: اون سماں اور کوئی جنگی آرٹیلری یا اور کوئی سانگ میں کے اونوں مدد کی اور کوئی مدد کرنے والا بھی اپنے الٰہ کے پر اپنے لامبا کرتا۔

مُعْلَمٌ: اس سب سے اپنے الٰہ کے پر اپنے لامبا کرنے والا بھی اپنے الٰہ کے پر اپنے لامبا کرتا۔

تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلِيَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ ﴿٦﴾ وَلَمَّا خَلُوا مِنْ حَيْثُ

tawakkaltu wa 'alaihi fal yatawakkalil Mutawakkiloon (67) Wa lammaa dakhloo min haisu

أَمْرُهُمْ أَبُوهُمْ مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةً

amarahum aboohum maa kaana yughnee 'anhum minal laahi min shai'in illaa haajatan

فِي نَفْسٍ يَعْقُوبَ قَضَاهَا وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لَيْسَ عَلَيْهِ وَلِكُنَّ

fee nafsi Ya'qoba qadaahaa; wa innahoo lazoo 'ilmil limaa 'allamnaahu wa laakinna

أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٦٨﴾ وَلَمَّا خَلُوا عَلَىٰ يُوسُفَ أَوْى إِلَيْهِ

aksaran naasi laa ya'lamoona (section 8) (68) Wa lammaa dakhloo 'alaa Yoosufa aawaaa ilaihi

أَخَاهُ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَسِّسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٦٩﴾ فَلَمَّا

akhaahu qaala innee ana akhooka falaa tabta'a is bimaa kaanoo ya'mloon (69) Falammaa

جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ السِّقَايَةَ فِي دَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَنَ

jahhazahum bijahaazihim ja'alas siqaayata fee rahli akheeji summa azzana

مُؤْذِنٌ أَيَّتُهَا الْعِيرَانَكُمْ لَسِرِّاقُونَ ﴿٧٠﴾ قَالُوا وَأَقْبَلُوا عَلَيْهِمْ مَمَّا ذَادَ

mu'azzinun ayyatuhal'eeru innakum lasaariqoon (70) Qaaloo wa aqbaloo 'alaihim maazaa

تَفْقِدُونَ ﴿٧١﴾ قَالُوا نَفْقِدُ صَوَاعِ الْمُتَلِّكِ وَلَمَّا جَاءَهُمْ حِيلٌ بَعِيرٌ

tafqidoon (71) Qaaloo nafqidu suwa'al maliki wa liman jaaa'a bihee himlu ba'erinw

وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ ﴿٧٢﴾ قَالُوا تَالَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا جَنَّنَا نُفْسِدَ فِي الْأَرْضِ

wa ana bihee za'eem (72) Qaaloo tallaahi laqad 'alimtu maa ji'na linufsida fil ardi

وَمَا كُنَّا سِرِّيقِينَ ﴿٧٣﴾ قَالُوا فَمَا جَزَاؤُهُ إِنْ كُنْتُمْ كُذِّيْنَ ﴿٧٤﴾ قَالُوا

wa maa kunnaa saarieqeen (73) Qaaloo famaa jazaau hooo in kuntum kaazibeen (74) Qaaloo

جَزَاؤُهُ مَنْ وُجِدَ فِي دَحْلِهِ فَهُوَ جَزَاؤُهُ طَكَذِيلَكَ نَجْزِي

jazaau'hoo man wujida fee rahlihee fahuwa jazaau'uh; kazaalika najziz

الظَّلَمِيْنَ ﴿٧٥﴾ فَبَدَا بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَاءِ أَخِيهِ ثُمَّ اسْتَخَرَ جَهَّا

zaalimeen (75) Fabada-a bi-aw'iyatihim qabla wi'aaa'i akheeji summas takhrjahaa

مُتَّقَ: اونوں داروں میں مدد کی، آڈا توکیلِ اللہ کے برائے لامہ کرنا

منزل ۳: تلقین: حروف کو پڑھنی آئندگانی اور کوچھ رکھنا۔ قلقلیخا: ساکن حرف کو اکٹھا کرنا۔

کوچھ: ایسا کوچھ جو کوچھیں اور کوچھیں جو کوچھیں۔ (ت) میں جیسا کچھ حدا

جیسا: اس سب سے کوچھیں۔ اس سب سے کوچھیں کوچھیں کوچھیں کے

پڑھانا ہے۔ تمیں اللہ کے برائے پڑھنے پڑھنے اس پر اپنے اجنب ہے

مِنْ وِعَاءِ أَخِيهِ ۖ كَذَلِكَ كَدَنَالْيُوسُفَ ۖ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ

minw wi 'aaa'i akheeh; kazaalika kidnaa li Yoosufi; maa kaana liyaakuza akhaahu

فِي دِينِ الْبَلِكِ إِلَّا نُ يَشَاءُ اللَّهُ ۖ نَرْفَعُ دَرَجَتِ مَنْ نَشَاءُ ۖ وَ

fee deenil maliki illaaa any yashaa'al laah; narfa'u darajaatim man nashaaa'; wa

فَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلَيْمٌ ۚ قَالُوا إِنْ يَسِيرُ فَقَدْ سَرَقَ أَخْمَ

fawqa kulli zee 'ilm 'Aleem (76) Qaaloo iny yasriq faqad saraqa akhul

لَهُ مِنْ قَبْلِهِ فَاسْهَاهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ ۚ قَالَ

lahoo min qabl; fa asarraha Yoosufu fee nafsihee wa lam yubdiha lahum; qala

أَنْتُمْ شَهَادَةٌ مَّا كَانَ ۖ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصْفُونَ ۚ قَالُوا يَا يَاهَا الْعَزِيزُ زَانَ

antum sharrum makaananw wallahu alamu bimaa tasifoon (77) Qaaloo yaaa ayyuhal 'Azeezu inna

لَهُ أَبَا شَيْخًا كَبِيرًا فَخُذْ أَحَدَنَا مَكَانَهُ إِنَّا نَرَكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ۚ

lahooo aban shaikhan kabeeran fakhuz ahadanaa makaanahoo innaa naraaka minal muhsineen (78)

قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ تَأْخُذَ إِلَّا مَنْ وَجَدْنَا مَتَاعَنَا عِنْدَهُ ۚ إِنَّا

Qaala ma'aazal laahi an naakuza illaa manw wajadnaa mataa'anaa 'indahoo innaa

إِذَا الظَّلَمُونَ ۚ فَلَمَّا اسْتَيْسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَحْنُ ۚ قَالَ كَبِيرُهُمْ

izal lazaalimoon (section 9) (79) Falammas tay'asoo minhu khalasoo najiiyan qaala kabeeruhum

الَّمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخْذَ عَلَيْكُمْ مَوْتِيقًا مِنَ اللَّهِ وَ مِنْ

alam ta'lamoona anna abaakum qad akhaza 'alaikum mawsiqam minal laahi wa min

قَبْلُ مَا فَرَطْتُمْ فِي يُوسُفَ ۚ فَلَنْ أَبْرَسَ الْأَرْضَ حَتَّىٰ يَأْذَنَ لِي

qablu maa farrattum fee Yoosufa falan abrahah arda hattaa yaazana lee

أَبِي أُو يَحْكُمَ اللَّهُ لِي ۖ وَهُوَ خَيْرُ الْحَكَمِينَ ۚ إِذْ جَعَوْا إِلَيْكُمْ

abee aw yahkumal laahu lee wa huwa khairul lhaakimeen (80) Irji'ooo ilaaa abeekum

فَقُولُوا يَا أَبَانَا إِنَّ أَبْنَكَ سَرَقَ ۖ وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا وَمَا

faqooloo yaaa abaanaaa innab naka saraq; wa maa shahidnaaa illaa bimaa 'alimnaa wa maa

﴿عَنْ هَذِهِ أَوْرَكَمْ مَهْرَكَةِ دِكِّيٍّ وَأَدَلَّوكَبِ الدَّكَّ كَرَّا﴾

﴿عَلَخَّا، ثُونَ سَكَنَ أَدَرَكَهُنَّ أَوْرَكَمْ سَكَنَ مَهْرَكَةِ دِكِّيٍّ آدَلَّوكَبِ الدَّكَّ كَرَّا﴾

﴿عَلَخَّا، ثُونَ سَكَنَ أَدَرَكَهُنَّ أَوْرَكَمْ سَكَنَ مَهْرَكَةِ دِكِّيٍّ آدَلَّوكَبِ الدَّكَّ كَرَّا﴾

﴿عَنْ هَذِهِ أَوْرَكَمْ مَهْرَكَةِ دِكِّيٍّ وَأَدَلَّوكَبِ الدَّكَّ كَرَّا﴾

كُنَّا لِلْغَيْبِ حَفِظِينَ ﴿٨١﴾ وَسَئَلَ الْقُرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيْدَ

kunnaa lilghaibi haafizeen (81) Was'alil qaryatal latee kunnaa feehaa wal'eeral

الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا وَإِنَّا لَصَدِقُونَ ﴿٨٢﴾ قَالَ بَلْ سَوَّثْ لَكُمْ

lateece aqbalnaa feehaa wa innaa lasaadiqoon (82) Qaala bal sawwalat lakum

أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبَرُوا جَيْلَهُ عَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَنَّ بِهِمْ

anfusukum amran fasabrun jameelun 'asal laahu any yaa tiyanee bihim

جَيْلَهُ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ﴿٨٣﴾ وَتَوَلَّ عَنْهُمْ وَقَالَ يَا سَفَنِي

jamee'aa; innahoo Huwal 'Aleemul Hakeem (83) Wa tawallaa 'anhum wa qaala yaaa asafaaf

عَلَى يُوسُفَ وَابْنِيَضْتَعَ عَيْنِهِ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ ﴿٨٤﴾

'ala Yoosufa wabyaddat 'aynaahu minal huzni fahwu kazeem (84)

قَالُوا تَالِهِ تَفْتَوْا تَذَكَّرْ يُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَضاً أَوْ

Qaaloo tallaahi tafta'u tazkuru Yoosufa hattaa takoona haradan aw

تَكُونَ مِنَ الْمُهْلِكِينَ ﴿٨٥﴾ قَالَ إِنَّا أَشْكُوا بَشِّيْ وَ حُزْنِي

takoona minal haalikeen (85) Qaala innamaaa ashkoo bassee wa huznee

إِلَى اللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٨٦﴾ يَبْنِي أَذْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا

ilal laahi wa a'lamu minal laahi maa laa ta'lamoon (86) Yaa baniyyaz haboo fatahassasoo

مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكُفَّارُ ﴿٨٧﴾ فَلَدَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا

minzil laahi illal qawmul kaafiroon (87) Falammaa dakhlooh alaihi qaalo

يَا يَاهَا الْعَزِيزُ مَسَنَا وَأَهْلَنَا الصَّرْ وَجِئْنَا بِيَضَاعَةٍ مُّزْجَةٍ

yaaa ayyuhal 'Azeezu massanaa wa ahlanad durru wa ji'naa bibidaa 'timmuzjaatin

فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ ﴿٨٨﴾

fa awfi lanal kaila wa tasaddaq 'alainaa innal laaha yajzil mutasaddiqeen

● نَفْتَنَهُ أَوْنَ حَدَّهُ دَارُوكَمْ مَهْلَكَهُ دَكَّهُ آدَلَوكَبَ الْفَكَرَ كَرَأَهُ
● مَنْزِلٌ ۲ نَفْتَنَهُ حَدَّهُ دَارُوكَمْ مَهْلَكَهُ دَكَّهُ آدَلَوكَبَ الْفَكَرَ كَرَأَهُ
● فَلَمَّا خَلَقَهُ تَوْنَ سَكَنَهُ أَوْرَوكَمْ سَكَنَهُ مَكَّهُ (بَيْهُو) آدَلَوكَبَ حَدَّهُ
● مَكَّهُ (آيَهُ) آنَ سَبَّهُ لَكَبَ الْفَكَرَ كَرَأَهُ لَكَبَ الْفَكَرَ كَرَأَهُ
● مَكَّهُ .. تَمَّ الْفَكَرَ كَرَأَهُ لَكَبَ الْفَكَرَ كَرَأَهُ لَكَبَ الْفَكَرَ كَرَأَهُ

قَالَ هَلْ عَلِمْتُمْ مَا فَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذَا تُمْ جَهْلُونَ ﴿٨٩﴾

(88) Qaala hal 'alimtum maa fa'altum bi Yoosufa wa akheehi iz antum jaahiloon (89)

قَالُوا إِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُفُ طَ قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهَذَا أَخِي دَقَدْ

Qaaloo 'a innaka la anta Yoosufu qaala ana Yoosufu wa haazzaa akhee qad

مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرُ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ

mannah laahu 'alainaa innahoo mai yattaqi wa yasbir fa innal laaha laa yudee'u ajral

الْمُحْسِنِينَ ﴿٩٠﴾ قَالُوا تَالِلَهِ لَقَدْ اثْرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا وَإِنْ كُنَّا

muhsineen (90) Qaaloo tallaahi laqad aasarakal laahu 'alainaa wa in kunnaa

لَخَطِيْعِيْنَ ﴿٩١﴾ قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَعْفُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ

lakhaati'en (91) Qaala laa tasreeba 'alaikumul yawma yaghfirul laahu lakum wa Huwa

أَرْحَمُ الرَّحِيمِينَ ﴿٩٢﴾ إِذْ هُبُوا بِقَمِيْعِيْ هَذَا فَالْقُوْهُ عَلَى وَجْهِهِ

arhamur raahimeen (92) Izhaboo biqameesee haazzaa fa alqoohu 'alaa wajhi

أَيْ يَأْتِ بَصِيرَةً وَأَتُؤْنِيْ بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِيْنَ ﴿٩٣﴾ وَلَمَّا فَصَلَتِ

الْعِيْرُ ﴿٩٤﴾ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجْدُ رِيْحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَنْ تُفْنِدُونِ

'eera qaala aboohum innee la ajidu reeha Yoosufa law laaa an tufannidoon (94)

قَالُوا تَالِلَهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ الْقَدِيْمِ ﴿٩٥﴾ فَلَمَّا آتَنَ جَاءَ الْبَشِيرُ

Qaaloo tallaahi innaka lafee dalaalikal qadeem (95) Falammaaa an jaaa'albasheeru

الْقَمَهُ عَلَى وَجْهِهِ فَارْتَدَ بَصِيرَةً ﴿٩٦﴾ قَالَ أَلَمْ أَقْلُ لَكُمْ إِنِّي

alqaahu 'alaa wajhihee fartadda baseeran qaala alam aqul lakum innee

أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٩٧﴾ قَالُوا يَا بَانَ اسْتَغْفِرِ لَنَا ذُنُوبَنَا

a'lamu minal laahi maa laa ta'lamoona (96) Qaaloo yaaa abaanas taghfir lanaa zunoo banaa

إِنَّا كُنَّا لَخَطِيْعِيْنَ ﴿٩٨﴾ قَالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّيْ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ

innaa kunnaa khaati'en (97) Qaalaa sawfa astaghfiru lakum Rabbeer innahoo Huwal Ghafoor

مُتَّقَ: اونوں میں مفتہ دیکھ کر ادازوں کی الف کے برادر لامہ کرتا

منزل ۳: تخفیم: حروف کو پر لینی آئندگانی اور سماں کی تحریر (ب) یعنی آئندگانی کی تحریر (ت) یعنی جیسا کہ چھپے جائے۔

ابخدا: اون سماں اور سیم سماں کے بعد (ب) یعنی آئندگانی کی تحریر (ت) یعنی جیسا کہ چھپے جائے۔

بَعْدَ: ... تمیں الف کے برادر پانچ الف کے برادر لامہ کے پڑھانا اجب ہے

الرَّحِيمُ ﴿٩٨﴾ فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَىٰ يُوسُفَ أَوْى إِلَيْهِ أَبُوهِيهِ وَقَالَ

Raheem (98) Falammaa dakhlooh 'ala 'Yoosufa aawaaa ilahi abayihhi wa qaalad

اَدْخُلُوا مِصْرَ اِنْ شَاءَ اللَّهُ اَمْنِينَ ﴿٩٩﴾ وَ رَفَعَ اَبُوهِيهِ عَلَىٰ

khuloo Misra inshaa'al laahu aamineen (99) Wa raf'a abawaihi 'alal

الْعَرْشِ وَخَرَّوْا لَهُ سُجَّدًا وَ قَالَ يَأَبْتَ هَذَا تَأْوِيلُ رُعْيَاتِي

'arshi wa kharroo lahoo sujjadaa; wa qala yaaa abati haaza taaweelu ru'yaaya

مِنْ قَبْلٍۡ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّيْ حَقًّا وَ قَدْ اَحْسَنَ بِإِذْ اَخْرَجَنِيْ

min qablu qad ja'alaha Rabbee haqqaa; wa qad ahsana beee iz akhrajnee

مِنَ السِّجْنِ وَجَاءَ بِكُمْ مِنَ الْبَدْ وَ مِنْ بَعْدِ آنِ نَزَّمَ الشَّيْطَنُ

minas sijni wa jaaa'a bikum mimal badwi mim ba'di an nazaghash Shaitaanu

بَيْنِيْ وَ بَيْنَ اَخْوَتِيْ اِنَّ رَبِّيْ لَطِيفٌ لِمَا يَشَاءُ اِنَّهُ هُوَ الْعَلِيْمُ

bainee wa baina ikhwatee; inna Rabbee lateeful limaa yashaaa'; innahoo Huwal 'Aleemul

الْحَكِيمُ ﴿١٠٠﴾ رَبِّ قَدْ اَتَيْتَنِيْ مِنَ الْمُلْكِ وَ عَلَمْتَنِيْ مِنْ تَأْوِيلِ

Hakeem (100) Rabbi qad aataitanee minal mulki wa 'allamtanee min taaweeleel

الْاَحَادِيْثُ فَاطِرُ السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضِ اَنْتَ وَلِيٌ فِي الدُّنْيَا

ahaadees; faati ras samaawaati wal ardi Anta waliyyee fid dunyaa

وَالْاُخْرَةُ تَوْفِيْنِ مُسْلِمًا وَالْحَقْنِ بِالصِّلْحِينَ ﴿١٠١﴾ ذَلِكَ مِنْ

wal Aakhirati tawaffanee muslimanw wa alhiqnee bissaaliheen (101) Zaalika min

أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوْجِيْهِ اِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ اَجْمَعُوا

ambaaa'il ghaibi nooheehi ilaika wa maa kunta ladaihim iz ajma'ooo

أَمْرُهُمْ وَهُمْ يَكْرُمُونَ ﴿١٠٢﴾ وَمَا اَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَضَتْ

amrahum wa hum yamkuuroon (102) Wa maa aksarun naasi wa law harasta

بِمُؤْمِنِيْنَ ﴿١٠٣﴾ وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ اِنْ هُوَ اَلَّا ذِكْرٌ

bimu'mineen (103) Wa maa tas'aluhum 'alaahi min ajr; in huwa illaa zikrul

● نَبَّقَهُ اَوْنَ حَدَّهُ اَوْرَسْ مَهْدَهُ دِكْيٌ اَوْ اَذْوَالِكَ الْفَكَرَ كَرَأْتَ

● قَلْقَلْهُمْ: حَرْفٌ كُوپِيٌّ بِتَحْتِ اَلْمَكْبُرِ، سَكَانٌ حَرْفٌ كُوپِيٌّ بِتَحْتِ اَلْمَكْبُرِ،

● كَوْكَبْهُ اَلْفَكَرِ اَوْ كَوْكَبْهُ اَلْفَكَرِ، حَرْفٌ كُوپِيٌّ بِتَحْتِ اَلْمَكْبُرِ (بِتَحْتِ اَلْمَكْبُرِ) مِنْ مَجَاهِدِ حَرَابِ

● بِتَحْتِ اَلْمَكْبُرِ، اَنْ سَبَّ اَلْفَكَرَ كَمْ كَمْ سَبَّ اَلْفَكَرَ،

● بِتَحْتِ اَلْمَكْبُرِ، اَنْ سَبَّ اَلْفَكَرَ كَمْ كَمْ سَبَّ اَلْفَكَرَ،

لِّلْعَلَّمِينَ ﴿١٠٣﴾ وَ كَأَيْنُ مِنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمْرُونَ

lil'alameen (section 11) (104) Wa ka ayyim min Aayatin fis samaawaati wal ardi yamurroona

عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ ﴿١٠٤﴾ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ

'alaiahha wa hum 'anhaa mu'ridoon (105) Wa maa yu'minu aksaru hum billaahi

إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ ﴿١٠٥﴾ أَفَآمِنُوا أَنْ تَأْتِيهِمْ غَاشِيَةٌ مِنْ

illaa wa hum mushrikoon (106) Afa aminoo an taatiya hum ghaashiyatum min

عَذَابِ اللَّهِ أَوْ تَأْتِيهِمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَ هُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿١٠٦﴾

'azaabil laahi aw taatiyahumus Saa'atu baghtatanw wa hum laa yash'uroon (107)

قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ إِنَّمَا يَبْصِيرُ إِنَّمَا وَمَنْ

Qul haazihee sabeelee ad'ooo ilal laah; 'ala baseera tin ana wa manit

اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿١٠٧﴾ وَمَا

taba'anee wa Subhaanal laahi wa maaa ana minal mushrikeen (108) Wa maaa

أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ مِنْ أَهْلِ الْقُرْآنِ

arsalnaa min qablika illaa rijaalan nooheee ilaihim min ahliqurraa;

أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَتَنَظَّرُونَ وَ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ

afalam yaseeroo fil ardi fa yanzuroo kaifa kaana 'aaqibatul lazeena

مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَدَأِ الْأُخْرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ اتَّقَواٰ فَلَا تَعْقِلُونَ ﴿١٠٩﴾

min qablihim; wa la Daarul Aakhirati Khairul lillazeenat taqaw; afalaa ta'qiloon (109)

حَتَّىٰ إِذَا اسْتَيَسَ الرَّسُولُ وَ ظَنُوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا

Hattaaa izas tai'asr Rusulu wa zannooo annahum qad kuziboo

جَاءُهُمْ نَصْرًا فَنُجِّيَ مَنْ شَاءَ وَ لَا يُرِدُّ بَاسُنَا عَنِ

jaaa'ahum nas runaa fanujjiya man nashaa'u wa laa yuraddu baasunna 'anil

الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ ﴿١١٠﴾ لَقَدْ كَانَ فِي قَصْصِهِمْ عِبْرَةٌ لِّلْأَلْبَابِ

qawmil mujrimeen (110) Laqad kaana fee qasasihim 'ibratul li ulil albab;

● نقاش: اون ہڈے اور سم مٹھے دیکی جاؤ اکو یاں الٰہ کے بر ایسا کرنا

● نقاش: اون سماں اور سم کاں جس کے بھر جائے (ب) یاکی آؤ کوچھیم (ت) میں جھپڑ کرچا

● نقاش: اس سب سے اکی الٰہ کے بر ایسا کر کے پڑھا جائے

● نقاش: اس سب سے اکی الٰہ کے بر ایسا کر کے پڑھا جائے


مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَى وَ لَكِنْ تَصْدِيقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ

maa kaana hadeesany yuftaraa wa laakin tasdeeqlazee baina yadihi

١٤



١٣١




وَ تَفْصِيلٌ كُلِّ شَيْءٍ وَ هُدًى وَ رَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ

wa tafseela kulli shai'inw wa hudanw wa rahmatal liqawminyu'minoon (section 12) (III)



رَبُّ عَائِدٍ



٦

٣٣

أَيْمَانًا

٩٦

مَذَبَّةٌ

١٣

سُورَةُ الرَّعْدٍ

Bismillaahir Rahmaanir Raheem

الْهُرُّ تِلْكَ آيَتُ الْكِتَابِ وَالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ

Alif-Laaam-Meeem-Raa; tilka Aayaatul Kitaab; wallazee unzila ilaika mir Rabbikal haqqu

وَلَكِنْ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿١﴾ أَلَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَوَاتِ

wa laakinna aksaran naasi laa yu'minoon (1)Allaahul lazee raf'as samaawaati

بِغَيْرِ عِمَدٍ تَرَوْنَهَا شَمْ أَسْتَوْيَ عَلَى الْعَرْشِ وَسَحَرَ الشَّمَسَ

bighairi 'amadin tarawnaha summas tawaa 'alal 'Arshi wa sakharash shamsa

وَالْقَمَرٌ كُلُّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُسَمٍ ط يُدَبِّرُ الْأَمْرُ يُفَصِّلُ

walqamara kullun yajree li ajalim musammaa; yudabbirul amra yufassil

الْآيَتِ لَعَلَّكُمْ بِدِقَاءِ رَبِّكُمْ تُوقَنُونَ ﴿٢﴾ وَهُوَ الَّذِي مَدَ الْأَرْضَ

Aayaati la'allakum biliqaai Rabbikum tooqinoon(2)Wa Huwal lazee maddal arda

وَ جَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَ أَنْهَرًا وَ مِنْ كُلِّ الشَّمَرِتِ جَعَلَ

wa ja'ala feehaa rawaaysiya wa anhaaraa; wa min kullis samaraati ja'ala

فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشِي الَّيْلَ النَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ

feehaa zawjainis yaini Yughshil lailan nahaar; inna fee zaalika

لِآيَتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٣﴾ وَ فِي الْأَرْضِ قِطَاعٌ مُتَجَوِّلٌ وَ جَنَّتٌ مِنْ

la aayaati liqawmin yatafakkaroон (3) Wa fil ardi qita'um muta jaawiraatunw wa jannaatum min

أَعْنَابٌ وَ زَرْعٌ وَ نَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَ غَيْرٌ صِنْوَانٌ يُسْقَى بِمَاءٍ

a'naabinw wa zar'unw wa nakheelun sinwaanunw wa ghairu sinwaaniny yusqaa bimaaa'inw

منزل ۲ تَقْرِيمٌ: حروف کو پڑھنے کی آداب کا ایک الفاظ کے برابر لامہ کرنے والے حروف

کو خدا، خداوند کا اور سماں کا نام ہے اور سماں کے کامیابی کے حروف (ب) یا (ج) کو ایک تکمیلی حرف (ک) کے ساتھ پڑھنا چاہیے جس کا معنی کچھ چیز ہے۔

مُكَفَّلٌ .. تمنی اللہ کے برابر ہے ایک اللہ کے برابر لامہ کر کے پڑھنا چاہیے ہے

وَاحِدٌ وَنَفْضِلٌ بَعْضًا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُكْلِ إِنَّ فِي ذَلِكَ

waahid; wa nufaddilu ba'dahaa 'alaa ba'din fil-ukul; inna fee zaalika

لَآيَتِ قَوْمٍ يَعْقِلُونَ ۚ وَإِنْ تَعْجَبْ فَعَجَبْ قَوْلُهُمْ عَرَادًا

la aayaatil liqawmin ya'qiloon (4)Wa in ta'jab fa'ajabun qawluhum 'a-izaa

كُنَّا تُرَبَّاعِينَ لَفَيْ خَلْقٍ جَدِيدٍ ۗ هُوَ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ

kunna turaaban 'a-inna lafee khalqin jadeed; ulaaa 'ikl lazeena kafaroo bi Rabbihim

وَأُولَئِكَ الْأَغْلُلُ فِي أَعْنَاقِهِمْ ۗ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ

wa ulaaa 'ikl aghlaalu fee a'haaqihim wa ulaaa'ika Ashaabun Naari hum

فِيهَا خَلِدُونَ ۚ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ

feehaa khaalidoon (5)Wa yasta'jiloonaka bis saiy'iati qablal hasanati wa qad

خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمُشْكُطُ ۗ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ

khalat min qablihimul masulaat; wa inna Rabbaka lazoo maghfiratil linnaasi

عَلَى ظُلْمِهِمْ ۗ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ ۚ وَيَقُولُ الَّذِينَ

'alaa zulmihim wa inna Rabbaka lashadeedul 'iqaab (6) Wa yaqoolul lazeena

كَفَرُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ ۗ إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرٌ وَ

kafaroo law laaa unzila 'alaihi Ayatum mir Rabbih; innamaaa anta munzirun wa

لِكُلِّ قَوْمٍ هَادِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ اُنْثَى وَمَا تَغْيِيْضُ

likulli qawmin haad (section 1) (7) Allaahu ya'lamu maa tahmilu kullu unsaa wa maa tagheedul

الْأَرْحَامُ وَمَا تَزَدَادُ ۗ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِسِقْدَارٍ ۚ عَلِيمٌ

arhaamu wa maa tazdaad, wa kullu shai'in 'indahoo bimiqdaar (8) 'Aalimul

الْعَيْبُ وَالشَّهَادَةُ الْكَبِيرُ الْبَتَّعالٌ ۚ سَوَاءٌ مِنْكُمْ مَنْ أَسَرَّ

Ghaibi wash shahaadatil Kaabeerul Muta'aal (9) Sawaaa'u'm minkum man asarral

الْقَوْلُ وَمَنْ جَهَرَ بِهِ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٌ بِالْيَلِ وَسَارِبٌ

qawla wa man jahara bihee wa man huwa mustakhfim billaili wa saaribum

مِنْزَل٢ ﴿تَقْتِيْمِ: حروف کو پڑتی آئندگان اور کوہارکن﴾

مِنْزَل٢ ﴿تَقْتِيْمِ: حروف کو پڑتی آئندگان اور کوہارکن میں کے بعد (ب) ہوئی آئندگیوں میں (ک) میں پڑتی ہے جو کچھ حصہ میں پڑتی ہے۔

مِنْزَل٢ ﴿تَقْتِيْمِ: حروف کو پڑتی آئندگان اور کوہارکن کے پڑھنا اچھا ہے۔

بِالنَّهَارِ لَهُ مُعَقِّبُتُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ

binnahaar (10) Lahoo mu'aqqibaatum mim baini yadaihii wa min khalfihee yahfazoonahoo

مِنْ أَمْرِ اللَّهِ ۖ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا

min amril laah; innal laaha laa yughaiyiru maa biqawmin hattaa yughaiyiroo maa

بِأَنفُسِهِمْ وَإِذَا آَذَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ ۖ وَمَا لَهُمْ

bianfusihim; wa izaaa araadal laahu biqawmin sooo'an falaa maradda lah; wa maa lahum

مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالِّ ۖ **هُوَ الَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَ**

min dooniheeminv waal (11) Huwal lazee yureekumul barqa khawfanwa

طَمَعًا وَيُنْشِئُ السَّحَابَ التِّقَانَ ۖ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدَ بِحَمْدِهِ

tama'anw wa yunshi'us sahaabas siqaal (12) Wa yusabbihur ra'du bihamdihee

وَالْمَلِكَةُ مِنْ خَيْفَتِهِ ۖ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فِي صِيفِ بِهَا

walmalaaa'ikatu min kheefatihee wa yursilus sawaa'iqa fa yuseebu bihaa

مَنْ يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ ۖ وَهُوَ شَدِيدُ الْبِحَالِ ۖ لَهُ

mai yashaaa'u wa hum yujaadiloona fil laahi wa Huwa shadeedul mihaal (13) Lahoo

دَعْوَةُ الْحَقِّ ۖ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ

da'watul haqq; wallazeena yad'oona min doonihee laa yastajeboona lahum

يُشَيِّعُ إِلَّا كَبَاسِطٌ كَفَيْهِ إِلَى الْمَاءِ لِيَبْلُغُ فَاهُ وَمَا هُوَ بِالْغَيْرِ ۖ وَ

bishai'in illaa kabaasiti kaffaihi ilal maaa'i liyablughu faahu wa maa huwa bibaalighi; wa

مَا دُعَاءُ الْكُفَّارِيْنَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ ۖ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّلَوَاتِ

maa du'aaa'ul kaafireena illaa fee dalaal (14) Wa lillaahi yasjudu man fis samaawaati

وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَهْرَابًا وَظِلَّلُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْأَصَالِ ۖ قُلْ

wal ardi taw'anw wa karhanw wa zilaaluhum bilghuduwwi wal aasaal (make sajda) (15) Qul

مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ قُلِ اللَّهُ ۖ قُلْ أَفَاتَخَذْتُمْ مِنْ

mar Rabbus samaawaati wal ard; qulillaah; qul afattakhaztum min

﴿١٣﴾: اون ھڈہ اور سکھہ دیکی ادازوں کیلئے الٰہ کے برادر لہما کرنا

﴿١٤﴾: اخفاخ، اون سماں اور سکھیں اور سکھ میں سکھ کے بعد (بے ہو) کی آؤ تو یعنی (تک) میں جیسا کچھ حدا

جیسا ہے۔ اس سب سے الٰہ کے برادر لہما کے پڑھانا اچھا ہے

﴿١٥﴾: ... تمیں الٰہ کے برادر لہما کے برادر لہما کے پڑھانا اچھا ہے

دُونَهُ أُولَيَاءٌ لَا يَئِلُكُونَ لِأَنفُسِهِمْ نَفْعًا وَ لَا ضَرًا ۚ قُلْ هَلْ

dooniheee awliyaaa'a laa yamlikoona li anfusihim na�'anw wa laa darraa; qul hal

يَسْتَوِي الْأَعْنَى وَ الْبَصِيرُ ۚ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلْمِتُ وَ النُّورُ ۚ

yastawil a'maa wal baseeru am hal tastawiz zulumaatu wannoor;

أَمْ جَعَلُوا إِلَهٍ شَرْكَاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشَابَهَ الْخُلُقُ عَلَيْهِمْ ۚ

am ja'aloo lillaahi shurakaaa'a khalqaoo kakhalqihee fataashaa bahal khalqu 'alaihim;

قُلِ اللَّهُ خَالِقٌ كُلِّ شَيْءٍ وَ هُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ۚ آنَزَ مِنْ

qulil laahu Khaaliqu kulli shai'inw wa Huwal Waahidul Qahhar (16) Anzala minas

السَّيَّاءُ مَاءٌ فَسَالَتْ أَوْدِيَةٍ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْئُلُ زَبَدًا ۚ

samaaa'i maaa'an fasaalat awdiyatun biqadarihaa fahtamalas sailu zabadar

رَآبِيَا وَ مِمَّا يُؤْقَدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ ۚ

raabiyyaa; wa mimmmaa yoqidoodna 'alaihi fin naarib tighaaa'a bilyatin aw mataa'in

زَبَدٌ مِثْلَهُ ۖ كَذِيلَكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَ الْبَاطِلَ ۖ فَأَمَّا الزَّبَدُ ۖ

zabadum misluh; kazaalika yadribul laahul haqqa wal baatil; fa ammag zabadu

فَيَذْهَبُ جُفَاءُ ۖ وَ أَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ ۚ

fa yazhabu jufaa'aa; wa ammaa maa yanfa'un naasa fa yamkusu fil ard;

كَذِيلَكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ ۖ لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرِبِّهِمُ الْحُسْنَى ۖ

kazaalika yadribul laahul amsaal (17) Lillazeenaa tajaaboo libabbihiml husnaa;

وَ الَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُ لَوْ أَنَّ لَهُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَ ۖ

wallazeena lam yastajeeboo lahoo law anna lahum maa fil ardi jamee'anwa

مِثْلَهُ مَعَهُ لَا فُتَدَوْا بِهِ ۖ أُولَئِكَ لَهُمْ سُوءُ الْحِسَابِ ۖ وَ مَا وُهُمْ ۖ

mislahoo ma'ahoo laftadaw bih; ulaa'ika lahum sooo'ul hisaab; wa ma'waahum

جَهَنَّمُ وَ بِئْسَ الْمِهَادُ ۖ آفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّهَا أُنْزَلَ إِلَيْكَ مِنْ

Jahannamu wa bi'sal mihaad (section 2) (18) Afamai ya'lamu annamaaa unzila ilaika mir

مِنْزَلٌ ۲ ﴿تَقْرِيمُهُ: حروف کو پڑیں جیسی آواز کو حکیکت کرنے کے لئے۔﴾

مِنْزَلٌ ۲ ﴿تَقْرِيمُهُ: حروف کو پڑیں جیسی آواز کو حکیکت کرنے کے لئے۔﴾

مِنْزَلٌ ۲ ﴿تَقْرِيمُهُ: حروف کو پڑیں جیسی آواز کو حکیکت کرنے کے لئے۔﴾

مِنْزَلٌ ۲ ﴿تَقْرِيمُهُ: حروف کو پڑیں جیسی آواز کو حکیکت کرنے کے لئے۔﴾

رَبُّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْنَىٰ طَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُوا الْأَلْبَابِ ۖ الَّذِينَ

Rabbikal haqqu kaman huwa a'maa; innamaa yatazakkaru ulul albaab (19) Allazeena

يُؤْفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلَا يَنْقُضُونَ الْبِيِّنَاتِ ۖ وَالَّذِينَ يَصِلُونَ

yoofona bi'ahdil laahi wa laa yanqu doonal meesaq (20) Wallazeena yasiloona

مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوَصِّلَ وَيَخْشُونَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ

maaa amaral laahu bihee an yoosala wa yakhshawna Rabbahum wa yakhfaafoona sooo'al

الْحِسَابِ ۖ وَالَّذِينَ صَبَرُوا إِلَيْتَغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ

hisaab (21) Wallazeena sabarub tighaaa'a Wajhi Rabbihim wa aqaamus Salaata

وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَعُونَ بِالْحَسَنَةِ

wa anfaqoo mimmaa razaqnaahum sirranw wa 'alaaniyatana wa yadra'ona bilhasanatis

السَّيِّئَةَ أُولَئِكَ لَهُمْ عُقَبَى الدَّارِ ۖ جَنَّتُ عَدُنٍ يَدْخُلُونَهَا

saiyi'ata ulaaa'ika lahum 'uqbad daar (22) Jannaatu 'adiny yadku loonahaa

وَمَنْ صَدَحَ مِنْ أَبَاهِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذَرِيَّتِهِمْ وَالْمَلِيلَةُ

wa man salaha min aabaaa'ihim wa azwaajihim wa surriyyatihim walmalaa'i katu

يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ ۖ سَلَمٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ

yadkhuloona 'alaikhim min kulli baab (23) Salaamun 'alaikum bimaa sabartum;

فَنِعْمَ عُقَبَى الدَّارِ ۖ وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ

fani'ma 'uqbad daar (24) Wallazeena yanqudoona 'Ahdal laahi mim

بَعْدِ مِيَثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوَصِّلَ وَ

ba'di meesaaqihee wa yaqt'a oona maaa amaral laahu biheee ai yoosala wa

يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ ۖ أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ

yufsidoona fil ardi ulaaa'ika lahumul la'natu wa lahum sooo'ud daar (25)

اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ ۖ وَفِرَحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا

Allaahu yabsutur rizqa limai yashaaa'u wa yaqdir; wa fariiho bilhayaatid dunyaa

وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ ۝ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا ۝

wa mal hayaatud dunya fil Aakhirati illaa mataa' (section 3) (26) Wa yaqoolul lazeena kafaroo

لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُفْلِحُ مَنْ

law laaa unzila 'alaihi Aayatum mir Rabbih; qul innal laaha yudillu mai

يَسِّعُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ ۝ الَّذِينَ أَمْنَوْا وَتَطَمِّئُنُ

yashaa'u wa yahdeee ilaihi man anaab (27) Allazeena aamanoo wa tatma'innu

قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطَمِّئُنُ الْقُلُوبُ ۝ الَّذِينَ

quloobuchum bizikril laah; alaa bizikril laahi tatma'innul quloob (28) Allazeena

أَمْنَوْا وَعَلِمُوا الصِّلْحَتِ طُوبِ لَهُمْ وَحُسْنُ مَآبٍ ۝ كَذَلِكَ

aamanoo wa a'milus saalihaati toobaah lahum wa husnu ma aab (29) Kazaalika

أَرْسَلْنَا فِي أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهَا أُمَّةٌ لَتَتَلَوَّنَ عَلَيْهِمْ

arsalnaaka feee ummatin qad khalat min qablihaaa umamul litatluwa 'alaihimul

الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ قُلْ هُوَ رَبُّ

lazeeee awhainaaa ilaika wa hum yakfuroona bir Rahmaan; qul Huwa Rabbee

لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَابٌ ۝ وَلَوْلَآ أَنْ قُرْآنًا

سُيِّرْتُ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطْعَتُ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ السَّوْقَ طَبَلٌ

suuyirat bihil jibaalu aw quitti'at bihil ardu aw kullima bihil mawtaa; bal

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَبِيعًا ۝ أَفَلَمْ يَأْيُسِ الَّذِينَ أَمْنَوْا أَنَّ لَوْيَشَاءَ اللَّهُ

lillaahil amru jamee'a; afalam yai'asil lazeena aamanooo al law yashaa'a 'ullaahu

لَهَدَى النَّاسَ جَمِيعًا ۝ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُمْ

lahadan naasa jamee'a; wa laa yazaalul lazeena kafaroo tuseebuhum

بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ أَوْ تَحْلُّ قَرِيبًا مِنْ دَارِهِمْ حَتَّىٰ يَأْتِي

bimaa sana'oo qaari'atun aw tahullu qareebam min daarihim hatta ya'atiya

مِنْزَلٌ ۲۷ تَقْتِيمُهُ: حروف کو پڑیں ایک آدا کو ایک الف کے برابر لہا کرنا

● عَلَقَتْ: اون ھڈے اور سکھنے کی آدا ایک الف کے برابر لہا کرنے کے بعد (ب) یعنی آدا کو تیکھیا (ت) میں جھپٹ کرچکھا

● بَلَقَتْ: اون سکھنے اور سکھنے کی آدا کے بعد (ب) یعنی آدا کو تیکھیا (ت) میں جھپٹ کرچکھا

● بَلَقَلْ: .. تین الف کے برابر پانچ الف کے برابر لہا کر کے پڑھانا اجب ہے

وَعَدَ اللَّهُ أَنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ ﴿٢١﴾ وَلَقَدِ اسْتَهْزَى بِرَسُولِ

wa'dul laah; innal laaha laa yukhliful mee'aad (section 4) (31) Wa laqadis tuhzi'a bi Rusulim

مِنْ قَبْلِكَ فَامْلِأْتُ لِلّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخْذُهُمْ فَكَيْفَ

min qablika fa amlaitu lillazeena kafaroo summa akhaztuhum fakaifa

كَانَ عِقَابٌ أَفَيْنُ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ ﴿٣﴾

kaana 'iqaab (32) Afaman Huwa qaaa'imun 'alaa kulli nafsim bimaa kasabat;

وَجَعَلُوا لِلّٰهِ شَكَاعَ طَقْلَ سَوْهُمْ أَمْ تَنْبِعُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ

wa ja'aloо illaahi shurakaa'a qul samoohum; am tunabbi'oona hoo bimaa laa ya'lamu

فِي الْأَرْضِ أَمْ بِظَاهِرٍ مِّنَ الْقَوْلِ ۖ بَلْ زُيْنَ لِلَّذِينَ كَفَرُواۚ

fil ardi; am bizaahirim minal qawl; bal zuyyina lillazeena kafaroo

مَكِّهُمْ وَ صَدُوا عَنِ السَّبِيلِ ۖ وَ مَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَإِلَهٌ

makruhum wa suddoo 'anis sabeeb; wa mai yudlilil laaahu famaa lahoo

لَهُمْ عَذَابٌ فِي الدُّنْيَا وَلَعْنَادُ الْآخِرَةِ

min haad; (33) Lahum 'azaabun fil hayaatid dunyaa wa la'azaabul Aakhirati

أَشَقٌ وَمَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَاقِ مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ

ashaaq, wa maa lahum minal laahi min-waaq (34) Masalul Jannatil latee wu'idal

الْمُتَّقُونَ طَبَرِيٌّ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَرُ أَكْلُهَا دَاءِمٌ وَفِلَهَا طَبَرِيٌّ

muttaqoona tajree min tahtihal anhaaru ukuluhaa daaa'imunw wa zilluhaa; tilka

عَقْبَى الَّذِينَ تَقَوَّلُوا وَعَقْبَى الْكُفَّارِ إِنَّ النَّارَ ۚ وَالَّذِينَ

uqbal lazeenat taqaw wa 'uqbal kafireenan Naar (35) Wallazeena

أَتَيْنَاهُمُ الْكِتَبَ يَفْحَمُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمِنَ الْأَحْزَابِ

aatainaa humul Kitaaba yafrahoona bimaa unzila ilaika wa minal Ahzaabi.

مَنْ يُشْكِرْ بَعْضَهُ قُلْ إِنَّمَا أَمْرُتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا أُشْرِكَ

mai yunkiru ba'dah; qui innamaa umirtu an a'budal laaha wa laaaa ushrika

منزل ۲ تفہیم: عروض کو پختی اور مضمون کا حفظ کرنا۔ مخفی: اون ساں کا اخراج کیا جس کے بعد اس کا حفظ کرنا۔ مکار: الگ اور اپنے ایجاد کی طرح کوئی کام نہ کرنے والا۔ مکاری: اس کا ایجاد کی طرح کوئی کام نہ کرنے والا۔ مکاری کا مطلب اس کے بعد اس کا حفظ کرنا۔ مکاری کا مطلب اس کے بعد اس کا حفظ کرنا۔

بِهِ إِلَيْهِ أَدْعُوا وَإِلَيْهِ مَا بِكَذِيرٍ أَنْزَلْنَاهُ حُكْمًا

bih; ilaihi ad'oo wa ilaihi maab (36) Wa kazaalika anzalnaahu hukman

عَمَّ بِيَا طَ وَلَئِنْ اتَّبَعْتَ أَهُوَ أَعْهُمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ لَا

'Arabiyyaa; wa la'init taba'ta ahwaaa 'ahum ba'da maa jaaa'aka minal 'ilmi

٢٤ وَ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مَّا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَ لَا وَاقِ

maa laka minal laahi minw waliyinw wa laa waaq (section 5) (37) Wa laqad arsalnaa Rusulam

مِنْ قَبْلِكَ وَ جَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَ ذُرِّيَّةً وَ مَا كَانَ لِرَسُولٍ

min qablika wa ja'alnaa lahum azwaajanw wa surriyyah; wa maa kaana lirasoolin

أَن يَأْتِيَ أَيَّةً إِلَّا يَذِنُ اللَّهُ لِكُلِّ أَجْلٍ كِتَابٌ

ai ya'tiya bi aayatin illaa bi iznil laah; likulli ajalin kitab (38) Yamhul laahu

٢٩ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَبِ وَإِنْ مَا نُرِينَكَ

maa yashaaa'u wa yusbitu wa 'indahooo ummul Kitaab (39) Wa im maa nurriyannaka

بَعْضُ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيْنَكَ فَإِنَّا عَلَيْكَ الْبَلَغُ

ba'dal lazee na'iduhum aw nata waffayannaka fa innamaa 'alaikal balaaghу

وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ ﴿٢٠﴾ أَوْ لَمْ يَرُوا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا

wa 'alainal hisaab (40) Awalam yaraw annaa na'til arda nanqusuhaa

مِنْ أَطْرَافِهَا طَوْلَهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ وَ هُوَ سَاهِي عُ

min atraafihaa; wallahu yahkumu laa mu'aqqiba lihukmih; wa Huwa saree'u

الْحِسَابُ ٢٣ **وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فِي لِهِ الْمُكْمَنُ جَمِيعًا**

hisaab (41) Wa qad makaral lazeena min qablihim falillaahil makru Jamee'aa;

يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ وَ سَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِيَنْ عَقْبَى

ya'lamu maa taksibu kullo nafs; wa sa ya'lamul kuffaaru liman 'uqbadi

الدَّارِ ﴿٣﴾ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّمَا مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ

daar (42) Wa yaqoolul lazeena kafaroo lasta mursalaa; qui kafaa billaahi

منزل ۲ **تقطیع:** حروف کو پڑھنے کا اور اکوکی اللہ کے بارہ بار کرنا
 لفظ: اون چند اور سب مقدار کا اور اکوکی اللہ کے بارہ بار کرنا
 مکاری: الیکی اللہ کے اور سب مقدار کا اون چند اور اکوکی اللہ کے بارہ بار کرنا
 پیشہ: اس کے لئے ایکی اللہ کے بارہ بار کر کے پیشہ کرنا
 مفت: اگر اللہ کے بارہ بار کر کے پیشہ کرے تو ایکی اللہ کے بارہ بار کر کے پیشہ کرے

٦
١٢

شَهِيدًا بَيْنِكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ

shaheedam bainee wa bainakum wa man 'indahoo 'ilmul Kitab (section 6) (43)

رَبُّكُمْ عَلَيْهَا
أَيْمَانَهَا
٥٢سُورَةُ إِبْرَاهِيمَ
٤١
مَكْتُوبٌ

Bismillaahir Rahmaanir Raheem

الْكِتَابُ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلْمِ

Alif-Laaam-Raa; Kitaabun anzalnaahu ilaika litukhrijan-naasa minaz zulumaati

إِلَى النُّورِ ۚ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ۝ إِلَهُ الَّذِي

ilan noori bi-izni Rabbihim ilaa siraatil 'Azeezil Hameed (1) Allaahil lazee

لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۖ وَوَيْلٌ لِلْكُفَّارِ يُنَذَّرُ مِنْ

lahoo maa fis samaawaati wa maa fill ard; wa wailul likkaafireena min

عَذَابُ شَدِيدٍ ۝ الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ

'azaabin shaded (2) Allazeena yastahibboo nal hayaatad dunyyaa 'alal aakhirati

وَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَ يَنْغُوشُونَهَا عِوْجَاجًا ۖ أُولَئِكَ فِي

wa yasuddoona 'ansabeeel laahi wa yabghoonaha 'iwajaa; ulaaa 'ika fee

ضَلَلَ بَعِيدٌ ۝ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ

dalaalin ba'eed (3) Wa maaa arsalnaa mir Rasoolin illaa bilisaani qawmihee

لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُفْلِلُ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ

liyubaiyina lahum fa yudillul laahu mai yashaa'u yahdee mai yashaa';

وَ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝ وَ لَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِاَيْتِنَا أَنْ

wa Huwal 'Azeezul Hakeem (4) Wa laqad arsalnaa Moosaa bi Aayaatinaa an

أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلْمِ إِلَى النُّورِ ۖ وَ ذَكِّرْهُمْ بِاَيْمِ

akhrij qawmaka minaz zulumaati ilan noori wa zak kirhum bi ayyaamil

اللَّهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ تُكَلِّلُ صَبَارَ شَكُورٍ ۝ وَإِذْ قَالَ

laah; inna fee zaalika la aayaatil likulli sabbaarin shakoor (5) Wa iz qaala

مَنْزِلٌ ۲ ﴿تَعَظِيم﴾: حروف کو پڑیں ایک آزادِ الہ کے برادر لام کرنا

﴿تَعَظِيم﴾: اون ھڈے اور سم مدد کی آزادِ الہ کے برادر لام کرنا

کو خدا، اون سماں اور سم مدد کی آزادِ الہ کے برادر لام کرنا

جیسے جسیں اس سے اپنے الہ کے برادر لام کر کے پڑھتا ہے جسیں کسے

پڑھتا ہے۔ تمیں الہ کے برادر لام کے برادر لام کر کے پڑھتا ہے جسیں کسے

مُوسَى لِقَوْمِهِ اذْكُرْ وَ انْعَمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اذْ أَرْجُمُ مِنْ

Moosaa liqawmihiz kuroo ni'matal laahi 'alaikum iz anjaakum min

الْفِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَ يُذْبِحُونَ أَبْنَاءَكُمْ

Aali Fir'awna yasoomoo nakum sooo'al 'azaabi wa yuzabbihona abnaaa'akum

وَ يَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَ فِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ

wa yastahyoona nisaaa'akum; wa fee zaalikum balaaa'un min Rabbikum 'azeem (section 1) (6)

وَ اذْ تَأْذَنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَاءَ تُمْ لَازِيْدَنَكُمْ وَ لَئِنْ كَفَرْتُمْ

Wa iz ta azzana Rabbukum la'in shakartum la azeedannakum wa la'in kafartum

إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ وَ قَالَ مُوسَى إِنْ تَكْفُرْ وَ أَنْتُمْ وَ مَنْ

inna 'azaabee lashadeed (7) Wa qaala Moosaa in takfuroo antum wa man

فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ

fil ardi jamee'an fa innal laaha la Ghaniyyun Hameed (8) Alam ya'tikum naba'u'l

الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ قَوْمٌ نُوحٌ وَ عَادٍ وَ شَوَّدٌ وَ الَّذِينَ مِنْ

lazeena min qablikum qawmi Noohin wa 'Aadin wa Samood, wallazeena mim

مَعَ بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ طَجَّاعَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ

ba'dihim; laa ya'lamuhum illallaah; jaaa'at hum Rusuluhum bilbaiyinaati

فَرَدُوا أَيْدِيهِمْ فِي أَفْوَاهِهِمْ وَ قَالُوا إِنَّا كَفَرْنَا بِإِنَّا أَرْسَلْتُمْ

faraddooo aydiyahum fee afwaahihim wa qaalooy innaa kafarnaa bimaaa ursiltum

بِهِ وَ إِنَّا لَفِي شَكٍّ مِمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٌ

bihee wa innaa lafee shakkim mimmaa tad'oonaaa ilaihi mureeb (9) Qaalat Rusuluhum

أَفِ الَّهُ شَكٌّ فَاطِرُ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُمْ

afillaahi shakkun faatiris samaawaati wal ardi yad'oookum liyaghfira lakum

مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَ يُؤْخِرُكُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَيَّ طَقَالُوا إِنْ أَنْتُمْ

min zunoobikum wa yu'akhirkum ilaaa ajalin musammaa; qaalooy in antum

مَنْزِل٢ تَقْتِيقِهِ: حروف کو پڑیں ایک آداً کو ایک الف کے برادر لہما کرنا

● بالخلف: دون ساکن اور سکون اور سکم ساکن جس کے بعد (ب) ہوئی آدھی کوچھ (ت) میں جھپٹ کر جائے

● بعْدَ: اس سب سے ایک الف کے برادر لہما کے پڑھانا اجب ہے

إِلَّا بَشَّ مِثْلُنَا طُ تُرِيدُونَ أَنْ تَصْدُونَا عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ

illaa basharum mislunaa tureedoona an tasuddoona 'ammaa kaana ya'budu

أَبَاوْنَا فَاتُونَا بِسُلْطِنٍ مُّبِينٍ ﴿٢٠﴾ قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِنْ

aabaaa'unaa fa'toonaa bi sultaanin mubeen (10) Qaalat lahum Rusuluhum in

نَّحْنُ إِلَّا بَشَّ مِثْلُكُمْ وَلَكُنَّ اللَّهَ يَمْنُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ

nahnu illaa basharum mislukum wa laakinna laaha yamunnu 'ala mai

عِبَادَةٌ وَمَا كَانَ لَنَا أَنْ تَأْتِيَكُمْ بِسُلْطِنٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ

yashaaa'u min 'ibaadihee wa maa kaana lanaaa an na'tiyakum bisul taanin illaa bi iznil laah;

وَعَلَى اللَّهِ فَلِيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿٢١﴾ وَمَا لَنَا إِلَّا نَتَوَكَّلُ عَلَى

wa 'alal laahi falyatawakkalil mu'minoon (11) Wa maa lanaa allaa natawakkala 'alal

اللَّهِ وَقَدْ هَدَنَا سُبْلَنَا طُ وَلَنَصِيرَنَّ عَلَى مَا اذْيَتُونَا طَ وَ

laahi wa qad hadaanaa subulanaa; wa lanasbiranna 'ala maaa aazaitumoonaa; wa

عَلَى اللَّهِ فَلِيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ ﴿٢٢﴾ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا

'alal laahi falyatawakkalil mutawakkiloon (section 2) (12) Wa qaalal lazeena kafaro

لِرُسُلِهِمْ نُخْرِجُنَّكُمْ مِّنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا ط

li Rusulihim lanukhrijanna kum min aardinaaa aw la ta'oodunna fee millatinaa

فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنْهُمْ لَكُنَّ الظَّالِمِينَ ﴿٢٣﴾ وَلَنْسُكِنَنَّكُمْ

fa awhaaa ilaihim Rabbuhum lanuhlikannaz zaalimeen(13) Wa lanuskinan nakum

الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِئَنَّ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ

arda min ba'dihim; zaalika liman khaafa maqaamee wa khaafa

وَعَيْدِ ﴿٢٤﴾ وَاسْتَفْتَهُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَارٍ عَنِيهِ مِنْ وَرَاهِهِ

wa aed (14) Wastaftahoo wa khaaba kullu jabbaarin 'aneed (15) Minw waraaa'ihee

جَهَنَّمُ وَيُسْقَى مِنْ مَاءِ صَدِيرٍ ﴿٢٥﴾ يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسْيِغُهُ

jahannamu wa yusqaa min maa'in sadeed (16) Yatajarra'uhoo wa laa yakaadu yuseeghuho

مِنْزَل٢ ﴿٢﴾ تَفْسِيرِ: حروف کو پڑھنی آئی اور کوہ مارکنا۔ قَلْقَلَه: سکن حرف کو اکثر مارکنا۔ مکونیں: اللہ اکسی اور سکن میں کوئی بھی ایک مکونیں جیسے آئینہ، آنکھیں، پاؤں ایسے۔ میں: جیسا کچھ حدا۔ دُنیا: ایسے ایک مکون کے برابر ملائی کر کے پڑھنا۔ ایسے۔

وَيَا أَيُّهُ الْمُبْرُوتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَّمَا هُوَ بِبَيْتٍ طَوَّافٍ وَمِنْ وَرَاءِهِ

عَذَابٌ غَلِيظٌ ﴿٢﴾ مَثُلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْبَالُهُمْ كَمَا دِيَ

'azaabun ghaleez (17) Masalul lazeena kafaroo bi Rabbihim; a'maaluhum karamaadi

اَشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ لَا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا
nish taddat bihir reehu fee yawmin 'aasifin; laa yaqdiroona mimmaa kasaboo
عَلَى شَيْءٍ ذَلِكَ هُوَ الْفَلْلُ الْبَعِيدُ ﴿٢٨﴾ اَلْمَتَرَ اَنَّ اللَّهَ خَلَقَ

السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِنْ يَشَا يُذْهِبُكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ

جَدِيدٌ ٢٩ وَ مَا ذُلِّكَ عَلَى اللَّهِ بَعْزِيزٌ ٣٠ وَ بَرْزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا

فَقَالَ الصَّعْفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهُنْ

أَنْتُمْ مَعْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ قَالُوا لَوْهُدُنَا

الله له ربُّنِّكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَجْزَعُنَا أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِنْ
antum mughoona 'annaa min 'azaabil laahi min shai'; qaaloo law hadaanal

٢٦ مَحْيِص وَقَالَ الشَّيْطَنُ لَهَا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ لَا يَرَوُنَّ مَا أَعْمَلُу إِنِّي بِمَا أَنْتُ بِلِسْبَةٍ عَنِ الْمُرْسَلِينَ

mahees (section 3) (21) Wa qaalah Shaitaanu lammaa qudiyal amru innal laaha wa'adakum
وَعْدُ الْحَقِّ وَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ ۖ وَمَا كَانَ لِي عَلِيُّكُمْ مِنْ

سُلْطَن إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِيٌ فَلَا تَلُومُونِي وَلَوْمُوا

منزل ۲ **تقطیعیم:** حروف کو پہنچانی اور سہارا کرنا **غذہ:** نام مدد و اور سہم مدد کی آواز کو اپنے الف کے برپہنچا کرنا
انداختا: اون سکن اور سہم کی جس کے بعد (ب) یا (ک) آؤ تو تقطیعیم (نات) میں چھا کر پہنچا
دستی: ان سب کی اپنے الف کے برپہنچا کے پہنچانے اور اپنے بھائیں کے
مُحَمَّد: تین الف کے برپہنچا اپنے الف کے برپہنچا کے پہنچانے اور اپنے بھائیں کے

أَنفُسُكُمْ مَا أَنَا بِمُحْرِكِهِمْ وَمَا أَنْتُمْ بِهِمْ بَارِخٌ إِنَّ كَفَرَتُ

anfusakum maaa ana bimusrikhikum wa maaa antum bimusrikhiyya innee kafartu

بِمَا أَشْرَكُتُمُونِ مِنْ قَبْلِهِ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ

bimaaa ashraktumooni min qabl; innaz zaalimeena lahum azaabun

الْيَمِّ ٢٣ **وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَاتِ جَنَّتٍ تَجْرِي**

aleem (22) Wa udkhilal lazeena aamanoo wa 'amilus saalihaati Jannaatin tajree

مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَرُ خَلِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ طَ تَحِيَّتْهُمْ فِيهَا

min tahtihal anhaaru khaalideena feehaa bi izni Rabbihim tahiyyatuhum feeha

سَلَمٌ ﴿٢٢﴾ أَلَمْ تَرَ كِيفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّكُلِّهَا طَيْبَةً كَشَجَرَةً

salaam (23) Alam tara kaifa darabal laahu masalan kalimatan taiyibatan kashajaratin

طَبِيَّةً أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعَهَا فِي السَّمَاءِ تُؤْتِي أَمْكَانًا كُلَّ

taiyibatin asluhaa saabitunw wa far'uhaa fis samaaa' (24) Tu'teee ukulahaa

حِينَ يَأْذِنُ رَبَّهَا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَانَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ

kulla heenim bi izni Rabbihaa; wa yadribul laahul amsala linnaasi la'allahum

يَتَذَكَّرُ وَمَثْلُ كُلِّهِ خَبِيثَةٌ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ

yatazak karoon (25) Wa masalu kalimatin khabeesatin kashajaratin khabee satinij

اجْتَمَعَتْ مِنْ فُوقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَارَبٍ ۝ يُشَيَّثُ اللَّهُ الَّذِينَ أَمْنَوْا

tussat min fawqil ardi maa lahaa min qaraar (26) Yusabbitul laahul lazeena aamanoo

بِالْقَوْلِ الشَّابِطِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَيُفْسِدُ اللَّهُ

bilqawlis saabiti fil hayaatid dunyaa wa fil Aakhirati wa yudillul laahuz

الظَّالِمِينَ لَا وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ ﴿٢٨﴾ الَّمْ تَرَى الَّذِينَ بَدَلُوا نِعْمَتَ

zaalimeen; wa yaf'alul laahu maa yashaa' (section 4) (27) Alam tara ilal lazeena baddaloo ni'matal

الْمُكَفَّرُونَ وَالْمُسْكُوفُونَ وَالْمُبَشِّرُونَ

- مُنْزَلٌ: اون ھڈے اور سُمْ ملٹہ دیکی ادا کو ایک الٰہ کے برائے لامبا کرنا
- تَقْرِيْبٍ: حروف کو پختی اور مکار رکھنا
- قَلْفَتِیْم: اون سانک اور تھوین اور سُمْ سانک جس کے بھر (بے ہو) کی آدی و چشم (نات) میں پھر کرچھ حنا
- رَغْخَافٌ: کھواری اللہ کی اور کھوکھی زر بے کی آدی اور اپنے، اور کی آدی دیجیں۔
- دَسْقَلٌ: اس سب ایک الٰہ کے برائے لامبا کر کے پڑھنا جب ہے
- دَسْقَلٌ: تم الٰہ کے برائے پختی اف کے برائے لامبا کر کے پڑھنا جب ہے

القراءُ ٢٩ وَجَعَلُوا إِلَهًا أَنْدَادَ الْيُضْلُّوْغَنْ سَبِيلِهِ قُلْ تَسْتَعْوِدُ

qaraar (29) Wa ja'alo lillaahi andaadal liyudilloo 'an sabeiilah; qul tamatta'oo

فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ ٣٠ قُلْ لِعَبَادِيَ الَّذِينَ امْنَوْا يُقْيِسُوا

fa innaa maseerakum ilan Naar (30) Qul li'ibaadiyal lazeena aamanoo yuqeemus

الصَّلُوةَ وَيُنْهِيْفُقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِهَّا وَ عَلَانِيَةً مِنْ قَبْلِ أَنْ

Salaata wa yunfiqoo mimmaa razaqnaahum sirranw wa 'alaaniyatam min qabli any

يَأْتِيَ يَوْمَ لَلَّابِيْعِ فِيهِ وَلَا خَلَوْ ٣١ أَلَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ

yaatiya Yawmul laa bal'un feehi wa laa khilaal (31) Allaahul lazee khalqaas samaawaati

وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الشَّمَاءِ رِزْقًا لَكُمْ

wal arda wa anzala minas samaa'i maaa'an faakhraja bihee minas samaraati rizqal lakum

وَسَحَرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَ سَحَرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ ٣٢

wa sakhhara lakumul fulka litajriya fil bahri bi amrihee wa sakhhara lakumul anhaar (32) Wa

سَحَرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَأْبِيْنِ وَسَحَرَ لَكُمُ الْيَلَ وَالنَّهَارَ ٣٣

sakhhara lakumush shamsa walqamara daaa'ibaini wa sakhhara lakumul laila wannahaar (33)

وَأَشْكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِنْ تَعْدُوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُتْحُصُوهَا

Wa aataakum min kulli maa sa altumoooh; wa in ta'uddoo ni'matal laahi laa tuhsoohaa;

إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ ٣٤ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيْ جَعَلْ هَذَا

innal insaana lazaloo mun kaffaar (section 5) (34) Wa iz qaala Ibraheemu Rabbij 'al haazal

الْبَلَدَ أَمِنًا وَاجْنُبِيْنِ وَبَنِيَّ أَنْ تَعْبُدَ الْأَصْنَامَ ٣٥ رَبِّ إِنْهَنَّ

balada aaminanw wajnubnee wa baniyya an'nbud asnaam (35) Rabbi innahunna

أَصْلَنَ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِي وَمَنْ

adlalna kaseeram minan naasi faman tabi'anee fa innahoo minnee wa man

عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ٣٦ رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرْيَّتِي

'asaaneet fa innaka Ghafoorur Raheem (36) Rabbanaaa innee askantu min surriyyatee

مَنْزِلٌ ٣ ﴿تَقْرِيْبِهِ: حروف کو پڑیں جیکے آزادِ کوہا رکھنا۔ قَلْقَلَه: سکن حرف کو پڑا کر رکھنا۔﴾

﴿إِلْخَافِ: ثون سکن اور سکن جیکے آزادِ کوہا رکھنا۔﴾

﴿جَهَنَّمُ: آن سب سکن جیکے آزادِ کوہا رکھنا۔﴾

﴿عُنْقُ: ... تمنِ الک کے پڑا کر کے بر اپر لام کے پڑا کر کے پڑا اجنب ہے۔﴾

بِوَادِ غَيْرِ ذِي رَّدْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْحَمَّامُ لَرَبَّنَا لِيُقِيِّسُوا الصَّلَاةَ

biwaadin ghairi zee zar'in 'inda Baitikal Muharrami Rabbanaa liyuqeemus Salaata

فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهُوَىٰ إِلَيْهِمْ وَأَرْزُقْهُمْ مِّنْ

faj'al af'idatam minan naasi tahwee ilaihim warzuqhum minas

الشَّرَّاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ ۝ رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نَخْفِيٰ وَمَا نُعْلِنُ ۝

samaraati la'allahum yashkuroon (37) Rabbanaaa innaka ta'lamu maa nukhfee wa maa nu'l'in;

وَمَا يَخْفِي عَلَى اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ ۝ وَلَا فِي السَّمَاءِ ۝

wa maa yakhfaa 'alal laahi min shai'in fil ardi wa laa fis samaaa' (38)

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبِيرِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ ۝ إِنَّ

Alhamdu lillaahil lazee wahaba lee 'alal kibari Ismaa'eela wa Ishaq; inna

رَبِّ لَسِيْعِ الدُّعَاءِ ۝ رَبِّ الْجَعْدِنِيْ مُقِيْمِ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيْتِيْ ۝

Rabbee lasamee'ud du'aaa (39) Rabbij 'alnee muqeemas Salaati wa min surriyyatee

رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءَ ۝ رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ ۝

Rabbanaa wa taqabbal du'aaa' (40) Rabbanagh fir lee wa liwalidaiya wa lilmu'mineena Yawma yaqoomul

الْحِسَابِ ۝ وَلَا تَحْسِبَنَ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْلَمُ الظَّلَمُونَ ۝ إِنَّا ۝

hisaab (section 6) (41) Wa laa tahlabannal laaha ghaafilan 'ammaa ya'maluz zaalimoon; innamaa

يَوْمَ هُمْ لِيَوْمٍ تَشَخَّصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ ۝ مُهْطِعِينَ مُقْنِعِينَ ۝

yu'akh khiruhum li Yawmin tashkhasu feehil absaar (42) Muhti'ena muqni'ee

رُءُوسِهِمْ لَا يَرِدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْدَتُهُمْ هَوَاءُ ۝ وَأَنْذِرْ ۝

ru'oosihim laa yarid ilayhim tarfuhum wa af'datuhum hawaa' (43) Wa anzirin

النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخْرِنَا ۝

naasa Yawma yaateehim 'azaabu fa yaqoolul lazeena zalamoo Rabbanaaa akhkhirnaaa

إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ لَّنْجُبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ ۝ أَوَلَمْ تَكُونُوا ۝

ilaaaa ajalin qareebin nujib da'wataka wa nattabi 'ir Rusul; awalam takoonooo

مَنْزِل٢ ﴿تَقْتِيْمِ: حروف کو پڑی جائیں اور کوہرا رکھنا۔ قَلْقَلِه: سکن حرف کو کارہ کرنا۔

بَلْخَا: بلوچستان میں اور سکم سان میں کے لئے بہت آئندگانی خوشی۔ (ت) میں جیسا کچھ حدا

بَلْهَی: اس سب سے لاکھ الک کے برابر لام کر کے پڑھانا۔ اب یہ بیان کے

بَلْهَی: ... تمیں الک کے برابر لام کر کے پڑھانا۔ اب یہ بیان کے

أَقْسَمْتُمْ مِنْ قَبْلِ مَا لَكُمْ مِنْ زَوَالٍ وَسَكَنْتُمْ فِي مَسِكِنٍ

aqsamtum min qablu maa lakum min zawaal (44) Wa sakantum fee masaakinil

الَّذِينَ طَلَبُوا أَنفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا

lazeena zalamooo anfusahum wa tabaiyana lakum kaifa fa'alnaa bihim wa darabnaa

لَكُمُ الْأَمْشَالَ ۝ وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْمُولُهُمْ وَإِنْ

lakumul amsaal (45) Wa qad makaroo makrahum wa 'indal laahi makruhum wa in

كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَرْوِلَ مِنْهُ الْجَبَالُ ﴿٢١﴾ فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفًا وَعِدَّةٍ

kaana makruhum litazoola minhul jibaal (46) Falaa tafsabannal laaha mukhlifa wa'dihee

رُسُلَةٌ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو انتِقامَةٍ يَوْمٌ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرُ الْأَرْضِ

Rusulah; innal laaha 'azeezun zuntqaam (47) Yawma tubaddalul ardu ghairal ardi

وَالسَّمَوَاتُ وَبَرْزُوا بِلِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ۚ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ

wassamaawaatu wa barazoo lillaahil Waahidil Qahhaar (48) Wa taral mujrimeena

يَوْمَئِذٍ مُّقْرَنِينَ فِي الْأَصْفَادِ ٣٩ **سَهَا أَبْيَلُهُمْ مِّنْ قَطْرَانٍ وَتَعْشَى**

Yawma 'izim muqarraneena filasfaad (49) Saraabeeluhum min qatiraaninw wa taghshaa

وُجُوهُمُ النَّارُ^{٢٠} لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ


wujoo humun Naar (50) Liyajziyal laahu kulla nafsim maa kasabat; innal laaha saree'ul

الْحِسَابُ ٦١ هَذَا بَلَغُ لِلنَّاسِ وَلَيَمْنَدُ رَوَابِهِ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّهَا

hisaab (51) Haaza balaaghul linnaasi wa liyunzaroo bihee wa liya'lamooo annamaa

هُوَ اللَّهُ وَاحِدٌ وَلَيَدْنَكُمْ أُولُوا الْأَلْبَابِ

Huwa Illaahunw Waahidunw wa liyaz zakkara ulul albaab (*section 7*) (52)



Bismillaahir Rahmaanir Raheem

الرَّبُّ تِلْكَ آيَتُ الْكِتَبِ وَ قُرْآنٌ مُبِينٌ

Alif-Laaam-Raa; tilka Aayaatul Kitaabi wa Qur-aa-nim Mubeen(1) (*End Juz 13*)

منزل ۲ تفہیم: عرف کو پہنچانی اور دوکان کا نام فلکیہ سماں کا نام بارہ بار کرنا
تفہیم: عرف کو پہنچانی اور دوکان کا نام فلکیہ سماں کا نام بارہ بار کرنا
گھونک: اون سماں کا اونکھوں کی وجہ سے کھوکھی کرنے والی اسی کا نام گھونک ہے جس کے بعد اپنے اونکھے میں اس کا کیا الٹو چشم (ناظم) میں بیچا کر کچھ جانا
گھونک: اون سماں کا اونکھوں کی وجہ سے کھوکھی کرنے والی اسی کا نام گھونک ہے جس کے بعد اپنے اونکھے میں اس کا کیا الٹو چشم (ناظم) میں بیچا کر کچھ جانا
عین: عین الٹ کے پر اپنے اسی الٹ کے پر اپنے کار کے پر جنہا اسے

يَأَكُلُوا مُسْلِمِينَ ذَرْهُمْ لَوْ كَانُوا كَفَّافِينَ ۖ

Rubamaa yawaddul lazeena kafaroo law kaanoo muslimeen(2) Zarhum yaakuloo

وَمَا أَهْلَكُنَا وَيَدُهُمُ الْأَمْلَكُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿٢﴾

wa yatamatta'oo wa yulhihimul amalu fasawfa ya'lamoona(3) Wa maaa ahlaknaa

مَنْ قَرِيَّةٌ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَعْلُومٌ

min qaryatin illaa wa lahaa kitaabum ma'loom(4) Maa tasbiqu min ummatin

أَجْلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ ﴿٥﴾ وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نَزَّلَ عَلَيْهِ

ajalahaa wa maa yastaakhroon (5) Wa qaaloo yaaa aiyuhal lazee nuzzila 'alaihiz

الذِكْرُ أَنَّهُ لَمْ يَخْنُونُ ٦ لَوْمَاتٌ أَتَيْنَا بِالْمُلْكَةِ إِنْ كُثِّرَ مِنْ

Zikru innaka lamajnoon (6) Law maa taateenaa bil malaaa'ikati in kunta

الصَّدِيقُينَ ﴿٢﴾ مَا نَزَّلْنَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَا كَانُوا إِذَا

minas saadiqueen (7) Maa nunazzilul malaaa'i kata illaa bilhaqqi wa maa kaanooo izam

munzareen (8) Innaa Nahnu nazalnaz Zikra wa Innaa lahoo lahaa fizoon (9) Wa

لَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي شِيعِ الْأَوَّلِينَ ١٠٣ وَمَا يَأْتِيهِمْ

laqad arsalnaa min qablika fee shiya'il awwaleen (10) Wa maa yaateehim

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزَءُونَ ٦٦

mir Rasoolin illaa kaanoo bihee yastahzi'oон (11) kazaalika naslukuhoo fee

فَلُوْبُ الْمُجْرِمِينَ ﴿٢﴾ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ وَقَدْ حَلَّتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ

quloobil mujrimeen (12) Laa yu'minoona bihee wa qad khalat sunnatul awwaleen (13)

وَعِدْنَاكُمْ وَمَا عَلِمْنَا إِنَّا لَنَعْلَمُ مَا تَعْمَلُونَ

Wa law fatahnaa 'alaihim baabam minas samaaa'i fazaloo feehi ya'rujoon (14)

وَدَوْلَةٍ وَكُوْنِيْسٍ وَمَوْلَى وَمَوْلَى

منزل ۲ تفہیم: عرف کو پہنچانے والا ذرا کوک الف کے برپا کرنا
تفہیم: اون ساں کا ذرا کوک اور سامان جس کے بعد (ب) ہوئی آئندہ تجویزات میں مچا کر پڑھنا
لطفاً: اون ساں کا ذرا کوک اور سامان جس کے بعد (ب) ہوئی آئندہ تجویزات میں مچا کر پڑھنا
مکمل: اس ساں کا ذرا کوک اس کے پڑھنا کرنے کے پیش کے

وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَ زَيَّنَاهَا لِلنَّاظِرِينَ ١٢٦ وَ حَفَظْنَا

Wa laqad ja'alnaa fissamaaa'i buroojanw wa zaiyannaahaa linnaazireen (16) Wa hafiznaahaa

مِنْ كُلِّ شَيْطَنٍ رَّجِيمٍ ﴿١٦﴾ إِلَّا مَنِ اسْتَرْقَ السَّمِعَ فَاتَّبَعَهُ

min kulli Shaitaanir rajeem (17) Illaa manis taraqas sam'a fa atba'ahoo

شَهَابٌ مُّبِينٌ ۖ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَهَاوَ الْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ

shihaabum Mubeen (18) Wal arda madadnaahaa wa alqainaah feehaa rawaasiya

وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ ۖ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا

wa ambatnaa feehaa min kulli shai'im mawzoon (19) Wa ja'alnaa lakum feehaa

مَعَايِشَ وَ مَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ وَ إِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا

ma'aayisha wa mal lastum lahoo biraaziqeen (20) Wa im min shai'in illaa

عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نَزَّلَهُ إِلَّا بِقَدْرٍ مَعْلُومٍ ﴿٢١﴾ وَأَرْسَلْنَا الرِّيحَ

'indanaa khazaaa 'inuhoo wa maa nunazziluhooo illaa biqadarim ma'loom (21) Wa arsalnar riyaha

لَوْاقِحَ فَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَاسْقَيْنَاكُمْ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ

la waaqija fa anzalnaa minas samaaa'i maaa'an fa asqai naakumoochu wa maaa antum lahoo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿٢١﴾ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْكِي وَنُبَيِّنُ وَنَحْنُ الْوَرَثُونَ ﴿٢٢﴾ وَلَقَدْ

bikhaazineen (22) Wa innnaa la nahnu nuhyee wa numeetu wa nahnu waarisoon (23) Wa la qad

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ وَسَلَامٌ عَلٰى الْمُرْسَلِينَ

'alimnal mustaqdimeena minkum wa laqad 'alimnal mustaaikhireen (24) Wa inna

رَبُّكُمْ سُوِيْسَةَ الْمَدِينَةِ وَالْمَدِينَةِ اَنْتَ مُحَمَّدٌ

Rabbaka Huwa yahshuruhum; innahoo Hakeemun 'Aleem (section 2) (25) Wa laqad khalaqnal insaana

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَالْمُنْذِرُ أَذْكَرَهُ اللَّهُ أَكْلَمَهُ الْمَلَائِكَةَ إِذْ خَلَقَهُمْ مِنْ نَارٍ

وَمِنْ أَنْتَ تُخْلِدُنَا إِلَى الْحَيَاةِ الدُّرْجَاتِ

مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَاءٍ مَسْنُونٍ ﴿٢٨﴾ فَإِذَا سَوَيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ

min salsaalim min hama im masnoon (28) Fa izaa sawwaituhoo wa nafakhtu feehi

مِنْ رُوحٍ فَقَعُوا لَهُ سَجِيْدَيْنَ ﴿٢٩﴾ فَسَجَدَ الْبَلِيْكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ

mir roohee faqa'oo lahoo saajideen (29) Fasajadal malaa'ikatu kulluhum ajma'oон (30)

إِلَّا إِبْلِيْسٌ طَأْبَ أَنْ يَكُونَ مَعَ السَّاجِدَيْنَ ﴿٣٠﴾ قَالَ يَأْبِلِيْسُ

Ilala ibleesa abaaa ai yakoona ma's saajideen (31) Qaala yaaa Ibleesu

مَالَكَ أَلَا تَكُونَ مَعَ السَّاجِدَيْنَ ﴿٣١﴾ قَالَ لَمْ أَكُنْ إِلَّا سُجْدَدْ لِبَشَرِيْا

maa laka allaa takoona ma's saajideen (32) Qaala lam akul li asjuda libasharin

خَلَقْتَهُ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَاءٍ مَسْنُونٍ ﴿٣٢﴾ قَالَ فَأَخْرُجْ مِنْهَا

khalaqtaahoo min salsaalim min hama im masnoon (33) Qaala fakhruj minhaa

فَإِنَّكَ رَجِيْمٌ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّيْنِ ﴿٣٤﴾ قَالَ

fa innaka rajeem (34) Wa innan 'alaikal la'nata ilaa Yawmid Deen (35) Qaala

رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبَعْثُوْنَ ﴿٣٦﴾ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِيْنَ

Rabbi fa anzirneee ilaa Yawmi yub'asoon (36) Qaala fa innaka minal munzareen (37)

إِلَى يَوْمِ الْوُقْتِ الْمَعْلُومِ ﴿٣٨﴾ قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لَازِيْنَ

Ilaa Yawmil waqt il ma'loom (38) Qaala Rabbi bimaaa aghwaitanee la uzayyin anna

لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَا عُوْيَنَّهُمْ أَجْمَعِيْنَ ﴿٣٩﴾ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمْ

lahum fil ardi wa la ughwiyah nahum ajma'een (39) Illaa 'ibaadaka minhum

الْمُخْلَصِيْنَ ﴿٤٠﴾ قَالَ هَذَا صِرَاطٌ عَلَى مُسْتَقِيْمٍ إِنَّ

mukhlaseen (40) Qaala haaza Siraatun 'alaiya Mustaqueem (41) Inna

عِبَادِيْ لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَنٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنْ

'ibaadee laisa laka 'alaihim sultaanun illaa manittaba'aka minal

الْعَوِيْنَ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَبَوِعْدُهُمْ أَجْمَعِيْنَ ﴿٤٢﴾ لَهَا سَبْعَةُ

ghaaveen (42) Wa innan jahannama lamaw'iduhum ajma'een (43) Lahaa sab'atu

● نقاش: اون ہڈھ اور سکھ دیکی ادا ذریکہ الٰہ کے برادر لامہ کرنا

● نقاش: حروف کو پڑھنی آئندگانی اور کوچار کرنے کے بعد (ب) ہوں کی آئندگانی خوش (ت) میں صحیح کرچا

● نقاش: اس سب سے الٰہ کے برادر لامہ کے پڑھانا اچب ہے

أَبُوا بَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ جُزُءٌ مَقْسُومٌ ﴿٤٤﴾ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِيْ

abwaab; likulli baabim minhum juz'um maqsoom (section 3) (44) Innal muttaqeena fee

جَنْتٍ وَعِيُونٍ ﴿٤٥﴾ أَذْخُلُوهَا بِسَلِيمٍ أَمْنِيْنَ ﴿٤٦﴾ وَنَزَعْنَا مَا فِيْ

Jannaatiin wa 'uyoon(45) Udkhuloohaa bisalaamin aamineen(46) Wa naza'naa ma fee

صُدُورِهِمْ مِنْ غَلِّ إِخْوَانَاهُ عَلَى سُرُرِ مُتَقْبِلِيْنَ ﴿٤٧﴾ لَا يَسْهُمْ

sudoorihim min ghillin ikhwaanan 'alaa sururim mutaqabilien(47) Laa yamas suhum

فِيهَا نَصْبٌ وَمَا هُمْ مِنْهَا بِنُحْرٍ ﴿٤٨﴾ جِيْنَ ﴿٤٩﴾ نَبِيٌّ عِبَادِيَّ أَبِيْ

feehaa nasabunw wa maa hum minhaa bimukhrajeen (48) Nabb'i 'ibaadee annneee

أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿٥٠﴾ وَأَنَّ عَذَابِيْ هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيْمُ

anal Ghafoorur Raheem (49) Wa anna 'azaabee uwal 'azaabul aleem(50)

وَنَبِيَّهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيْمَ ﴿٥١﴾ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلِيْماً

Wa nabbi'hum 'an daif Ibraaheem(51) Iz dakhloo 'alaihi faqaaloo salaaman

قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ ﴿٥٢﴾ قَالُوا لَا تُوْجَلُ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلْمَ

qaala innaa minkum wajiloon(52) Qaaloo la tawjal innaa nubashshiruka bighulaamin

عَلِيِّيْمَ ﴿٥٣﴾ قَالَ أَبْشِرْتُمُونِيْ عَلَى أَنْ مَسَنِيَ الْكِبِيرُ فِيمَ

'aleem(53) Qaala abashshartumoonee 'alaaa am massaniyal kibaru fabima

تُبَشِّرُونَ ﴿٥٤﴾ قَالُوا بَشَّرْنَاكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُنْ مِنَ الْقُنْطَيْنِ

tubashshiroon(54) Qaaloo bashsharnaaka bilhaqqi falaa takum minal qaaniteen(55)

قَالَ وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّوْنَ ﴿٥٦﴾ قَالَ فَمَا

Qaala wa mai yaqnatu mir rahmati Rabbiheee illad daaalloon(56) Qaala famaa

خَطْبُكُمْ أَيْهَا الْمُرْسَلُوْنَ ﴿٥٧﴾ قَالُوا إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَى قَوْمٍ مُجْرِمِيْنَ

khatbukum aiyuhal mursaloon(57) Qaaloo innaaa ursilnaaa ilaa qawmim mujrimeen(58)

إِلَّا إِنْ لُوتٍ طِبَّ إِنَّا لَمْ يَجُوْهُمْ أَجْبَعِيْنَ ﴿٥٩﴾ إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرَنَا

Ilalla Aala Loot; innaa lamunajjoohum ajma'een(59) Illam ra atahoo qaddarnaa

إِنَّهَا لِمِنَ الْغُبَرِيَّينَ ۝ فَلَمَّا جَاءَهُ أَلَّا لُوَطٌ ۝ الْمُرْسَلُونَ ۝ قَالَ

innahaa laminal ghaabireen (section 4) (60) Falamma jaaa'a Aala Lootinil mursaloon(61) Qaala

إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُّنَجَّلُونَ ﴿٢٣﴾ **قَالُوا بَلْ جِئْنَاكُمْ بِمَا كَانُوا فِيهِ يَمْتَرُونَ** ﴿٢٤﴾

وَأَتَيْنَكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَدِيقُونَ ﴿٦٣﴾ فَاسْمِيْ باهْلِكَ بِقُطْعَ مِنَ

Wa atainaaka bilhaqqi wa innaa lasaadiqoon(64) Fa asri bi ahlika bigit'im minal

اللَّيْلَ وَاتَّبِعْ أَذْبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِثْ مِنْكُمْ أَحَدٌ وَامْضُوا حَيْثُ

laili wattabi' adbaarahum wa laa yaltafit minkum ahadunw wamdoohaisu

١٤ تُؤْمِرُونَ وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأُمْرَ أَنَّ دَابِرَ هُؤُلَاءِ مَقْطُوْعٌ

tu'maroon(65) Wa qadainaaa ilaihi zaalikal amra anna daabira haaa'ulaaa'i maqtoo'um

مُصْبِحِينَ ٦٤ وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبِشُونَ ق

musbiheen(66) Wa jaaa'a ahlul madeenati yastabshiroon(67) Qaala innal

٦٩ هُوَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ضَيْفُكُ فَلَا تُفْضِحُونَ ٦٨ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْنُونَ

naaaa naaaa i danaee laaaaa taidanooon(68) wattaqtii laanaa wa laa tukhzoom(69)

قَالُوا أَوْلَمْ نَنْهَاكَ عَنِ الْعِلْمِينَ ﴿٧﴾ **قَالَ هُوَ لَاءُ بَنْتِي إِنْ**

Qaaloo oo awalaa nannaka aami aadameen (70) Qaala nidaa tiadaa i banaateece in

كُتْمٌ فَعِلْيُنَ ﴿٤﴾ لَعْنِكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكَرٍ تِهْمُ يَعْمَهُونَ ﴿٥﴾ فَاخْذُتُهُمْ

Kuntum Iaa neen(/1) La alimuka imantum laice sakratumini ya manoon(/2) Pa akhazat hulus

فَحَعَلْنَا عَالَمَّا سَافَلُهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا

saihatu mushriqeen(73) Faja'alnaa 'aaliyahaa saafilahaa wa amtamaa 'alaihim

سَهْلٌ مَرْأَةٌ لَاتْ لِلْمُؤْسِنَ

hijaaratam min sijjeel(74) Inna fee zaalika la Aayaatil lilmutawassimeen(75)

نَاهِيٌ بِسُبْلِ مَقْتُومٍ ﴿٦﴾

منزل ۲ **تقطیعیم:** حروف کو پہنچانی اور سہارا کرنا **غذہ:** نام مدد و اور سہم مدد کی آواز کو اپنے الف کے برپہنچا کرنا
انداختا: اون سکن اور سہم کی جس کے بعد (ب) کی آواز تقطیعیم (نات) میں پھیا کر پڑھا
دستی: ان سب کی اپنے الف کے برپہنچا کے پڑھانے اور اپنے بیان کرنے کے
مذہب: تین الف کے برپہنچا اپنے الف کے برپہنچا کے پڑھانے اور اپنے بیان کرنے کے

وَإِنْ كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَلَمِيْنَ ﴿٧٨﴾ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَ

Wa in kaana Ashaabul Aikati lazaalimeen(78) Fantaqamnaa minhum wa

إِنَّهُمْ بِاِيمَانِهِمْ يُمْبَيِّنُونَ ﴿٧٩﴾ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِيْنَ

imnahumaa labi immaamim mubeen (section 5) (79) Wa laqad kazzaba ashaabul Hijril mursaleen(80)

وَاتَّئِنْهُمْ أَيْتَنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِيْنَ ﴿٨٠﴾ وَ كَانُوا يَنْحِتُونَ

Wa atatainahum Aayaatinaa fakaanoo 'anhhaa mu'rideen(81) Wa kaanoo yanhitoota

مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا اَمْنِيْنَ ﴿٨١﴾ فَآخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِيْنَ

minal jibaali buyootaan aamineen(82) Fa akhazat humus saihatu musbiheen(83)

فَهَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٨٤﴾ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ

Famaaa aghnaa 'anhum maa kaanoo yaksiboon(84) Wa maa khalaqnaa samaawaati

وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ ﴿٨٥﴾ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ

wal arda wa maa bainahumaa illaa bilhaqq; wa innas Saa'ata la aatiyatun fasfahis

الصَّفَّحَ الْجَمِيلَ ﴿٨٦﴾ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلُقُ الْعَلِيُّمُ ﴿٨٧﴾ وَلَقَدْ

safhal jameel(85) Inna Rabbaka Huwal khallaqul 'aleem(86) Wa laqad

اَتَيْنَكَ سَبِيعًا مِنَ الْمَثَانِيْ وَالْقُرْآنَ الْعَظِيْمَ ﴿٨٨﴾ لَا تَمَدَّنْ

aatainaaka sab'am minal masaaneet wal Qur-aanal 'Azeem(87) Laa tamuddanna

عَيْنِيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ وَ لَا تَحْزُنْ عَلَيْهِمْ

'ainaika ilaa maa matta 'naa biheee azwaajam minhum wa laa tahzan 'alaihim

وَاحْفُظْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٨٩﴾ وَ قُلْ إِنِّي أَنَا الشَّدِيْرُ

wakhfid janaahaka lilmu 'mineen(88) Wa qul innee anan nazeeerul

الْمُتَّيْنِ ﴿٩٠﴾ كَمَا أَرْزَقْنَا عَلَى الْمُقْتَسِيْنَ ﴿٩١﴾ الَّذِيْنَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ

mubeen(89) Kamaaa anzalnaa 'alal muqtasimeen(90) Allazeena ja'alul Quraana'

عِصِيْنِ ﴿٩٢﴾ فَوَرِبِكَ لَنَسْلَهُمْ أَجْمَعِيْنَ ﴿٩٣﴾ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ

ideen(91) Faww Rabbika lanas'a lannahum ajma'een(92) 'Ammaa kaanoo ya'maloon(93)

فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمِنْ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ ﴿٩٤﴾ إِنَّا كَفَيْنَاكَ

Fasda' bimaa tu'maru wa a'rid anil mushrikeen(94) Innaa kafainaakal

الْمُسْتَهْزِئِينَ ﴿٩٥﴾ الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا أُخْرَى فَسَوْفَ

mustahzi een(95) Allazeena yaj'aloona ma'al laahi ilaahan aakhir; fasawfa

يَعْلَمُونَ ﴿٩٦﴾ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضْيِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ

ya'lamoona(96) Wa laqad na'lamu annaka yadeequ sadruka bimaa yaqqooloon(97)

فَسِّيْحٌ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السُّجَدِينَ ﴿٩٧﴾ وَاعْبُدْ رَبَّكَ

Fasbih bihamdi Rabbika wa kum minas saajideen(98) Wa'bud Rabbaka

٤٦ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ

hattaa yaatiyakal yaqeen (section 6) (99)

رَوْحَاتُهَا
١٦

إِيْشَاهَا
١٢٨

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سُورَةُ النَّخْلٍ
٤٦

مَكْرُوْهٌ

Bismillaahir Rahmaanir Raheem

أَتَيْ أَمْرُ اللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ ط سُبْحَنَهُ وَتَعْلَى عَمَّا يُشَرِّكُونَ ﴿١٠٠﴾

Ataaa amrullaahi falaa tasta'jiloh; Subhaanahoo wa Ta'alaa 'ammaa yushrikoon (1)

يُنَزِّلُ الْمَلِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادَةِ

Yunazzilul malaaa' ikata birroohi min amrihee 'ala mai yashaaa'u min 'ibaadihee

أَنْ أَنْذِرُوا أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاتَّقُونَ ﴿١٠١﴾ خَلَقَ السَّمَوَاتِ

an anzirooo annahoo laaa ilaaha illaaa ana fattaqoon (2) Khalaqaas samaawaati

وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ ط تَعْلَى عَمَّا يُشَرِّكُونَ ﴿١٠٢﴾ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ

wal arda bilhaqq; Ta'alaa 'ammaa yushrikoon (3) Khalaqal insaana min

نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ ﴿١٠٣﴾ وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ

nutfatin fa izaa huwa khaseemum mubeen (4) Wal an 'amaa khalaqahaa; lakum

فِيهَا دُفْعٌ وَمَنَافِعٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿١٠٤﴾ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَائِحٌ حِينَ

feehaa dif'unw wa manaafi'u wa minhaa taakulloon (5) Wa lakum feehaa jamaalun heena

منزل ۳ تَعْلِيمٌ: حروف کو پڑھنی آئندگان کے برادر لہا کرنا

• علیٰ: اون ٹھہر اور سکھ دیکی آئندگان کے برادر لہا کرنا

• بالخاتم: اون سماں اور سکھ دیکی آئندگان کے برادر لہا کرنا (بیوی) آئندگان کی خوشی (تک) میں بھی کچھ خدا

• بیوی: اس سماں اور سکھ دیکی آئندگان کے برادر لہا کر کے پڑھانا اجب ہے

تُرِيْحُونَ وَ حِينَ تَسْمَهُ حُونَ ۝ وَ تَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلْدِلَمْ

tureehoona wa heena tasrahoon (6) Wa tabmilu asqaalakum ilaa baladil lam

تَكُونُوا بِلِغَيْهِ إِلَّا بِشِقِ الْأَنْفُسِ ۖ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ

takoonoo baaligheehi illaa bishiqqil anfus; inna Rabbakum la Ra'oofur Raheem (7)

وَ الْخَيْلَ وَ الْبِغَالَ وَ الْحَمِيدُ لِتَرْكُوبُهَا وَ زِينَةٌ وَ يَخْلُقُ مَا

Walkhaila wal bighaala wal hameera litarkaboohaa wa zeenah; wa yakhluu maa

لَا تَعْلَمُونَ ۝ وَ عَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَ مِنْهَا جَابِرٌ وَ لَوْشَاءٌ

laa ta'lamoona (8) Wa 'alal laahi qasdu sabeeeli wa minhaha jaa'ir; wa law shaa'a'

لَهُدِكُمْ أَجْمَعِينَ ۝ هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُمْ مِنْهُ

lahadaakum ajma'a'en (section 1) (9) Huwal lazee anzala minas samaaa'i maaa'al lakum minhu

شَرَابٌ وَ مِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسَيِّمُونَ ۝ يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ

sharaabun wa minhu shajarun feehi tuseemoon (10) Yumbitu lakum bihib zar'a

وَ الْزَّيْتُونَ وَ النَّخِيلَ وَ الْأَعْنَابَ وَ مِنْ كُلِّ الشَّمَرِتِ ۖ إِنَّ فِي

wazzaitoona wanna kheela wal-a'naaba wa min kullis samaraat, inna fee

ذَلِكَ لَا يَةٌ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ۝ وَ سَخَرَ لَكُمُ الَّيْلُ وَ النَّهَارُ

zaalika la Aayatal liqawmin yatafakkaroona (11) Wa sakkhkhara lakumul laila wannahaara

وَ الشَّمْسُ وَ الْقَمَرُ وَ النَّجُومُ مُسَخَّنَاتٍ بِأَمْرِهِ ۖ إِنَّ فِي ذَلِكَ

wash shamsa walqamara wannujoomu musakhkharaatum bi amrihi; inna fee zaalika

لَا يَتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ۝ وَ مَا ذَرَأَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا

la Aayaatal liqawmin ya'qiloona (12) Wa maa zara a lakum fil ardi mukhtalifan

الْوَانَةٌ ۖ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَةٌ لِقَوْمٍ يَذَكَّرُونَ ۝ وَ هُوَ الَّذِي

alwaanuh; inna fee zaalika la Aayatal liqawmin yazakkaroona (13) Wa Huwal lazee

سَخَرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَ تَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً

sakhkhharal bahrtaakuloo minhu lahman tariyyanwa tastakhrijoo minhu hilayatan

مُنْزَلٌ ۲ ﴿تَقْرِيمُهُ: حروف کو پڑیں اور کوہرا رکھنا۔ قَلْمَهْمَه: ساکن حرف کو اپنے رکھنا۔ مَنْزَل: نامہ دار مکان مشرک کو اپنے رکھنا۔﴾

﴿إِلْخَافُ: نامہ ساکن اور مکان میں کے بھروسے (ب) ہوئے آئندہ اوقات میں بھروسے (نک) میں بھروسے (نک) کو کچھ خدا۔﴾

﴿بَلْ: اس سب سے لاکپن اپنے الف کے برادر لام کر کے پڑھانا اجب ہے۔﴾

تَلْبِسُونَهَاٰ وَ تَرِي الْفُلُكَ مَوْاخِرَ فِيهِ وَ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَ

talbasoonahaa wa taral fulka mawaakhira feehi wa litabtaghoo min fadlihee wa

لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٤﴾ وَ الْقَىٰ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ آنٌ تَبَيَّدُ كُمْ

la'allakum tashkuroon (14) Wa alqaa fil ardi rawaasiya an tameeda bikum

وَ أَنْهَرَاٰ وَ سُبْلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿١٥﴾ وَ عَلِمْتِ طَ وَ بِالنَّجْمِ هُمْ

wa anhaaranw wa sublulal la 'allakum tahtadoon (15) Wa 'alaamaat; wa bin najmi hum

يَهْتَدُونَ ﴿١٦﴾ أَفَسَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ طَ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ

yahatdoon (16) Afamany yakhluqu kamallaayakhluq; afalaa tazak karoon (17)

وَ إِنْ تَعْدُوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا طَ إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ

Wa in ta'uddoo ni'matal laahi laa tuhsoohaa; innal laaha la Ghafoorur Raheem (18)

وَ إِنَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسِّرُونَ وَ مَا تُعْلِنُونَ ﴿١٩﴾ وَ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ

Wallaahu ya'lamu maa tusirroona wa maa tulinoon (19) Wallazeena yad'ona min

دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَ هُمْ يُخْلِقُونَ طَ أَمْوَاتٌ غَيْرُ

doonil laahi laa yakhluqoona shai'anwa hum yukhlaqoon (20) Amwaatun ghairu

أَحْيَاءٍ وَ مَا يَشْعُرُونَ ﴿٢١﴾ إِنَّمَّا يُمَكِّنُ اللَّهُ وَاحِدٌ

ahyaaa'inw wa maa yash'uroona aiyaana yub'asoon (section 2) (21) Illahukum Ilaahun Waahid;

فَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ قُلُوبُهُمْ مُنْكَرٌ وَ هُمْ

fallazeena laa yu'minoona bil Aakhirati quloobuhum munkiratunw wa hum

مُسْتَكْبِرُونَ ﴿٢٢﴾ لَا جَرَمَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِّرُونَ وَ مَا يُعْلِنُونَ

mustakbiroon (22) Laa jarama annal laaha ya'lamu maa yusirrona wa ma yu'linoon;

إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ ﴿٢٣﴾ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَاذَا أَنْزَلَ

innahoo laa yuhibbul mustakbireen (23) Wa izaa qeela lahum maazaaa anzala

رَبُّكُمْ لَا قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴿٢٤﴾ لِيَخْمِلُوا أَوْزَارُهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ

Rabbukum qaaloo asaatirul awvaleen (24) Liyahmiloo awzaaruhum kaamilatany Yawmal

الْقِيمَةُ لَا وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضْلُونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ لَا سَاءَ مَا

Qiyaamati wa min awzaaril lazeena yudilloonahum bighairi 'ilm; alaa saaa'a maa

يَزِرُونَ ﴿٢٥﴾ قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَاتَّاهُ بُنْيَاهُمْ مِنْ

yaziroon (section 3) (25) Qad makaral lazeena min qablihim fa atal laahu bunyaah nahum minal

الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَأَتَتْهُمُ الْعَذَابُ

qawaa'idi fakharra 'alaihimus saqfu min fawqihim wa ataahumul 'azaabu

مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٢٦﴾ ثُمَّ يَوْمَ الْقِيمَةِ يُخْرِيْهِمْ وَيَقُولُ

min haisu laa yash'uroon (26) Summa Yawmal Qiyaamati yukhzeehim wa yaqoolu

أَيْنَ شَهْرًا كَانَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تُشَاقُّونَ فِيهِمْ قَالَ الَّذِينَ أُوتُوا

aina shurakaaa'iyal lazeena kuntum tushaaqqaona feehim; qaalal lazeena ootul

الْعِلْمَ إِنَّ الْعِزْيَى الْيَوْمَ وَالسُّوءَ عَلَى الْكُفَّارِينَ ﴿٢٧﴾ الَّذِينَ تَسْوَفُهُمْ

'ilma innal khizyal Yawma wassooo'a 'alal kaafireen (27) Allazeena tatwaf faahu

الْمَلِكَةُ طَالِعَى الْفُسِّهِمْ فَالْقَوْا السَّلَمَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ

mul malaaa'ikatu zaalimee anfusihim fa alqawus salama maa kunnaa na'malu min

سُوءٌ بَلِّي إِنَّ اللَّهَ عَلَيْهِمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٢٨﴾ فَادْخُلُوا أَبْوَابَ

sooo'; balaaa innal laaha 'aleemum bimaa kuntum ta'maloon (28) Fadkhuloo abwaaba

جَهَنَّمَ حَلِيلِيْنَ فِيهَا فَلِيْسَ مَثُوا الْمُتَكَبِّرِيْنَ ﴿٢٩﴾ وَقَيْلَ

jahannama khaalideena feeha falabi'sa maswal mutakab bireen (29) Wa qeela

لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا آتَنَّا لَكُمْ قَالُوا خَيْرًا لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا

lillazeenat taqaw maazaa anzala Rabbukum; qaalo khairaa; lillazeena absanoo

فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دَارٌ

fee haazihid dumyaa hasanah; wa la Daarul Aakhirati khair; wa lani'ma daarul

الْمُتَّقِيْنَ ﴿٣٠﴾ جَنَّتُ عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَرُ

muttaqeen (30) Jannaatu 'Adminy yadkhuloonahaa tajree min tahtihal anhaaru

معنی: اون ھڈہ اور سکھنہ دیکی آدا روایک الٰف کے برابر لامہ کرنا

منزل ۳ ﴿٣﴾ تَقْلِيْم: حروف کو پر لینی آدا روایک کرنا

کوئی زیر افسوس کی آدا روایک نہیں اور سکھنہ دیکی آدا روایک شیخ (بیوی) آدا روایک شیخ (تک) میں صحیح کرچا

جیسا ہے۔ ان سب ادا روایک کے برابر لامہ کر کے پڑھانا اجب ہے

لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ ۖ كَذِيلَكَ يَجْزِي اللَّهُ الْمُتَّقِينَ ۚ الَّذِينَ

lahum feehaa maa yashaa'a oon; kazaalika yajzil laahul muttaqeen (31) Allazeena

تَنَوَّفُهُمُ الْمَلِكَةُ طَيِّبَيْنَ ۖ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا دُخُلُوا

tatawaf faahumul malaaa'ikatu taiyibeeна yaqooloona salaamun 'ala kumud khulul

الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۚ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمْ

Jannata bimaa kuntum ta'maloon (32) Hal yanzuroona illaaa an taatiyahumul

الْمَلِكَةُ أُوْيَاتِيَ أَمْرَرِبِكَ ۖ كَذِيلَكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ

malaaa'ikatu aw yaatiya amru Rabbik; kazaalika fa'alal lazeena min qablihim;

وَمَا ظَلَمُهُمُ اللَّهُ وَ لَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ

wa maa zalamahumul laahu wa laakin kaanoo anfusahum yazlimoon (33)

فَاصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَ حَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ

Fa asaabahum saiysi aatu maa 'amiloo wa haaqa bihim maa kaano bihee

يَسْتَهْزِءُونَ ۖ وَ قَالَ الَّذِينَ آشَرُوا لَوْشَاءَ اللَّهِ مَا عَبَدُنَا

yastahzi'oон (section 4) (34) Wa qaalal lazeena ashراكoo law shaaa'al laahu ma 'abadnaa

مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ نَحْنُ وَلَا أَبْأُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ دُونِهِ

min doonihee min shai'in nahnu wa laaa aabaaa'unaa wa laa harramnaa min doonihee

مِنْ شَيْءٍ ۖ كَذِيلَكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَهُلْ عَلَىٰ

min shai'; kazaalika fa'alal lazeena min qablihim fahal 'alar

الرُّسُلِ إِلَّا ابْلَغُ الْمُبِينُ ۖ وَ لَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا

Rusuli illal balaaghul mubeen (35) Wa laqad ba'asnaa fee kulli ummatir Rasoolan

أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَ اجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ ۗ فَيِنْهُمْ مَنْ هَدَىٰ

ani'budul laaha wajtanibut Taaghoota faminhum man hadal

اللَّهُ وَ مِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالُ ۖ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ

laahu wa minhum man haqqat 'alaihid dalaalah; faseero fil ardi

فَانظُرْ وَا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ ﴿٣٦﴾ إِنْ تَحْرِضْ عَلَى

fanzuroo kaifa kaana 'aaqibatul mukazzibeen (36) In tahrис alaa

هُدُّهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ يُّضْلِلُ وَ مَا لَهُمْ مِّنْ

hudaahum fa innal laaha laa yahdee mai yudillu wa maa lahum min

نِصَارَىٰ وَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَنْ

naasireen (37) Wa aqsamoo billaahi jahda aimaanihim laa yab'asul laahu mai

يَمُوتُ طَلَىٰ وَعْدَ اعْلَيْهِ حَقًّا وَ لِكُنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

yamoot; balaa wa'dan 'alaahi haqqanwa wa laakinna aksaran naasi laa ya'lamoona (38)

لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَ لِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا

Liyubaiyina lahumul lazee yakhtalifoona feehi wa liya'l lamal lazeena kafarooo

أَنَّهُمْ كَانُوا لَكُنْدِبِينَ ﴿٣٩﴾ إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَنْ نَقُولَ

annahum kaanoo kaazibeen (39) Innamaa qawluna lisha y'in izaa aradnaahu an naqoola

لَهُ كُنْ فَيَكُونُ وَ الَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا

lahoo kun fa yakoon (section 5)(40) Wallazeena haajaroo fil laahi mim ba'di maa

ظُلِمُوا لَنْبَوِئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَ لَا جُزُّ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ

zulimoo lanubawwi' annahum fiddunyaa hasatananwa wa la ajrul Aakhirati akbar;

لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿٤١﴾ الَّذِينَ صَدَرُوا وَ عَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ

law kaanoo ya'lamoona (41) Allazeena sabaroo wa 'ala Rabbihim yatawak kaloon (42)

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَسَلَّوَا أَهْلَ

Wa maaa arsalnaa min qablika illaa rijaalan noohhee ilaihim; fas'alooo ahlaz

الَّذِكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٤٣﴾ بِالْبَيِّنَاتِ وَ الزُّبُرِ وَ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ

zikri in kuntum laa ta'lamoona (43) Bilbaiyinaati waz Zubur; wa anzalnaa ilaikaz

الَّذِكْرِ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نَزَّلَ إِلَيْهِمْ وَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ

Zikra litubaiyina linnaasi maa nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkaroon (44)

● عَلَقَتْ: اُونِي هدہ اور سکھ دیکی آداز لوگوں کیلئے براہ راست کرنا
 ● مُنْزَلٌ ۲: تَقْرِيم: حروف کو پر یعنی آداز کو حرف کی ایساں کیا جائے جو اپنے حکم میں جیسا کچھ خاص
 ● اُخْلَقَتْ: گون سکن اور سکھ دیکی آداز کی ایساں کیا جائے جو اپنے حکم میں جیسا کچھ خاص
 ● بَعْدَ: اس سب سے پرانے کیلئے براہ راست کے پڑھانا اجب ہے

أَفَمِنَ الَّذِينَ مَكَمَنَ وَالسَّيَّاتِ أَنْ يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ

Afa aminal lazeena makarus sayyi aati ai yahksifal laahu bihimul arda

أَوْ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٤٥﴾ أَوْ يَأْخُذُهُمْ

aw yaaa tiyahumul 'azaabu min haisu laa yash'uroon (45) Aw yaakhuzahum

فِي تَقْلِبِهِمْ فَمَا هُمْ بِسْعَجِزِينَ ﴿٤٦﴾ أَوْ يَأْخُذُهُمْ عَلَى تَحْوِفٍ

fee taqallubihim famaa hum bi mujizeen (46) Aw yaakhuzahum 'ala takhawwuf;

فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ لَّرَحِيمٌ ﴿٤٧﴾ أَوْلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ

شَيْءٍ يَتَفَيَّأُ طَلْلُهُ عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَائِيلِ سُجَّدًا لِّلَّهِ وَهُمْ

shai'iny-yatafaaya'u zilaaluchoo 'amil yameeni washshamaa' ili sujjadal lillaahi wa hum

دَخْرُونَ ﴿٤٨﴾ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ

daakhiron (48) Wa lillaahi yasjudu maa fis samaawaati wa maa fil ardi

مِنْ دَآبَةً وَالْمَلِئَةً وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ﴿٤٩﴾ يَخَافُونَ

min daabbatinw walma laaa'ikatu wa hum laa yastakbiroon (49) yahhafoona

رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمِرُونَ ﴿٥٠﴾ وَقَالَ

Rabbahum min fawqihim wa yaf'alooona maa yu'maroon (section 6) (make sajda) (50) Wa qaala

اللَّهُ لَا تَتَخِذُوا إِلَهَيْنِ اثْنَيْنِ إِنَّهَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَإِيَّاهُ

laahu laa tatta khizooo ilaahainis naini innamaa Huwa Ilaahunw Waahid; fa iyyaya

فَارْهَبُونِ ﴿٥١﴾ وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ

farhaboon (51) Wa lahoo maa fis samaawaati wal ardi wa lahud deenu

وَاصِبَا طَأْفَغِيرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ ﴿٥٢﴾ وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فِي اللَّهِ

waasibaa; afaghairal laahi tattaqoon (52) Wa maa bikum minni'matin faminal laahi

ثُمَّ إِذَا مَسَكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْرُونَ ﴿٥٣﴾ ثُمَّ إِذَا كَشَفَ الضُّرُّ

summa izaa massakumud durru fa ilaihi taj'aroon (53) Summaa izaa kashafad durra

مِنْزَلٌ ۲۳ تَقْلِبِهِمْ: حروف کو پیٹھی آئیں اور کوچھ رکھنا۔ قَلْبِهِمْ: سماں حرف کو پکڑ کر پیٹھیں کوچھ رکھنے والیں اس کا معنی اور کم سان ہیں کے بعد (ب) ہوئی آئی تجویز میں (ت) میں بھی کچھ رکھنا۔

مُعْلَمٌ: اس سے پہلے اپنے اللہ کے برادر لام کر کے پیٹھا جسے

بُخْلٌ: ... تمیں اللہ کے برادر پانچ اللہ کے برادر لام کر کے پیٹھا جسے

عَشْكُمْ إِذَا فَرَيْقٌ مِنْكُمْ بِرَبِّهِمْ يُسْرَكُونَ لَيَكُفُّهُ وَابْنًا

'ankum izaa fareequm minkum bi Rabbihim yushrikoon (55) Liyakfuroo bimaa

أَتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿٦﴾ وَيَجْعَلُونَ لِيَمَا لَا يَعْلَمُونَ

aatainaahum; fatamatta'oo, faswfa ta'lamoona (55) Wa yaj'aloona limaa laa ya'lamoona

نَصِيبًا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ طَالِهِ لَتَسْعَنَ عَمَّا كُنَّتُمْ تَفْرُونَ

naseebam mimmaa razaqnaahum; tallaahi latus'alunaa 'ammaa kuntum taftaroon (56)

وَيَجْعَلُونَ لِلّٰهِ الْبَنِتَ سُبْحَنَةً لَا وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ

Wa yaj'aloona lillaahil banaati Subhaanahoo wa lahum maa yashtahooon (57) Wa izaa

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَحَدُهُمْ بِالْأَنْشَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًا وَ هُوَ كَظِيمٌ

bushshira ahaduhum bil unsaa zalla wajhu hoo muswaddanw wa huwa kazeem (58)

يَتَوَادِى مِنْ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بِشَهْ يَهُ طَائِسُكَهُ عَلَى

yatawaaraa minal qawmimin sooo'i maa bushshira bih; a-yumsikuhoo 'alaa

٥٩ هُوْنَ أَمْ يَدْسُهُ فِي التَّرَابِ ۖ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ

hoonin am yadussuhoo fit turaab; alaa saaa'a maa yahkumoon (59)

لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثُلُ السَّوْءَ وَ لِلَّهِ الْمُثُلُ

Lillazeena laa yu'minoona bil Aakhirati masalus saw'i wa lillaahil masalul a'laa;

الْأَعْلَىٰ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٢٠﴾ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ

wa Huwal 'Azeezul Hakeem (section 7) (60) Wa law yu'aakhizul laahun naasa bizulminhim

مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَأْبَةٍ وَلَكِنْ يُؤْخِرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى

aa taraka 'alaihaa min daaabbatinw wa laakiny yu'akhkhiruhum ilaaa ajalim musamman

٦٦ حَاءَ أَحَلَّهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ

fa izaa jaaa'a ajaluhum laa yastaakhriroona saa'atanw wa laa yastaqdimoon (61)

يَعْلَمُونَ بِلِهٖ مَا يَكْرَهُونَ وَ تَصَفُّ السَّنَتِهِمُ الْكَذَبُ أَنْ

منزل ۳ **تلقیہم:** حروف کی ترتیب اور اذکویں الف کے پر ایسا کہنا
جسکا بولنے والوں سے اور مخاطبین اور مکملان کس کے لیے ہے۔ (یہ یوں آئندہ تلقیہم (نام) میں لیجا رکھ جائے گا۔)
تفصیل: تلقیہم کے پر ایسا کہنا کہ پڑھنے کے پیشے میں۔ اس کے لیے الف کے پر ایسا کہنا کہ پڑھنے کے پیشے میں۔

لَهُمُ الْحُسْنَىٰ لَا حَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَأَنَّهُمْ مُفْرِطُونَ ٢٦ تَالِلِهِ

Iahumul husnaa laa jarama anna Iahumun Naara wa annahum mufratoon (62) Tallaahi

لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَيْكُم مِّنْ قَبْلِكُمْ فَرَيْنَ لَهُمُ الشَّيْطَنُ أَعْمَالُهُمْ

laqad arsalnaaa ilaaa umamim min qablika fazayyana lahumush Shaitaanu a'maalahum

فَهُوَ وَلِيْهِمُ الْيَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٣﴾ **وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ**

fahuwa waliyyuhumul yawma wa lahum 'azaabun aleem (63) Wa maaa anzalnaa 'alaikal

الْكِتَبُ إِلَّا لِتُبَيَّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ لَا وَهْدَى وَرَحْمَةٌ

Kitaaba illaa litubaiyina lahumul lazikh talafoo feehi wa hudanw wa rahmatal

لِّقَوْمٍ يَوْمَنُونَ ﴿٢٣﴾ وَاللَّهُ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ

liqawminy yu'minoon (64) Wallaahu anzala minas samaaa'i maaa'an fa ahyaan bihil

الْأَرْضَ يَعْدَ مَوْتَهَا إِنْ فِي ذَلِكَ لَآيَةٌ لِّقَوْمٍ يَسْعَوْنَ

arda ba'da mawtihaa; inna fee zaalika la aayatal liqaw min yasma'oون (section 8) (65)

وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَعْمَالِ لَعِبْرَةٌ نُسْقِيْكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ

Wa inna jakum fil an'aami la'ibrah: nusqekum mimmaa fee butoonihee mim

بَنْ فَيْثٌ وَدَمْ لَنَا خَالصَا سَانِغاً لِلشَّبَّابِنَ وَ مِنْ

baini farsinw wa damil labanann khaalisan saaa'ighallish shaaribeen (66) Wa min

شَهِيدُ النَّخْيَلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَخَذُونَ مِنْهُ سَكَّاً وَرِزْقاً

samaraatin pakheeli wal a'nnabi tattakhizoo na minhu sakaranw wa rizqann

حَسَنَا ۖ إِنْ فِي ذٰلِكَ لَا يَةً لِّقُومٍ رَّعَدُونَ ﴿٢٤﴾ وَأَوْحَيْنَا لِكَ

basanaa: inna fee zaalika la Aayatal Jigawminiy ya'qiloon (67) Wa awhaa Rabbuka

إِنَّمَا النَّحَا، أَنْ تَتَخَذِي مِنَ الْجَهَالِيَّةِ مُئْتَدِلاً وَمِنَ الشَّرِّ وَ

ilannabli anit tikhizee mina jabagli buvoctanu wa minach shaeeri wa

مَا يَعْشُنَ كُلُّ شَهْرٍ مِّنْ كُلِّ شَهْرٍ إِلَّا فَالشَّتَاتُ فَاسْكُنْهُ سِيَّارَةً

mimmae variehaar (68) Summme kulea min kulei someracti fealukaa subula

رَبِّكِ ذُلْلًا ۖ يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَهَابٌ مُّخْتَلِفُ الْوَانَةِ فِيهِ

Rabbiki zululaa; yakhruju mim butoonihaa sharaabum mukh talifun alwaanuhoo feehi

شِفَاءُ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ۚ وَاللَّهُ

shifaaa'ul linnaas, inna fee zaalika la Aayatal liqawmin yatafakkaroon (69) Wallahu

خَلَقْتُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّكُمْ ۗ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِدُ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ

khalqaakum suma tatawaffaaakum; wa minkum many-yuradu ilaaa arzalil 'umuri

لَكُمْ لَا يَعْلَمُ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا ۖ إِنَّ اللَّهَ عَلَيْمٌ قَدِيرٌ ۚ وَاللَّهُ

likai laa ya'lama ba'da 'ilm shai'aa; innal laaha 'Aleemun Qadeer (section 9) (70) Wallahu

فَصَلَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ ۚ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا

faddala ba'dakum 'alaabaa ba'din fir rizq; famal lazeena fuddiloo

بِرَادِيْرِ رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ

biraaaddee rizqihim 'alaabaa maa malakat aimaanuhum fahum feehi sawaaa';

أَفِينِعْمَةُ اللَّهِ يَجْحَدُونَ ۚ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ

afabini'matil laahi yajhadoon (71) Wallahu ja'alaa lakum min anfusikum

أَزْوَاجًا وَ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِيْنَ وَ حَفَدَةً وَ

azwaajanw wa ja'alaa lakum min azwaajikum baneena wa hafadatanw wa

رِزْقَكُمْ مِنَ الطِّبِّبِتِ ۖ أَفِي الْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَ بِنِعْمَتِ اللَّهِ

razaaqakum minat tayibaat; afabil baatiliyu'minoona wa bini'matil laahi

هُمْ يَكْفُرُونَ ۚ وَ يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَبْلِدُ

hum yakkfuroon (72) Wa ya'budoona min doonil laahi maa laa yamliku

لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَ لَا يَسْتَطِيْعُونَ

lahum rizqam minas samaawaati wal ardi shai'anw wa laa yastatee'oon (73)

فَلَا تَضْرِبُوا بِلِلَّهِ الْأَمْثَالَ ۖ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَ أَنْتُمْ

Falaa tadriboo illaahil amshaal; innal laaha ya'lamu wa antum

معنی: اون ھڈہ اور سکھنے کی آڑا تو ایک الٰہ کے برابر لامہ کرنا

بالغ: بون سکن اور سکھنے کے بعد (ب) یا کوئی جو کوئی ممکن نہیں کرنے کا

جیسے: اس سب سے ایک الٰہ کے برابر لامہ کر کے پڑھانا اچب ہے

٢٣) لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢٣﴾ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عِنْدًا مَمْلُوًّا كَمَا لَا يَعْدُ عَلَى

laa ta'lamoona (74) Darabal laahu masalan 'abdam mammlookal laa yaqdiru 'ala

شَيْءٌ وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِنَا رَزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُتَفَقِّدُ مِنْهُ سَادَ

shai'inw wa marrazaqnaahu mminnaa rizqan hasanan fahuwa yunfiqu minhu sirranw

٢٥ وَ جَهْرًا هَلْ يَسْتَوْنَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

wa jahra; hal yasta-woon; alhamdu lillaah; bal aksaruhum laa ya'lamoon (75)

وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّجْلِينَ أَحَدُهُمَا أَبِكُمْ لَا يَعْدِرُ عَلَىٰ

Wa darabal laahu masalar rajulaini ahaduhumaaa abkamu laa yaqdiru 'ala

شَيْءٌ وَ هُوَ كُلُّ عَلَى مَوْلَهُ لَا إِنْسَانٌ يُوَجِّهُهُ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ

shai'inw wa huwa kallun 'alaa mawlaahu ainamaa yuwajihhu laa yaati bikhairin

hal vastawee huwa wa many-vaamuru bil'adli wa huwa 'alaa Siraatim.

١٦

وَلِلّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا أَمْرٌ^{٤٧}
مُسْتَقِيمٌ

Mmustaqeem (section 10) (76) Wa lillaahi ghaibus samaawaati wal ard; wa maaa amrus

السَّاعَةِ إِلَّا كُلَّمَحَ الْبَصَرَ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ ۖ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ

Saa'ati illaa kalamhil basari aw huwa aqrab; innal laaha 'alaaa

وَاللَّهُ أَخْرَجُكُم مِّنْ بُطُونِ أُمَّهَتُكُمْ
كُلُّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ٤٤

kulli shai'in Qadeer (77) Wallaahu akhrajakum mim butooni ummahaatikum

لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَ جَعَلَ لَكُمُ السَّمِيعَ وَ الْأَبْصَارَ وَ الْأُفْرَدَةَ

laa ta'lamoona shai'anw wa ja'ala lakumus sam'a wal absaara wal af'idata

لَعَلَّكُمْ تَشْكُونَ إِنَّمَا يَرُوا إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرٌ فِي جَوَافِعِ الْأَرْضِ

la'allakum tashkuoon (78) Alam yaraw ilat tairi musakhkharaatin fee jawwis

السَّمَاءُ مَا يُسْكِنُ إِلَّا اللَّهُ أَنْ فِي ذَلِكَ لَا يَتَّقُومُ

samaaa'i maa yumsikuhunna illal laah; inna fee zaalika la Aayaatil liqawminy

متن ۳ تفہیم: جزوں کو لیتی آواز کو مارکنا قلچکہ: ساکن جو کافر کا رہا

میرا میرا کو خیلی بڑھا دیا جائے۔ میرا کو اپنے پیارے بھائی کی طرف سے بڑھانے کا احتیاط کر دیا جائے۔

.....میں .. تمین الف کے برادر - یاخن الف کے برادر لہاڑ کے لڑھانے اجس سے

يَوْمَنُونَ ﴿٦﴾ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ بُيُوتِكُمْ سَكَناً وَجَعَلَ

yu'minoon (79) Wallaahu ja'ala lakum mim buyootikum sakananw wa ja'ala

لَكُم مِّنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخْفُونَهَا يَوْمَ ظَغْنُكُمْ

lakum min juloodil an'aami buyootan tastakhif foonaahaa yawma za'nikum

وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأُوبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا

wa yawma iqamatikum wa min aswaafihaa wa awbaarihaa wa ash'aarihaaa

أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَى حِينِ ﴿٧﴾ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنَ الْخَلْقِ ظِلَّاً

asaasanw wa mataa'an ilaa heen (80) Wallaahu ja'ala lakum mimmaa khalaqa zilaalanw

وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا وَجَعَلَ لَكُم مَّسَاءَبِيلَ

wa ja'ala lakum minal jibaali aknaananw wa ja'ala lakum saraabeela

تَقْيِيمُ الْحَرَّ وَسَاءَبِيلَ تَقْيِيمُ بَاسِكُمْ كَذِيلَ يُتِيمُ نِعْمَةَ

taqeekumul harra wa saraabeela taqeekum baasakum; kazaalika yutimmu ni'matahoo

عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ ﴿٨﴾ فَإِنْ تَوَلُّوا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلْغُ

alaikum la'allakum tuslimoon (81) Fa in tawallaw fa innamaa 'alaikal balaaghul

الْمُبِينُ ﴿٩﴾ يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللَّهِ شَمَ يُنْكِرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمْ

mubeen (82) Ya'rifoona ni'matal laahi summa yunkiroonahaa wa aksaruhum

الْكُفَّارُ وَنَ وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا شَمَ لَا

kaafiroon (section 11) (83) Wa yawma nab'asu min kulli ummatin shaheedan summa laa

يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا لَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ﴿١٠﴾ وَإِذَا رَا الَّذِينَ

yu'zanu lillazeena kafaroo wa laa hum yusta'taboon (84) Wa izaa ra al lazeena

ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ

zalamul 'azaaba falaa yuhkaf fafu 'anhum wa laa hum yunzaroon (85)

وَإِذَا رَا الَّذِينَ أَشْكَوُا شَكًا عَلَيْهِمْ قَالُوا رَبَّنَا هُوَ لَأَعْ شَكًا عَلَنَا

Wa izaa ra al lazeena ashrafakoo shurakaaa'ahum qaaloo Rabbana haaa'ulaaa'i shurakaaa'unal

الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُوا مِنْ دُونِكُمْ فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ

lazeena kunnaa nad'oo min doonika fa alqaw ilaihimul qawla innakum

لَكُذِّبُونَ ﴿٨٧﴾ وَ الْقَوْلُ إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَامُ وَ صَلَّ عَنْهُمْ

lakaaziboon (86) Wa alqaw ilal laahi yawma'izinis salama wa dalla 'anhum

مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿٨٨﴾ الَّذِينَ كَفَرُوا وَ صَدُّوا عَنْ سَبِيلِ

maa kaanoo yaftaroon (87) Allazeena kafaroo wa saddoo 'an sabeeil

اللَّهُ زَدَنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ ﴿٨٩﴾

laahi zidnaahum 'azaaban fawqal 'azaabi bimaa kaanoo yufsidoon (88)

وَ يَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ

Wa yawma nab'asu fee kulli ummmatin shaheedan 'alaihim min anfusihim

وَ جَئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هُؤُلَاءِ وَ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ

wa ji'naa bika shaheedan 'alaah haaa'ulaaaa'; wa nazzalnaa 'alaikal Kitaaba

تَبَيَّنَ لِكُلِّ شَيْءٍ وَ هُدًى وَ رَحْمَةً وَ بُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ ﴿٩٠﴾

tibyaanal likulli shai'inw wa hudanw wa rahmatanw wa bushraa ilmuslimeen (section 12) (89)

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعُدْلِ وَ الإِحْسَانِ وَ إِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ

Innal laaha ya'muru bil 'adli wal ihsaani wa eetaaa'i zil qurbaa

وَ يَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَ الْمُنْكَرِ وَ الْبَغْيِ يَعْظُمُ لَعْلَكُمْ

wa yanhaa 'anil fahshaa'i wal munkari walbagh-i' ya'izukum la'allakum

تَذَكَّرُونَ ﴿٩١﴾ وَ أَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَهْدْتُمْ وَ لَا تَنْقُضُوا

tazakkaroon (90) Wa awfoo bi Ahdil laahi izaa 'aahattum wa laa tanqudul

الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَ قَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا

aimaana ba'da tawkeedihaa wa qad ja'altum laaha 'alaikum kafeelaa;

إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ﴿٩٢﴾ وَ لَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَرْلَاهَا

innal laaha ya'lamu maa ta'aloon (91) Wa laa takoonoo kallatee naqadat ghalzlahaa

منزل ۲ تَقْرِيمُهُ: حروف کو پڑی تھیں اور کوہا رکھنا

● نقاشی: اون ہڈی وار سکم مدد کی ادا ذکریں اپنے کوہا رکھنے کے لئے آپ کو پڑی تھیں اور سکم مانگنے کے بعد (بے ہوی) آپ کو تھیم (تک) میں پچھا کر کر جائے۔

● مختصر: اس سب سے پرانی اپنے کوہا رکھنے کے پڑھانا اچھا ہے

مِنْ بَعْدِ قَوَّةٍ أَنْكَاثًا طَتَّاخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخْلًا بَيْنَكُمْ آنَ

mim ba'di quwwatin ankaasaa; tattakhizoona aimaanakum dakhelalam bainakum an

تَكُونُ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَبُ مِنْ أُمَّةٍ طِ إِنَّمَا يَعْلُوْكُمُ اللَّهُ بِهِ طَ وَلَيَبْيَانَ

takoona ummatun hiya arbaa min ummah; innamaa yablookum laahu bih; wa la yubaiyinanna

لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ٩٢

lakum yawmal Qiyaamati maa kuntum feehi takhtalifoon (92) Wa law shaa'al laahu

لَجَعَلْكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَ لَكُنْ يُفْلِيْ مَنْ يَشَاءُ وَ يَهْدِيْ

laja'alakum ummataan waahidatanw wa laakin yudillu many-yashaa'u wa yahdee

مَنْ يَشَاءُ وَلَتُسْأَلُنَ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ٩٣

many-yashaaa'; wa latus'alunna 'ammaa kuntum ta'maloon (93) Wa laa tattakhizoo

أَيْمَانَكُمْ دَخْلًا بَيْنَكُمْ فَتَرَكَ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَ تَذُوقُوا

aimaanakum dakhelalam bainakum fatazilla qadamum ba'da subootihaa wa tazooqoos

السُّوءِ بِمَا صَدَّتُمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ طَ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ٩٤

sooo'a bimmaa sadattum 'an sabeeli laahi wa lakum 'azaabun 'azeem (94)

وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ شَنَا قَلِيلًا طِ إِنَّمَا عِنْدَ اللَّهِ هُوَ

Wa laa tashtaroo bi 'ahdil laahi samanan qaleelaa; innamaa 'indal laahi huwa

حَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ٩٥

khairul lakum in kuntum ta'lamoon (95) maa 'indakum yanfadu wa maa

عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ طَ وَلَنَجْزِيَنَ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِإِحْسَنِ مَا

'indal laahi baaq; wa lanajziyannal lazeena sabarooo ajrahum bi ahsani maa

كَانُوا يَعْمَلُونَ ٩٦

kaanoo ya'maloon (96) Man 'amila saaliham min zakarin aw unsaa wa huwa mu'minun

فَلَنُخْيِنَهُ حَيَاةً طَيِّبَةً طَ وَلَنَجْزِيَنَهُمْ أَجْرَهُمْ بِإِحْسَنِ مَا كَانُوا

falanuyhiyannahoo hayaatan taaifiyanwan wa lanajzi yannnahum ajrahum bi ahsani maa kaanoo

يَعْمَلُونَ ﴿٢﴾ فَإِذَا قَرِأتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَنِ

ya'maloon (97) Fa izaa qara tal Quraana fasta'iz billaahi minashh Shai taanir

الْجِئْمِ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَنٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى

rajeem (98) Innahoo laisa lahoo sultaanun 'alal lazeena aamanoo wa 'alaa

رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿٩٩﴾ إِنَّمَا سُلْطَنُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّنَهُ وَالَّذِينَ

Rabbihim yatawakkaloon (99) Innnamaa sultaanuhoo 'alal lazeena yatawallawnahoo wallazeena

هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ ﴿١٠٠﴾ وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةً وَاللَّهُ أَعْلَمُ

hum bihee mushrikoon (section 13) (100) Wa izaa baddalnaaa Aayatam makaana Aayatin wal laahu 'alamu

بِسَائِيْنَزِلُ قَالُوا إِنَّمَا أَتَتْ مُفْتَرِ طَبَلُ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

bimaa yunazzilu qaaloo innamaa anta muftar; bal aksaruhum laa ya'lamoona (101)

قُلْ نَزَّلَهُ رُوْمُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ

Qul nazzalahoo Roohul Qudusi mir Rabbika bilhaqqi liyusabbital lazeena

آمَنُوا وَهُدَى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ ﴿١٠١﴾ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ

aamanoo wa hudanu wa bushraa lilmuslimeen (102) Wa laqad na'lamu annahum

يَقُولُونَ إِنَّمَا يَعْلَمُهُ بَشَرٌ لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ

yaqooloona innamaa yu'allimu bashar; lisaanul lazee yulhidooна ilaihi

أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا إِلَسَانٌ عَرَبِيٌّ مَيْمَنِيٌّ ﴿١٠٢﴾ إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ

a'ja miyyunwa haaza lisaanun 'Arabiyyum mubeen (103) Innal lazeena laa yu'minoona

بِاِيْتِ اللَّهِ لَا يَهْدِيهِمْ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾ إِنَّمَا

bi Aayaatil laahi laa yahdehimul laahu wa lahum 'azaabun aleem (104) Innnamaa

يَغْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاِيْتِ اللَّهِ وَأُولَئِكَ

yaftaril kazibal lazeena laa yu'minoona bi Aayaatil laahi wa ulaa'iika

هُمُ الْكُذَّابُونَ ﴿١٠٤﴾ مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ

humul kaaziboon (105) man kafara billaahi mim ba'di eemaanihee illaa man

مُنْزَل٢ تَفْسِيرِهِ: حروف کو پڑھنی آئی اور کوہا رکھنا

کوہا رکھنے والی آنے والی حروف کو پڑھنے سکتا ہے اور کوہا رکھنے والی آنے والی حروف کو پڑھنے سکتا ہے

بَلْخَانَ: ان سماں کو پڑھنے کی وجہ سے اس کے بعد کوہا رکھنے والی آنے والی حروف کو پڑھنے سکتے ہیں جیسا کہ حدا

بَلْخَانَ: ان سماں سے اس کے بعد کوہا رکھنے والی آنے والی حروف کو پڑھنے سکتے ہیں جیسا کہ حدا

اکرِہا وَ قُلْبُهُ مُطَمِّنٌ بِالْإِيمَانِ وَ لَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ

ukriha wa qalbu hoo mutmma'innum bil eemaani wa laakim man sharaha bilkufri

صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

sadran fa'alaihim ghadabum minal laahi wa lahum 'azaabun 'azeem (106)

ذلِكَ بِأَنَّهُمْ أَسْتَحْبُوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ ۚ وَإِنَّ اللَّهَ

Zaalika bi annahumus tahabbul hayaatad dunyaa 'alal Aakhirati wa annal laaha

لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكُفَّارِينَ ۝ أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ

laa yahdil qawmal kaafireen (107) Ulaaa'ikal lazeena taba'al laahu 'ala

١٨ قُلُوبُهُمْ وَ سَعِيْهُمْ وَ أَبْصَارِهِمْ ۝ وَ أُولَئِكَ هُمُ الْغَفِلُونَ

quloobihim wa sam'ihim wa absaarihim wa ulaaa'ika humul ghaafloon (108)

لَا جَرْمَ أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْخَسِيرُونَ ﴿١٦٩﴾

Laa jarama annnahum fil Aakhirati humul khassiroon (109) Summa inna Rabbaka lillazeena

هَا جَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا فُتِنُوا ثُمَّ جَهَدُوا وَصَبَرُوا لَا إِنَّ رَبَّكَ

haajaroo mim ba'dimaa futinoo summma jaahadoo wa sabaroo innal Rabbaka

مِنْ بَعْدِهَا لَغُفْرَةٌ رَّحِيمٌ ۝ يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ تُجَادِلُ

mim ba'dihaa la Ghafoorur Raheem (section 14) (110) Yawma taatee kullu nafsin tujaadilu

عَنْ نُفْسِهَا وَ تُوْفِيْ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَبَلَتْ وَ هُمْ لَا يُظْلَمُونَ

'an nafsihaa wa tuwaffaa kullu nafsim maa 'amilat wa hum laa yuzlamoon (111)

وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ أَمِنَةً مُطْبَعَةً يَا تَيَّمَا

Wa darabal laahu masalan qaryatan kaanat aaminatam mutma'innatany yaaateehaa

رِزْقُهَا رَغْدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَإِذَا قَهَا

rizquhaa raghadam min kulli makaanin fakafarat bi an'umil laahi fa azaaqahal

اللَّهُ لِبَاسُ الْجُوعِ وَ الْخُوفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ﴿١١٢﴾ وَ لَقَدْ

laahu libaasal joo'i walkhawfi bimaa kaanoo yasna'oon (112) Wa laqad

منزل ۲ **تفصیل:** عجوف کو پہنچی، اور اکوکی اللہ کے برایہ لام کرنا
مکمل: دوں مھر مار کر سمجھا تھا کہ آکوکی اللہ کے برایہ لام کرنا
الخواص: بون ساکن ایکوکی اور سام ساکن جس کے بند بہت (ب) ہو، آکوکی اللہ کے برایہ لام کر کر پڑھنا
ویسے ہی: اس کے لئے اکیکی اللہ کے برایہ لام کے پڑھنا کہ پیش کے
معنی: ستم الٹ کے برایہ لام پڑھنے کے برایہ لام کے پڑھنا اج بے

جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخْذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ

jaaaa'hum Rasoolum minhum fakazzaboohu fa akhazahumul 'azaabu wa hum

ظَلَمُونَ ١٢٣ فَطَّلُوا مِسَارَزَقْكُمُ اللَّهُ حَلَّا طَيْبًا وَ اشْكُّ وَانْعَمَّ

zaalimoon (113) Fakuloo miimmaa razaqa kumul laahu halaalan tayiibanw washkuroo ni'matal

الَّهُ إِنْ كُنْتُمْ إِيمَانًا تَعْبُدُونَ ١٢٤ إِنَّا حَمَّ مَعْلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَ

laahi in kustum iyyaahu ta'budoon (114) Innamaa harama 'alai kumul maitata

الَّدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أَهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطَرَّ غَيْرَهُ

waddama wa lahmal khinzeeri wa maaa uhilli lighairil laahi bihee famanid turra ghaira

بَاغِ وَ لَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ١٢٥ وَ لَا تَقُولُوا لِمَا تَصْفُ

baaghinw wa laa 'adin fa innal laaha Ghafoorur Raheem (115) Wa laa taqooloo limaa tasifu

الْسِّنَنُتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَلٌ وَ هَذَا حَرَامٌ لِتَقْتَرُوْدُ عَلَى اللَّهِ

alsinatukum kaziba haaza halaalunw wa haaza haraamul litaftaro 'alal laahil

الْكَذِبُ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبُ لَا يُفْلِحُونَ ١٢٦

kazib; innal lazeena yaftaroona 'alal laahil kaziba laa yuflihoon (116)

مَتَاعٌ قَلِيلٌ وَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ١٢٧ وَ عَلَى الَّذِينَ هَادُوا

Mata'un qaleelunw wa lahum 'azaabun aleem (117) Wa 'alal lazeena haadoo

حَرَّمَنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِنْ قَبْلٍ وَ مَا ظَلَمْنَاهُمْ وَ لَكِنْ

haramnaa ma qasasnaa 'alaika min qablu wa maa zalamanaahum wa laakin

كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ١٢٨ ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَبَلُوا السُّوَءَ

kaanoo anfusahum yazlimoon (118) Summna inna Rabbaka lillazeena 'amilus sooo'a

بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَ أَصْلَحُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ

bijahaalatin summa taaboo mim ba'di zaaalika wa aslahoo inna Rabbaka mim

بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ١٢٩ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ

ba'dihaa la Ghafoorur Raheem (section 15)(119) Inna Ibraaheema kaana ummatan qaanital lillaahi

مِنْزَل٢ ﴿تَقْتِيمٌ﴾: حروف کو پر لہجی آئندگانی اور کوچک رکھنا۔

﴿إِلْخَافٌ﴾: توں ساکن اور توہین اور سماں جس کے بعد (ب) ہوئی آئندگانی خیلی آئی۔

﴿جَنَاحٌ﴾: اس سب سے الگ الگ کے برادر لہما کے پڑھانا اچھا ہے۔

﴿عَنْ﴾: تمن الگ کے برادر پانچ الگ کے برادر لہما کے پڑھانا اچھا ہے۔

حَنِيفًاٌ وَلَمْ يَكُنْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿١٢٠﴾ شَاكِرًا لِأَنْعَمِهِ طَاجِتَبَهُ وَ

Haneefanw wa lam yakuminal mushrikeen (120) Shaakiral li an'umih; ijtabaahu wa

هَذِهِ إِلَى صِرَاطِ مُسْتَقِيمٍ ﴿١٢١﴾ وَاتَّيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ

هاداہو ilaa Siraatim Muustaqeem (121) Wa aatainaahu fid dunyaa hasanah; wa innahoo

فِي الْآخِرَةِ لَيْنَ الصَّلِحِينَ ﴿١٢٢﴾ شُمُّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ

fil Aakhirati laminas saaliheen (122) Summma awhainaa ilaika anit tabi' Millata

إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًاٌ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿١٢٣﴾ إِنَّمَا جَعَلَ

Ibraaheema haneefaa; wa maa kaana minal mushrikeen (123) Innnamaa ju'ilas

السَّبِّتُ عَلَى الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ طَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ

Sabtu 'alal lazeenakhtalafoo feeh; wa inna Rabbaka la yahkumu bainahum

يَوْمَ الْقِيَمَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿١٢٤﴾ أُدْعُ إِلَى سَبِيلِ

Yawmal Qiyaamati feemaa kaanoo feehi yakhtalifoona (124) Ud'u ilaa sabei

رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمُوعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلُهُمْ بِالْقِنْ هِيَ

Rabbika bilhikmati walmaw 'izatil hasanati wa jaadilhum billatee hiya

أَحْسَنُ طَ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ

ahsan; inna Rabbaka huwa a'almu biman dalla 'an sabeihi wa Huwa a'lamu

بِالْمُهْتَدِينَ ﴿١٢٥﴾ وَإِنْ عَاقِبْتُمْ فَعَاقِبْبُوا بِمِثْلِ مَا عَوْقَبْتُمْ بِهِ

bilmuhatadeen (125) Wa in 'aaqabtum fa'aqiboo bimisli maa 'ooqibtum bihee

وَلَئِنْ صَدَرْتُمْ لَهُ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ ﴿١٢٦﴾ وَاصْدِرُ وَمَا صَدِرُكَ إِلَّا

wa la'in sabartum lahuwa khairul lissaabireen (126) Wasbir wa maa sabruka illaa

بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تُكُنْ فِي ضَيْقٍ مِمَّا يَئِسُكُمْ وَنَ

billaha; wa laa tahzan 'alaihim wa laa taku fee daiqim mimmaa yamkuroon (127)

إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقُوا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ ﴿١٢٨﴾

Innal laaha ma'al lazeneat taqaw wal lazeena hum muhsinoon (section (End Juz 14)(128))

رَجُونَاتُهَا
۱۲اِيْتَهَا
۱۱۱

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سُوْرَةُ بَنْيُ اَسْرَاءَ بَلِيلٍ
۵۰مَكِيَّةٌ
۱۷

Bismillaahir Rahmaanir Raheem

سُبْحَنَ الرَّبِّ اَسْمَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ السُّجُودِ الْحَارِمِ

Subhaanal lazeee asraa bi'abdihee lailam minal Masjidil Haraami

إِلَى السُّجُودِ الْأَقْصَا اَلَذِي بَرَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيْهُ مِنْ اِيْتَنَا اِنَّهُ

ilal Masjidil Aqsal-lazee baaraknaa haw lahoo linuriyahoo min aayaatinaa;innahoo

هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ۚ وَاتَّيْنَا مُوسَى الْكِتَبَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى

Huwas Samee'ul-Baseer (1) Wa aatainna Moosal-Kitaaba wa ja'alnaahu hudal-

لِبَنِي اَسْرَاءَ اِعْيَلَ اَلَا تَتَخِذُوا مِنْ دُونِنِ وَكِيلًا ۖ ذُرِيْةَ مِنْ

liBanee Israaa'eel;allaa tat-takhizoo min doonee wakeelaa. (2) Zurriyyat man

حَلَّنَا مَعَ نُوحٍ اِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا ۖ وَقَضَيْنَا اِلَى بَنِي

hamalnaa ma'a Nooh innahoo kaana 'abdan shakooraa (3) Wa qadainaaa ilaa Banee

اسْرَاءَ اِعْيَلَ فِي الْكِتَبِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُمَنَّ

Israaa'eela fil Kitaabi latufsidunna fil ardi marratain; wa lata'lunna'

عُلُوْا كَبِيرًا ۚ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ اُولِيْهِمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادَ اَنَّا

uluwwan kabeeraa (4) Fa-izaa jaaa'a wa'duolahumaa ba'asnaa 'alykum 'ibaadal-lanaaa

أُولَئِيْ بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلْلَ الدِّيَارِ ۖ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا ۚ

ulee baasin shadeedin fajaasoo khilaalad diyaar; wa kaana wa'dam maf'oolaa (5)

شُمْ رَدَدَنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَامْدَدَنَا كُمْ بِاْمَوَالٍ وَبَنِينَ وَ

Summa radadnaa lakumul karrata 'alaihim wa amdad-naakum-bi amwaalinuw wa baneen; wa

جَعَلْنَاكُمْ اَكْثَرَ نَفِيْدًا ۚ اِنْ اَحْسَنْتُمْ اَحْسَنْتُمْ لِاَنْفُسِكُمْ

ja'alnaakum aksara nafeeraa (6) In ahsantum ahsantum li anfusikum

وَإِنْ اَسَأْتُمْ فَلَهَا ۖ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوْغَا وُجُوهُكُمْ

wa in asaatum falaha; fa izaa jaaa'a wa'dul aakhirati liyasooo'oo wujoo hakum

مُنْزَل٢ ﴿٢﴾ قَلْمَبِيْمِ: حروف کو پر لینی آؤکھا جائے اور کلمہ رکنا

کلمہ کو پر لینی آؤکھا جائے اور کلمہ سان گیس کے لئے حرف (ب) ہوئی آؤکھیشم (نک) میں جیسا کچھ حدا

جیسے ہے۔ ان سب ایک کلمہ کے پر لینا کوئی کمزوری پڑھنا چاہیے

مُنْزَل٢ .. تمنِ الک کے پر لینا کوئی کمزوری پڑھنا چاہیے

وَلَيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوا أَوَّلَ مَرَّةٍ ۚ وَ لَيُتَبَرُّوْا مَا عَلَوْا

wa liyadkhulul masjida kamaa dakhloohu awwala marratinw wa liyutabbiroo maa a'law

تَتَبَرُّوْا ۚ عَسَى رَبُّكُمْ أَن يَرَ حَكْمُ ۚ وَإِنْ عُدْتُمْ عُذْنَا ۚ وَجَعَلْنَا

tatbeera (7) 'Asaa rabbukum anyyarhamakum; wa in 'uttum 'udnaa; wa ja'alnaa

جَهَنَّمَ لِلْكُفَّارِينَ حَصِيرًا ۚ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلّّٰتِي

jahannama liikafireena haseera (8) Inna haazal Quraana yahdee lillatee

هِيَ أَقْوَمُ ۖ وَ يُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّلِحَاتِ أَنَّ

hiya aqwamu wa yubashshirul mu'mineen lazeena ya'maloona saalihaati anna

لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا ۚ وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْذَنَا

lahum ajran kabearaa (9) Wa annal lazeena laa yu'minoona bil aakhirati a'tadnaa

لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ۚ وَ يَدْعُ الْإِنْسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ

lahum 'azaaban aleemaa (section 1) (10) Wa yad'ul insaanu bishsharri du'aaa 'ahoo bilkhayr;

وَ كَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا ۚ وَ جَعَلْنَا اللَّيْلَ وَ النَّهَارَ أَيْتَيْنِ

wa kaanal insaanu 'ajoola (11) Wa ja'alnal laila wannahaara Aayatayni

فَمَحَوْنَا آيَةَ الَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبَصِّرَةً لِتَبَتَّغُوا فَضْلًا

famahawnaa Aayatal laili wa ja'alnaaa Aayatan nahaari mubsiratal litabtaghoo fadlam

مِنْ رَبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَ الْحِسَابَ ۚ وَ كُلَّ شَيْءٍ

mir Rabbikum wa lita'lamoo 'adadas sineena walhisaab; wa kulla shai'in

فَصَلَنْهُ تَفْصِيلًا ۚ وَ كُلُّ إِنْسَانٍ الْزَمْنُهُ طِيرَةٌ فِي عُنْقِهِ

fassalnaahu tafseelaa (12) Wa kulla insaanin alzamnaahu taaa'irahoo fee 'unuqihee

وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ كِتَبًا يَلْقَمُهُ مَنْ شُورًا ۚ إِقْرَا كِتَبَكَ

wa nukhriji laahoo Yawmal Qiyaamati kitaabany yalqaahu manshooraa (13) Iqra kitaabaka

كُنْ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حِسِيبًا ۚ مَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا

kafaa bi nafsikal Yawma 'alaika haseebaa (14) Manihtadaa fa innamaa

مِنْهُ: اونوں میں مدد ویکی ادازوں کی الف کے برادر لامہ کرنا

منزل ۲ ﴿تَقْرِيمُهُ: حروف کو پڑھنی آؤ کوچھ رکھنا۔ قافلہ مدد ویکی ادازوں کی الف کے برادر لامہ کرنا۔ مکاری، الف کے آڈر میں اور سیم سائنس کے برادر لامہ (ب) ہوئی آؤ کوچھ رکھنا۔﴾

بِعْدِ: اس سے بیرونی الف کے برادر لامہ کے پڑھانا اجب ہے

مُقْرَنٌ: ... تمیں الف کے برادر لامہ پاٹی الف کے برادر لامہ کے پڑھانا اجب ہے

يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ۚ وَمَنْ صَلَّى فَإِنَّا يَضْلُّ عَلَيْهَا ۖ وَلَا تَزِدُ

yahtadee linafsihee wa man dalla fa innamaa yadillu 'alaaiha; wa laa taziru

وَأَرَدَةٌ وَزَرَادُ أَخْرَاهٍ ۖ وَمَا كُنَّا مَعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا

waaziratunw wizra ukhraa; wa maa kunnaa mu'azzibeeha hatta nab'asa Rasoola (15)

وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ تُهْلِكَ قَرْيَةً أَمْرَنَا مُتَرَفِّيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا

Wa izaaa aradnaa an nuhlika qaryatan amarnaa mutrafeehaa fafasaqoo feehaa

فَحَقَ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَرْنَاهَا تَدْمِيرًا ۖ وَكُمْ أَهْلَكْنَا مِنْ

fahaqqa 'alaihal qawlu fadammarnaahaa tadmeeraa (16) Wa kam ahlaknaa minal

الْقُرْآنِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ ۖ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ حَبِيرًا

qurooni min ba'di Nooh; wa kafaa bi Rabbika bizunoobi 'ibaadihee Khabeeram

بَصِيرًا ۖ مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ

Baseeraa (17) Man kaana yureedul 'ajjalata' ajjalnaa lahoo feehaa maa nashaa'a'u

لِمَنْ نُرِيدُ شَمْ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَضْلِلُهَا مَذْمُومًا

liman nureedu summa ja'alnaa lahoo Jahannama yaslaahaa mazmoomammad

مَذْحُورًا ۖ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ

hooraa (18) Wa man araadal Aakhirata wa sa'aa lahoo sa'yaha wa huwa

مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا ۖ كُلَّ نِيدٍ هُوَلَاءِ

mu'minun fa ulaa'i kaana sa'yuhum mashkooraa (19) Kullan numiddu haaa 'ulaaa'i

وَهُوَلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا

wa haaa'ulaaa'i min 'ataaa'i rabbik; wa maa kaana 'ataaa'u rabbika mahzooraa (20)

أُنْظِرْ كَيْفَ فَضَلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ ۖ وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ

Unzur kaifa faddalnaa ba'dahum 'alaa ba'd; wa lal Aakhiratu akbaru

دَرَجَتٌ وَأَكْبُرُ تَقْضِيَلًا ۖ لَا تَجْعَلْ مَعَ إِلَهٍ إِلَّا هُوَ الْأَكْبَرُ فَتَقْعُدْ

darajaatiw wa akbaru tafdeelaa (21) Laa taj'al ma'al laahi ilaahan aakhara fataaq'uda

● نُون: اونوں میں مدد کی، ادازوں کی الف کے برادر لام کرنا
 ● مُنْزَلٌ ۲ ﴿تَقْرِيمٌ: حروف کو پر یعنی آدم کو حکم مارنا۔ مکان حکم کو ادا کرنے کا
 ● اخْلَقٌ: اون سماں اخْلَقٌ اور سماں میں کے بعد (ب) ہوئی آدم کو حکم میں بھاگ کر جائے
 ● دُنْعَلٌ: اس سے ادازوں کی الف کے برادر لام کے پڑھانا اجب ہے

مَذْمُومًا مَّخْذُولًا ۲۲ وَقَطْعِي رَبِّكَ أَلَا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَ

mazoomam makhzoolaa (section 2) (22) Wa qadaa Rabbuka allaa ta'budooo illaaa iyyaahu wa
إِلَوَالَّدِينِ إِحْسَانًا إِمَّا يَيْلُغُنَ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ

bilwaalidaini ihsaanaa; immaa yablughanna 'indakal kibara ahaduhumaaa aw

إِلَهُمَا فَلَا تَقْلُنْ لَهُمَا أُفِّ وَ لَا تَنْهَهُمَا وَ قُلْ لَهُمَا قَوْلًا ۲۳

kilaahumaa falaa taqul lahumaa uffinw wa laa tanharhumaa wa qullahumaa qawlan

كَرِيئَا ۲۴ وَ اخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذِّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَ قُلْ

kareemaa (23) Wakhfid lahumaa janaahaz zulli minar rahmati wa qur

رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيْنِي صَغِيرًا ۲۵ رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ

Rabbir hamhumaa kamaa rabbayaanee sagheera (24) Rabbukum a'lam bimaa fee nufosoosikum;

إِنْ تَكُونُوا صَلِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلَّهِ وَابْنِيْنَ غَفُورًا ۲۶ وَاتِّ

in takoonoo saaliheena fa innahoo kaana lil awwaabeena Ghafooraa (25) Wa aati

ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمُسْكِينُونَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَدِّرْ تَبَدِّرِيْرًا ۲۷

zal qurbaa haqqahoo walmiskeena wabnas sabeeli wa laa tubazzir tabzeeraa (26)

إِنَّ الْمُبَدِّرِيْنَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَيْنِ ۲۸ وَ كَانَ الشَّيْطَيْنُ

Innal mubazzireena kaanoo ikhwaanash shayaateeni wa kaanash shaytaanu

لِرَبِّهِ كَفُورًا ۲۹ وَ امَّا تُعْرِضُنَ عَنْهُمْ ابْتِغَاءَ رَحْمَةِ مِنْ رَبِّكَ

li Rabbihee kaforaa (27) Wa immaa tu'ridanna 'anhuma ubtighaa'a rahmatim mir rabbika

تَرْجُوهَا فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا ۳۰ وَ لَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً

tarjooohaa faqul lahum qawlam maisoora (28) Wa laa taj'al yadaka maghoolatan

إِلَى عُنْقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا ۳۱

ila 'unuqika wa laa tabsut haa kullal basti fataq'uda maloomam mahsooraa (29)

إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَ يَقْدِرُ ۳۲ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ

Inna Rabbaka yabsutrizqa limai yashaa'u wa yaqdir; innahoo kaana bi'ibaadihe

مُنْتَدِلٌ: اُونِيْنَ هَذِهِ اُونِيْنَ مَهْرَهِ دِكِّيْ اَوْ دِكِّيْلِيْكَ الْفَكَرَ كَيْ بِرَابِرِ لَمَبَرِّا

مُنْتَدِلٌ: اُونِيْنَ سَكَنِيْنَ اَوْ سَكَنِيْنَ دِكِّيْ اَوْ دِكِّيْلِيْكَ دِكِّيْلِيْكَ (بَيْ هَيْ) اَوْ دِكِّيْلِيْكَ (تَكَ) مَيْسَيْجَارِ كِبِّيْجَارِ

مُنْتَدِلٌ: اُونِيْنَ سَكَنِيْنَ اَوْ سَكَنِيْنَ دِكِّيْ اَوْ دِكِّيْلِيْكَ دِكِّيْلِيْكَ (بَيْ هَيْ) اَوْ دِكِّيْلِيْكَ (تَكَ) مَيْسَيْجَارِ كِبِّيْجَارِ

مُنْتَدِلٌ: اُونِيْنَ الْفَكَرَ كَيْ بِرَابِرِ لَمَبَرِّا اَجَبَ بَيْ

٢٠ حَبِيرًا بَصِيرًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خُشِيَّةً إِمْلَاقٌ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطَابًا كَبِيرًا وَلَا تَقْرُبُوا الرِّزْنِي إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ زِيَادًا innahoo kaana faahishatanwa wa saaaa'a sabeelaa (32) Wa laa taqtulun nafsala

الَّتِي حَرَمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلَيْهِ سُلْطَنًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا latee harramal laahu illaa bilhaqq; wa man qutila mazlooman faqad ja'alnaa liwaliyyihhee sultaanan falaa yusrif fil qatli innahoo kaana mansooraa (33)

وَلَا تَقْرُبُوا مَالَ الْيَتَيْمِ إِلَّا بِالْتِقْرَبِ هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشْدَدَهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُلًا وَأَوْفُوا Wa laa taqraboo maalal yateemi illaa billatee hiya ahsanu hattaa yabluga ashuddah; wa awfoo bil'ahd, innal 'ahda kaana mas'oolaa (34) Wa awful

الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقُسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ حَيْرَ kaila izaa kiltum wa zinoo bilqistaasil mustaqeem; zaalika khairunwa wa ahsanu ta'weelaa (35) Wa laa taqfu maa laisa laka bihee 'ilm; innas sam'a walbasara walfu'aada kullu ulaa'i'ka kaana 'anhu mas'oolaa (36) Wa laa tamshi fil ardi marahan innaka lan takhriqal arda wa lan tablughal jibaala

طُولًا كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئَةً عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا ذَلِكَ مِمَّا toola (37) Kullu zaalika kaana sayyi'u hoo inda Rabbika makroohaa (38) Zaalika mimmaaa

● نقاش: اون ھڈہ اور سکھ دیکھی ادا دلکھیں الک کے برادر لام کرنا
● منزل ۲ نقاشیم: حروف کو پیریتی آئی اور کوچار کرنا
● مکروہ: اون سکھ اور سکھیں اور سکھ مکاریں جیسے کچھ کوچھ حدا
● اخلاق: اون سکھ اور سکھیں اور سکھ مکاریں جیسے کچھ کوچھ حدا
● مُكْرُّرٌ ... تمیں الک کے برادر پائیں الک کے برادر لام کے پڑھانا اجب ہے

أُوحِيَ إِلَيْكَ رُبُّكَ مِنَ الْحُكْمَةِ وَ لَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا

awhaaa ilaika Rabbuka minal hikmah; wa laa taj' al ma'allaahi ilaahaa

٣٩ أَفَأَصْفِحُكُمْ رَبُّكُمْ أَخْرَى فَتُلْقَى فِي جَهَنَّمَ مَلُوْمًا مَدْحُوًّا

aakhara fatulqaa fee Jahannama maloomam mad hooraa (39) Afa asfaakum rabbukum

بِالْبَنِينَ وَ اتَّخَذَ مِنَ الْمُلِئَكَةِ إِنَاثًاٗ إِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلًاٗ

bilbaneena wattakhaza minal malaaa'ikati inaasaa; innakum lataqooloona qawlan

عَظِيْمًا ﴿٤﴾ وَلَقَدْ صَرَفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنَ لِيَذَّكَّرَ مَا طَّوَ وَمَا يَزِيدُهُمْ

'azeema (section 4)(40) Wa laqad sarrafnaa fee haazal Quraani liyazzakkaroо wa maa yazeeduhum

۲۶ قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ إِلَهٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذَا لَآتُتُهُمْ
إِلَّا نُفُورًا

illaa nufooraa (41) Qul law kaana ma'ahooo aalihatun kamaa yaqooloona izal labtaghaw

إِلَى ذِي الْعَزْشِ سَبِيلًا ﴿٣﴾ سُبْحَنَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا

ilaa zil 'Arshi Sabeela (42) Subhaanahoo wa Ta'aalaa 'ammaa yaqooloona 'uluwwan

٤٣ ﴿كَبِيرًا﴾ تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ

kabeeraa (43) Tusabbihu lahus samaawaatus sab'u wal ardu wa man feehinn;

وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَيِّحُ بِهِمْ دِهَرًا وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحةَ هُنْ

wa im min shai'in illaa yusabbihu bihamdihee wa laakil laa tafqahoona tasbeehahum;

إِنَّهُ كَانَ حَلِيلًا غَفُورًا ﴿٢٣﴾ وَإِذَا قَرَأْتُ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيِّنَكَ

innahoo kaana Haleeman Ghafooraa (44) Wa izaa qara' tal Quraana ja'alnaa bainaka wa

بَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا وَجَعَلْنَا

bainal lazeena laa yu'minoona bil aakhirati hijaabam mastoora (45) Wa ja'alnaa

وَأَكْتَبَ اللَّهُ وَالْمَلَائِكَةُ وَالْأَنْجَانُ وَالْمَلَائِكَةُ وَالْأَنْجَانُ وَالْمَلَائِكَةُ وَالْأَنْجَانُ

'alaa quloo bihim akinnatan any yafqahoohu wa fee aazaanihim waqraa; wa izaa

وَالْمُؤْمِنُونَ إِذَا قُرِئُوا فِي الْجَمَارَةِ لَا يَرْجِعُونَ

منزل ۲ **تقطیعیم:** حروف کو پڑھنی اور سہم کو کہا کرنا
 مخفف: اون سکن اور سہم کا جس کے بعد (ب) کی آئاؤ تقطیعیم (نک) میں پھر کر پڑھا
 مخفف: اون سکن کا کہا کر کے پڑھنا اسکی وجہ سے اون سکن کو کہا کرنا
 مخفف: اون سکن اور سہم کا جس کے بعد (ب) کی آئاؤ تقطیعیم (نک) میں پھر کر پڑھا
 مخفف: اون سکن کا کہا کر کے پڑھنا اسکی وجہ سے اون سکن کو کہا کرنا

نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَعِيْعُونَ إِذْ يَسْتَعِيْعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ

Nahnu a'lamu bimaa yastami'oona biheee iz yastami'oona ilaika wa iz hum

نَجَوَى إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا

najwaaa iz yaqooluz zaalimoona in tattabi'oona illaa rajulam mas hoora (47)

أَنْفُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ فَقُلُّوا فَلَا يَسْتَطِيْعُونَ

Unzur kaifa daraboo lakah amsala fadalloo falaa yastatee'oona

سَبِيلًا وَقَالُوا إِذَا كُنَّا عَظَامًا وَرَفَاتًا عَرَانِيْعُونَ خَلْقًا

sabeelaa (48) Wa qaaloona 'a izaa kunnaa 'izaamanw wa rufaatan 'a innaa lamab'oosoona khalqan

جَدِيدًا قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا أَوْ خَلْقًا مِمَّا يَكُبُرُ

jadeedaa (49) Qul koonoo hijaaratun aw hadeedaa (50) Aw khalqam mimmaa yakburu

فِي صُدُورِكُمْ فَسَيَقُولُونَ مَنْ يُعِيْدُنَا قُلِ الَّذِي فَطَرَ كُمْ

fee sudoorikum; fasa yaqooloona mai yu'eедunaa qulil lazee fatarakum

أَوَّلَ مَرَّةٍ فَسَيُنْخَضُونَ إِلَيْكَ رُعْوَسُهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَى هُوَ

awwala marrah; fasa yunghidoona ilaika ru'oosahum wa yaqooloona mataahoo;

قُلْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَرِيبًا يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَحْيِيْبُونَ بِحَمْدِهِ

qul 'asaaa any yakoona qareebaa (51) Yawma yad'ookum fatastajeeboona bihamdihee

وَتَظْنُونَ إِنْ لَيْشْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا وَقُلْ لِعَبَادِيْ يَقُولُوا اللَّهُ

wa tazunnoona il labistum illaa qaleela (section 5) (52) Wa qul li'ibaadee yaqoolul latee

هُنَّ أَحْسَنُ طَرَفًا الشَّيْطَنَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَنَ كَانَ

hiya ahsan; innash shaitaana yanzaghu bainahum; innash shaitaana kaana

لِلْإِنْسَانِ عَدُوًا مُبِينًا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِكُمْ إِنْ يَشَاءُ يَرَهُ حَكْمُكُمْ

lil insaani 'aduuwan mubeenaa (53) Rabbukum a'lam bikum iny yasha' yarhamukum

أَوْ إِنْ يَشَاءُ يُعَذِّبُكُمْ وَمَا أَرْسَلْنَاكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَيْلًا وَرَبُّكَ

aw iny yasha' yu'azzibkum; wa maaa arsalnaaka 'alaihim wakeelaa (54) Wa Rabbuka

مِنْزَلٌ ۲ ﴿تَقْرِيْبُهُ: حروف کو پڑیں ایک آڑا تو ایک الف کے برابر لہما کرنا۔﴾

مِنْزَلٌ ۲ ﴿تَقْرِيْبُهُ: حروف کو پڑیں ایک آڑا تو ایک الف کے برابر لہما کرنا۔﴾

مِنْزَلٌ ۲ ﴿تَقْرِيْبُهُ: حروف کو پڑیں ایک آڑا تو ایک الف کے برابر لہما کرنا۔﴾

مِنْزَلٌ ۲ ﴿تَقْرِيْبُهُ: حروف کو پڑیں ایک آڑا تو ایک الف کے برابر لہما کرنا۔﴾

أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ وَلَقَدْ فَصَلَنَا بَعْضَ النَّبِيِّنَ

a'lamu biman fis samaawaati wal ard; wa laqad faddalnaa ba'dan Nabiyeeena

عَلَىٰ بَعْضٍ ۖ أَتَيْنَا دَاءَدَ زَبُورًا ۝ قُلْ أَدْعُوا الَّذِينَ رَعَيْتُمْ

'ala ba'dinw wa aatainaaa Daawooda Zabooraa (55) Qulid 'ul lazeena za'amatum

مِنْ دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الصُّرُّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا ۝

min doonihee falaa yamlikoona kashfad durri'anukum wa laa tahweelaa (56)

أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ

Ulaaa'ikal lazeena yad'oona yabtaghoona ilaa Rabbihimul waseelata ayyuhum aqrabu

وَ يَرْجُونَ رَحْمَةً وَ يَخَافُونَ عَذَابَ رَبِّكَ ۗ كَانَ عَذَابَ رَبِّكَ ۗ كَانَ

wa yarjoona rahmataahoo wa yakhaafoona 'azaabah; inna 'azaaba rabbika kaana

مَحْذُوذًا ۝ وَإِنْ مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَمَةِ

mahzooraa (57) Wa in min qaryatin illaa Nahnu muhlikoooha qabla Yawmil Qiyaamatii

أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا ۖ كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا ۝

aw mu'az ziboothaa 'azaaban shadeedaa; kaana zaalika fil Kitaabi mastoora (58)

وَمَا مَنَعَنَا أَنْ نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَنْ كَذَّبَ بِهَا الْأَوْلَوْنَ ۝

Wa maa mana'anaaa an narsila bil aayaati illaaa an kazzaba bihal awwaloon;

وَأَتَيْنَا شِمْوَدَ النَّاقَةَ مُبَصِّرَةً فَظَلَمُوا بِهَا ۖ وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ

wa aatainaaa Samoodan naaqataa mubsiratan fazalamoo bihaa; wa maa narsilu bil aayaati

إِلَّا تَخْوِيفًا ۝ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ ۖ وَمَا جَعَلْنَا

illaa takhweefaa (59) Wa iz qulnaa laka inna rabbaka ahaata binnaas; wa maa ja'alna

الرُّعْيَا الَّتِي أَرَيْنَكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةُ الْمَلْعُونَةُ فِي

ru'yal lateeqe arainaaka illaa fitnata linnaasi washshajarat al mal'oonata fil

الْقُرْآنِ وَنُخَوِّفُهُمْ لِفَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانُ أَكْبَرِهَا ۝ وَإِذْ قُلْنَا

quraan; wa nukhaw wifuhum famaa yazeeduhum illa tughyaanee kabeera (section 6) (60) Wa iz qulnaa

لِلْيَمِيلِكَةِ اسْجُدُوا لِاَدَمَ فَسَجَدُوا اِلَّا اِبْلِيسَ ﴿٦﴾

lilma laaa ikatis judoo li Aadama fasajadooo illaaa Ibbleesa qaala 'a-asjudu liman

خَلَقْتَ طِينًا ۖ قَالَ ارْعَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَمْتَ عَلَىَّ دَلِيلًا ﴿٦١﴾

khalaqta teena (61) Qaala ara'ytaka haazal lazee karramta 'alaiya la'in

اَخْرَجْتَنِي إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ لَا حَتَّنِكَنْ ذُرِّيَّتَهَ اِلَّا قَلِيلًا ﴿٦٢﴾

akhartani ilaa Yawmil Qiyaamati la ahtanikanna surriyyatahooo illaa qaleelaa (62) Qaalaz

اَذْهَبْ فِيهِ تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاؤُكُمْ جَزَاءً مَوْفُورًا ﴿٦٣﴾

hab faman tabi'aka minhum fa inna Jahannama jazaa'ukum jazaa'am mawfooraa (63)

وَ اسْتَفِرْنِي مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَ اَجْلِبْ عَلَيْهِمْ

Wastafziz manis tata'ta minhum bisawtika wa ajlib 'alaihim

بِخَيْلِكَ وَ رَجْلِكَ وَ شَارِكُهُمْ فِي الْاَمْوَالِ وَ الْاُولَادِ وَ عَدْهُمْ

bikhailika wa rajilika wa shaarik hum fil amwaali wal awlaadi wa 'idhum;

وَ مَا يَعْدُهُمُ الشَّيْطَنُ اِلَّا غُرُورًا ۖ اَنَّ عِبَادِي لَيَسَ لَكَ عَلَيْهِمْ ﴿٦٤﴾

wa maa ya'iduhumush Shaitaanu illaa ghurooraa (64) Inna 'ibaadee laisa laka 'alaihim

سُلْطَنٌ طَوْكَفِي بِرَبِّكَ وَ كَيْلًا ۖ رَبُّكُمُ الَّذِي يُزْجِي لَكُمُ الْفُلْكَ ﴿٦٥﴾

sultaan; wa kafaa bi Rabbika Wakeelaa (65) Rabbukumul lazee yuzjee lakumul fulka

فِي الْبَحْرِ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ طَرَاهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۖ وَ اذَا ﴿٦٦﴾

fil bahri litabtaghoo min fadlih; innahoo kaana bikum Raheemaa (66) Wa izaa

مَسَكُمُ الضُّرَّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ اِلَّا إِيَاهُ ۖ فَلَمَّا نَجَّكُمْ

massakumuddurru fil bahri dalla man tad'oonaa illaaa iyyaahu falammaa najjaakum

إِلَى الْبَرِّ اَعْرَضْتُمْ وَ كَانَ الْإِنْسَانُ كَفُورًا ۖ اَفَآمِنْتُمْ اَنْ يَخْسِفَ ﴿٦٧﴾

ilal barri a'raddum; wa kaanal insaanu kafooraa (67) Afa amintum any yakhsifa

بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ اَوْ يُرِسِّلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبَاتُهُ لَا تَجِدُوا لَكُمْ

bikum jaanibal barri aw yursila 'alaikum haasiban summa laa tajidoo lakum

﴿٦٧﴾ مَنْكَهُ: اُونو هڈو، دارِ سِمْ مَهْدَهْ دَكِي، اَوْ اَذْوَابِكَ الْفَكَرَ کے بِرَأِيْمَا کرنا

﴿٦٨﴾ مَنْكَهُ: اُونو سَكَنْ اَوْ سَمْ حَيْزَنْ اَوْ سَمْ سَكَنْ مَسَكَنْ کے بَعْدِ (بَعْدِ) کی آئُونا خَيْرَ مَشَقَّ (تَكَ) میں جھاگ پڑ جانا

﴿٦٩﴾ مَنْكَهُ: اُونو سَكَنْ اَوْ سَمْ حَيْزَنْ اَوْ سَمْ سَكَنْ کے بَعْدِ (بَعْدِ) کی آئُونا خَيْرَ مَشَقَّ (تَكَ) میں جھاگ پڑ جانا

﴿٧٠﴾ مَنْكَهُ: اُونو الْفَكَرَ کے بَرَأِيْمَا کر کے پَرَهَنْجاں اَجَبَ بَعْدِ

وَكَيْنَلَا ﴿٦٨﴾ أَمْ أَمْتَعْتُمْ أَنْ يُعِيدَكُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَى فَيُرْسِلَ

wakeelaa (68) Am amintum any yu'eedakum feehi taaratan ukhraa fa yursila

عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِنَ الرِّيحِ فَيُغْرِقُكُمْ بِسَاكِنَتِهِمْ ثُمَّ لَا تَجِدُوا

'alaikum qaasifam minar reehi fa yugh riqakum bimaa kafartum summa laa tajidoo

لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ تَبِيعًا ﴿٦٩﴾ وَلَقَدْ كَرِمَ رَبُّكُمْ مَنْ نَبَتْ أَدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ

lakum 'alaina bihee tabee'aa (69) Wa laqad karramnaa Baneee adama wa hamalnaahum fil barri

وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَصَلَنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِنْ

walbahri wa razaqnaahum minat taiyibaati wa faddalnaahum 'alaa kaseerim mimman

خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴿٧٠﴾ يَوْمَ نَدْعُوكُمْ أُنَاسٌ بِإِمَامِهِمْ فَمَنْ

khalaqnaa tafdeelaa (section 7) (70) Yawma nad'oo kulla unaasim bi imamihim faman

أُوْتَىٰ كِتَبَهُ بِيَمِينِهِ فَأُولَئِكَ يَقْرَءُونَ كِتَبَهُمْ وَلَا يُظْلَمُونَ

ootiya kitaabahoo bi yameenihii fa ulaaa'ika yaqra'aona kitaabahum wa laa yuzlamoona

فَتَيْنَلَا ﴿٧١﴾ وَمَنْ كَانَ فِي هُذِهِ آغْمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ

fateelaa (71) Wa man kaana fee haaziheeha a'maa fahuwa fil aakhirati a'maa

وَأَضَلُّ سَبِيلًا ﴿٧٢﴾ وَإِنْ كَادُوا لِيَفْتَنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا

wa adallu sabeelaa (72) Wa in kaadoo la yaftinoonaka 'anil lazee awhainaaa

إِلَيْكَ لِتَفْتَرِي عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذَا لَآتَتْهُوكَ خَلِيلًا ﴿٧٣﴾ وَلَوْلَا

ilaika litaftariya 'alainaaga ghairahoo wa izallat takhazooka khaleela (73) Wa law laaa

أَنْ شَبَّثْنَكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكُنَ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا ﴿٧٤﴾ إِذَا لَآذَقْنَكَ

an sabbatnaaka laqad kitta tarkanu ilaihim shai'an qaleela (74) Izal la azaqnaaka

ضَعْفَ الْحَيَاةِ وَضَعْفَ الْبَيَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا ﴿٧٥﴾

di'fal hayaati wa di'fal mamaati summa laa tajidu laka 'alaina naseeraa (75)

وَإِنْ كَادُوا لَيَسْتَفِنُونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرَاجُوكَ مِنْهَا وَإِذَا

Wa in kaadoo la yastafizzoonaaka minal ardi liyukhri jooka minhaa wa izal

● نقاش: اون ہڈی دا اور سکھ دیکی اے ادا لوکیں الٰہ کے برپا ہما کرنا

● اونکا: اون سکن ادا کو جو ہیں اور سکھ میں کے جو ہے (ب) ہیکی آؤ کو جو ہیں (ت) ہیکی پچھے جو ہے

● منزل: ۲ نقاش: حروف کو پڑھنی آئی اور کو جو رکھتا

● مکون: الٰہ کی ادا کو جو ہیں اور سکھ میں کے جو ہے (ب) ہیکی آؤ کو جو ہیں (ت) ہیکی پچھے جو ہے

● بیٹھیں: اس سب سے آئیکیں الٰہ کے برپا ہما کر کے پڑھانا جب ہے

لَا يَلْتَهُونَ خِلْفَكَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿٢٦﴾

Ilaa yalbasoona khilaafaka illaa qaleelaa (76) Sunnata man qad arsalnaa qablaka

مِنْ رُسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسْنَتِنَا تَحْوِيلًا ﴿٧٦﴾ أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ

mir Rusulinaa wa laa tajidu lisunnatinaa tahweelaa (77) Aqimis Salaata liduloo kish

الشَّمْسِ إِلَى غَسْقِ الْيَوْلِ وَ قُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ

shamsi ilaa ghasaqil laili wa quraanal Fajri inna quraa nal Fajri kaana

مَشْهُودًا ٨١ وَمِنَ الَّيْلِ فَتَوَهَّجَ بِهِ نَافِلَةُ لَكَ عَسَى أَنْ يَعْشَكَ

mashhoodaa (78) Wa minal laili fatahajjad bihee naafilatal laka 'asaaa any yab'asaka

رَبِّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقَةٍ^{٢٩}

Rabbuka Maqaamam Mahmoodaa (79) Wa qur Rabbi adkhilnee mudkhala sidqinw wa

أَخْرِجْنِي مُحْرَاجٌ صَدْقٌ وَّ أَجْعَلْنِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا

akhrijnee mukhraja sidqinw wa'jal lee milladunka sultaanan naseeraa (80)

وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَرَاهِقُ الْبَاطِلِنَ إِنَّ الْبَاطِلَنَ كَانَ زَهُوقًا

Wa qul jaaa'al haqqu wa zahaqal baatil; innal baatila kaana zahooqaa (81)

وَنَزَّلَ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شَفَاعٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ۖ وَلَا يَزِيدُ

Wa nunazzilu minal quraani maa huwa shifaaa'unw wa rahmatullil mu'mineena wa laa yazeedu

الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا ﴿٨٢﴾ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَ

zaalimeena illaa khasaaraa (82) Wa izaaa an'amnaa 'alal insaani a'rada wa

نَّا بِجَانِيهِ وَإِذَا مَسَهُ الشَّمْ كَانَ يَئُوسًا ۖ

na-aa bijaani bihee wa izaa massahush sharru kaana ya'oosaa (83) Qul kullun y'a'malu 'ala

شَامِلَتْهُ فَرَبْكُمْ أَعْلَمُ بَيْنُ هُوَ أَهْدَى سَبِّيلًا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ

itihee fa rabbukum a'lamu biman huwa ahdaa sabeeala (section 9) (84) Wa yas'aloonaka 'anir

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

میرزا (میرزا) میرزا: میرزا کوئی اور میرزا کوئی نہیں۔ میرزا کوئی آزاد رہا۔ میرزا کی آزادی کوئی آزاد رہا۔

حُجَّةُ الْأَنْوَارِ سَمِعَتْ أَنَّ رَسُولَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَعْلَمُ أَنَّهُ مُحَمَّدًا

قَلِيلًا ۚ وَلَيْسَ شِئْنَا نَذَرْهَبَنَ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ

qaleelaa (85) Wa la'in shi'na lanaz habanna billazee ahwainaa ilaika summa laa tajidu

لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكَيْلًا ۚ إِلَّا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ طَإِنَ فَضْلَةً كَانَ

laka bihee 'alainaa wakeelaa (86) Illaa rahmatam mir Rabbik; inna fadlahoo kaana

عَلَيْكَ كَيْمِيرًا ۚ قُلْ لَيْسَ اجْتَمَعَتِ الْأُنْسُ وَالْجُنُّ عَلَىٰ آنِ يَأْتُوا

'alaika kabeeraa (87) Quil la'inj tama'atil insu waljinnu 'ala'aa any ya'too

بِشْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِشِلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِيَعْضُ

bimisli haazal quraani laa ya'toona bimisihi wa law kaana ba'duhum liba 'din

ظَاهِيرًا ۚ وَلَقَدْ صَرَفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ

zaheeraa (88) Wa laqad sarrafnaa linnaasi fee haazal quraani min kulli masalin

فَآبَىٰ أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ۚ وَقَاتُلُوا لَنَّ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ تَفْجُرَ

fa abaaa aksarun naasi illaa kufoora (89) Wa qaalo lan nu'mina laka hattaa tafjura

لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوْعًا ۚ أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِنْ نَّخْيَلٍ وَّ

lanaa minal ardi yamboo'aa (90) Aw takoona laka jannatum min nakheelinwa

عِنْبٌ فَتُفْجِرُ الْأَنْهَرُ خَلَلَهَا تَفْجِيرًا ۚ أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا

زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسْفًا أَوْ تَاقِيَّاً لِلَّهِ وَالْمُلِّكَةِ قَبِيلًا ۚ أَوْ يَكُونَ

za'amta 'alainaa kisfan aw ta'iqi billaahi wal malaaa'ikati qabeelaa (92) Aw yakoona

لَكَ بَيْثُ ۚ مِنْ زُخْرُفٍ أَوْ تَرْقِيَّ فِي السَّمَاءِ ۚ وَلَنْ نُؤْمِنَ لِرُقْيَيْكَ

laka baitum min zukhrufin aw tarqaa fis samaaa'i wa lan nu'mina liruqiyyka

حَتَّىٰ تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتْبًا نَقْرَءُهُ ۚ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّيْ ۖ هَلْ كُنْتُ إِلَّا

hatta tunazzila 'alainaa kitaaban naqra'uh; qu Subhaana Rabbee hal kuntu illaa

بَشَّارَ رَسُولًا ۚ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءُهُمُ الْهُدَىٰ

bashar Rasoolaa (section 10) (93) Wa ma manaa'n naasa any yu'minoo iz jaa'a humul huda'aa

إِلَّا أَنْ قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا ﴿٩٤﴾ قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ

illaaa an qaaloob aba'asal laahu bashar Rasoolaa (94) Qul law kaana fil ardi

مَلِكَةٌ يَسْتَشْوِنَ مُطَبَّنِينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ مَلَكًا

malaaa 'ikatun yamshoona mutma'in neena lanazzalnaa 'alaihim minas samaa'i malakar

رَسُولًا ﴿٩٥﴾ قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ

Rasoolaa (95) Qul kafaa billaahi shaheedam bainee wa bainakum; innahoo kaana bi'ibaadihee

خَبِيرًا بَصِيرًا ﴿٩٦﴾ وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَدَنَ

Khabeeram Baseeraa (96) Wa mai yahdil laahu fahuwal muhtad; wa mai yudlil falan

تَجِدَ لَهُمْ أُولَيَاءَ مِنْ دُونِهِ وَ نَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَمةِ عَلَىٰ

tajida lahum awliyaaa'a min doonih; wa nahshuruhum Yawmal Qiyaamatii 'alaa

وُجُوهُهُمْ عَنِيَا وَبُكْمَا وَصَبَا مَا وَهُمْ جَاهَنَّمَ طَلَّبَتْ زِدْنَهُمْ

wujoohihim umyanw wa bukmanw wa summaa; ma'waahum Jahannamu kullamaa khabat zidnaahum

سَعِيرًا ﴿٩٧﴾ ذُلِكَ جَزَاؤُهُمْ بِمَا تَرَكُوكُمْ وَإِنَّا يَتَنَاهُ قَالُوا عَرِادًا كُنَّا

sa'eeraa (97) Zaalika jazaa'uhum bi annahum kafaroo bi aayaatinaa wa qaaloob 'a izaa kunnaa

عِظَامًا وَرُفَاتًا إِنَّا لَنَبْعُثُونَ حَلْقًا جَدِيدًا ﴿٩٨﴾ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ

'izaamanu wa rufaatan 'a innaa la mab'oosoona khalqan jadeedaa (98) Awalam yaraw annal

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ

laahal lazee khalaqas samaawaati wal arda qaadirun 'alaaa any yakhluqa mislahum

وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَا رَبِّ فِيهِ ﴿٩٩﴾ فَآبَى الظَّلِمُونَ إِلَّا كُفُورًا قُلْ

wa ja'alahum ajalal laa raib fee; fa abazi zaalimoona illaa kufooraa (99) Qul

لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَانَاتِ رَحْمَةِ رَبِّي إِذَا لَمْ سَكُتُمْ حَشْيَةً

law antum tamlikoona khazaaa'ina rahmati Rabbeeyi izal la amsaktum khash yatal

الْإِنْفَاقِ ﴿١٠٠﴾ وَكَانَ الْإِنْسَانُ قَتُورًا وَلَقَدْ أَتَيْنَا مُوسَى تِسْعَ آيَاتٍ

faaq; wa kaanal insaanu qatooraa (section II) (100) Wa laqad aataaina Moosaa tis'a Aayaati

مِنْزَلٌ ۲ ﴿٩٩﴾ قَلْقِيلٌ: حروف کو پہلی آدا کو جاری رکھنا۔ قَلْقِيلٌ: حروف کو پہلی آدا کو جاری رکھنا۔ مَنْزَلٌ: خانہ، خان، ساری امور کو جاری رکھنے کے بعد (ب) ہوئی آدا کو جاری رکھنا۔ (ت) میں بھی کچھ حدا

بُخْلٌ: اس سب سے پرانی آدا کو جاری رکھنے کے بعد (ب) ہوئی آدا جب ہے۔

بَيْتُنَتْ فَسْأَلَ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ

baiyinaatin fas'al Baneee Israaa'eela iz jaaa'ahum faqaala laooo Fir'awnu

إِنِّي لَأَظْنُكَ يَوْمًا مَسْحُورًا ۖ قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنْزَلَ هَؤُلَاءِ

inee la azumuka yaa Moosaa mas hooraa (101) Qaala laqad 'alimta maaa anzala haaa'ulaalaa'i

إِلَّا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بَصَارِرَةٍ وَإِنِّي لَأَظْنُكَ يَفْرَغُ عَوْنَانِ

illaa Rabbus samaawaati wal ardi basaaa'ira wa innee la azun nuka yaa Fir'awnu

مَشْبُورًا ۖ فَأَرَادَ أَنْ يَسْتَفِنَهُمْ مِنَ الْأَرْضِ فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَنْ

masbooraa (102) Fa araada any yastafizzahum minal ardi fa aghraqnaahu wa mam

مَعَهُ جَيِّعاً ۖ وَقُلْنَا مِنْ بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا

ma'ahoo jamee'a (103) Wa qulnaa min ba'dihii li Baneee Israaa'eelas kunul

الْأَرْضَ فَإِذَا جَاءَهُ وَعْدُ الْآخِرَةِ ۖ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا ۖ وَبِالْحَقِّ

arda fa izaa jaaa'a wa'dul aakhirati ji'naa bikum lafeefaa (104) Wa bilhaqqi

أَنْزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلٌ ۖ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ۖ

anzalnaahu wa bilhaqqi nazal; wa maaa arsalnaaka illaa mubash shiranw wa nazeeraa (105)

وَقَنْ أَنَا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَلْنَاهُ تَنْزِيلًا ۖ

Wa quraanan faraqnaahu litaqra ahoo 'alan naasi 'alaa muksinwa naazalnaahu tanzeelaa (106)

قُلْ أَمِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا ۖ إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا

Qul aaminoo biheee aw laa tu'mino; innal lazeena ootul 'ilma min qablihee izaa

يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخْرُونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا ۖ وَيَقُولُونَ سُبْحَنَ رَبِّنَا

yutlaa 'alaihim yakhirroona lil azqaani sujjadaa (107) Wa yaqooloona Subhaana Rabbinaaa

إِنَّ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمْفُعُولًا ۖ وَيَخْرُونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَ

in kaana wa'du Rabbinaa lamaf'oolaa (108) Wa yakhirroona lil azqaani yabkoona wa

يَزِيدُهُمْ خُشُوعًا ۖ قُلْ اذْعُوا اللَّهَ أَوِ اذْعُوا الرَّحْمَنَ ۖ أَيَّا مَا

yazeeduhum khushoo'aa (make sajda) (109) Qulid'ul laaha awid'ur Rahmaana ayyam maa

الْمُنْزَلِ

٢

الْمُنْزَلِ

الْمُنْزَلِ

مُنْزَلٌ ۲ ﴿تَقْرِيمٌ: حروف کو پڑیں ہیں اور کوچھ رکھنا۔ قفلیم: سماں حرف کو کارہ کرنا۔ مکمل: مکمل ہے اور سہم مکمل ہے کیا آؤ ایک الٰہ کے بر ایمان کرنا۔ مکمل: مکمل ہے اور سہم ساں ہیں کے بر ایمان (ب) ہیں آؤ ایک عدویم (ت) ہیں جیسا کچھ حدا۔ مکمل: مکمل ہے اس سے ایک الٰہ کے بر ایمان کر کے پڑھنا اجب ہے۔ مکمل: .. تمیں الٰہ کے بر ایمان پانچ الٰہ کے بر ایمان کر کے پڑھنا اجب ہے۔

تَدْعُوا فِلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ وَ لَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَ لَا

tad'oo falahul asmaaa'ul Husnaa; wa laa tajhar bi Salaatika wa laa

**١١٠ وَقُلْ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي
تُخَافِثُ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا**

tukhaafit bihaa wabtaghi baina zaalika sabeela (110) Wa qulil hamdu lillaahil lazee

لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَ لَمْ يَكُنْ

lam yattakhiz waladanw wa lam yakul lahoo shareekun fil mulki wa lam yakul

لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الْذُلُّ وَكَبِيرٌ تَكْبِيرًا

lahoo waliyyum minaz zulli wa kabbirhu takbeeraa (*section 12*) (111)



Bismillaahir Rahmaanir Raheem

الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلٰى عَبْدِهِ الْكِتٰبَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ

Alhamdu lillaahil lazeeee anzala 'alaa 'abdihil kitaaba wa lam yaj'al laahoo

عِوْجَاجٌ قَيْمَلَى لِيَنْدِرْ بَا سَادِيدَا مِنْ لَدُنْهُ وَ يُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ طَسْكَة

اَنْذِنْ بِمَا كُشِّبَ فَنَهَى مَا كَشِّبَ حَسَنًا لَهُمْ اَخْدَمٌ الْصَّلَحْتُ اَنَّهُ يَعْلَمُ بِمَا يَعْلَمُ

Jazeena va'maloonaas saalihacti anna Jabum airan basanaa (2) Maakisaana faabi

أَبْدَأُوا لَهُمْ وَيُمْذِرُ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ

abadaa (3) Wa yunziraj lazeena qaalut takhazaj laahu waladaa (4) Maa labum bihee min

عِلْمٌ وَ لَا لِأَبَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةٌ تَخْرُجُ مِنْ أَفواهِهِمْ إِنْ

'ilminw wa laa li aabaaa'ihim; kaburat kalimatan takhruju min afwaahihim; iny

يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا ﴿٤﴾ فَلَعْلَكَ بَاخِعٌ نُفْسَكَ عَلَى أَثَارِهِمْ إِنْ لَمْ

yaqooloona illaa kazibaa (5) Fala'allaka baakhi'un nafsaka 'alaaa aasaarihim illam

يُؤْمِنُوا بِهٰذَا الْحَدِيثِ أَسْفًا ﴿٦﴾ إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً

yū'minoo bihaazal hadeesi asafaa (6) Innaa ja'alnaa ma 'alal ardi zeenatal

لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيْمُهُمْ أَحْسَنُ عَمَّا لَجَعْلُونَ مَا عَلَيْهَا

laahaa linablu wahum ayyuhum ahsanu 'amalaa (7) Wa inna la jaa'iloona maa 'ala'ihaa

صَعِيدَا جُرْزاً أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَ الرَّقِيمِ

sa'eedan juruzaa (8) Am hasibta anna Ashaabul Kahfi war Raqqameem

كَانُوا مِنْ أَيْتَنَا عَجَبًا إِذَا دَعَوْتَ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا

kaanoo min Aayaatinaa 'ajabaa (9) Iz awal fitiyatu ilal Kahfi faqaaloo Rabbanaaa

إِنَّا مِنْ لُدُنْكَ رَحْمَةً وَ هَيْئَ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشْدًا فَضَّرَبَنَا عَلَى

aatinaa mil ladunka rahmatan wa haiyi' lanaa min amrinnaa rashadaa (10) Fadarabnaa 'alaia

أَذْانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَادًا ثُمَّ بَعْثَنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيْ

aazaanihim fil Kahfi seneena 'adadaa (11) Summa ba'asnahuum lina'lama ayyul

الْحَزَبَيْنِ أَحْضَى لَهَا لَبِسْوَا أَمَدًا تَحْنُ نَقْصُ عَلَيْكَ نَبَاهُمْ

hizbaini ahsaa limaa labisoo amadaa (section 1) (12) Nahnu naqussu 'alaika naba ahum

بِالْحَقِّ إِنَّهُمْ فَتَيَّةٌ أَمْنَوْا بِرَبِّهِمْ وَ زَدْنَهُمْ هُدًى وَ رَبَطْنَا

bilhaqq; innahum fitiyatun aamanoo bi Rabbihim wa zidnaahum hudaai (13) Wa rabatnaa

عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ

'ala quloo bihim iz qaamoo faqaaloo Rabbunaa Rabbus samaawaati wal ardi

لَنْ نَدْعُو مِنْ دُونِهِ إِلَهًا لَقَدْ قُلْنَا إِذَا شَطَطاً هُوَ لَا يَعْلَمُ قَوْمَنَا

lan nad'uwa min doonihee ilaahal laqad qulnaaa izan shataataa (14) Haaa'ulaaa'i qawmataa

اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَلْهَةً لَوْلَا يَأْتُونَ عَلَيْهِمْ بِسُلْطَنٍ بَيْنِ

takhzoo min doonihee aaliatal law laa yaatoona 'alaikhim bisultaanm baiyin;

فَمِنْ أَظْلَمُ مِنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَإِذْ اعْتَزَلَتُمُوهُمْ

faman azlamu mimmaniftaraa 'alal laahi kaziba (15) Wa izi'tazal tumoohum

وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا إِلَهٌ فَأَوْلَى إِلَى الْكَهْفِ يَتَسْهِلُكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ

wa maa ya'budoona illal laaha faawooo ilal Kahfi yanshur lakum Rabbukum mir

منزل ۲ ﴿تَقْرِيبُهُ: حروف کو پڑھنی آئیں اور کوہ رکنا۔ قافلہ گھر، سارے حروف کو پڑھنے کا کرنہ۔﴾

• بالغات: دون ساری حروف کو پڑھنے کے بعد (ب) ہوئی آئیں اور کوہ رکنا۔ (ک) میں بھی کچھ حدا

• بیٹھنے: اس سے پہلے کوہ رکنا کے پڑھنا اپنے بیٹھنے کے پڑھنا اپنے بیٹھنے کے

• مغلیٰ: تمنیں کوہ رکنا کے پڑھنا اپنے بیٹھنے کے پڑھنا اپنے بیٹھنے کے

رَحْمَتِهِ وَيَعْلَمُ لَكُم مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقاً ۖ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا

rahmatihee wa yuhaiyi' lakum min amrikum mirfaqa (16) Wa tarash shamsa izaa

طَلَعَتْ تَزَوَّدُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْبَيْنِينَ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ

tala'at tazaawaru 'an kahfihim zaatal yameeni wa izaa gharabat taqriduhum

ذَاتَ الشِّمَاءِلِ وَهُمْ فِي فَجُوَّةٍ مِنْهُ ۖ ذَلِكَ مِنْ آيَتِ اللَّهِ مَنْ

zaatash shimaali wa hum fee fajwati minh; zaalika min Aayaatillaah; mai

يَعْلَمُ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهَتَّدُ ۚ وَمَنْ يُضْلِلُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا

yahdil laahu fahuwal muhtad, wa mai yudhil falan tajida lahoo waliiyam

مَرْشِداً ۖ وَتَحْسِبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُعْوَدٌ ۖ وَنَقْلِبُهُمْ ذَاتَ

murshidaa (section 2) (17) Wa tahsabuhum ayqaazanw wa hum ruqood; wa nuqallibuhum zaatal

الْبَيْنِينَ وَذَاتَ الشِّمَاءِلِ ۖ وَكُلُّهُمْ بَاسِطٌ ذَرَاعِيهِ بِالْوَصِيدِ

yameeni wa zaatash shimaali wa kalbuhum baasitun ziraa'ayhi bilwaseed;

لَوِ اطَّلَعَتْ عَلَيْهِمْ لَوْلَيْتَ مِنْهُمْ فِرَاذًا وَلَمْلِئَتْ مِنْهُمْ رُعْبًا ۖ

lawit tala'at alaihim la wallaita minhum firaaranw wa lamuli'ta minhum rubaa (18)

وَكَذِلِكَ بَعْثَنْهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَابِلٌ مِنْهُمْ كَمْ

Wa kazaalika ba'asnaahum liyatasaal aloo bainahum; qaalaa qaaa'ilum minhum kam

لَيْشْتَمُ طَقَالُوا لِبِسْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ۖ قَالُوا بِرُبُّكُمْ أَعْلَمُ بِهَا

labistum qaalo labisnaa yawman aw ba'da yawm; qaalo Rabbukum a'lamu bimaa

لَيْشْتَمُ طَقَابُعْثُوا أَحَدَكُمْ بِرَوْقَكُمْ هَذِهِ إِلَى السَّدِيرِيَّةِ فَلَيَنْظُرْ

labistum fab'asooo ahadakum biwariqikum haazihee ilal madeenati falyanzur

أَيْهَا أَزْكِي طَعَامًا فَلِيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلَيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشَعِّرَ

ayyuhaaa azkaa ta'aaman falyaatikum birizqim minhu walyatalattaf wa laa yush'iranna

بِكُمْ أَحَدًا ۖ إِنَّهُمْ إِنْ يَظْهِرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ

bikum ahadaa (19) Innahum iny yazharoo 'alaikum yarjumookum aw yu'eedoookum

معنی: اون ھڈہ اور سکھ دیکی آدا زوالیک الٰف کے برابر لامہ کرنا

منزل ۲ ﴿ قَلْقِيلٌ: حروف کو پر لینی آدا زکریا رکن ﴾

کوئی رالیک اور سکھ مانگنے کے بعد (ب) ہوئی آؤ تو چھیشم (نک) میں جھپٹ کر جائے

جیسے: ان سب سماں پر لیک الٰف کے برابر لامہ کر کے پڑھا جائے

معنی: ... تمیں الٰف کے برابر پانیک الٰف کے برابر لامہ کر کے پڑھا جائے

فِي مِلَّتِهِمْ وَلَنْ تُفْلِحُوا إِذَا أَبَدَا ۚ وَ كَذِيلَكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ

fee millatihim wa lan tuflihooo izan abadaa (20) Wa kazaalika a'sarnaa 'alaihim

لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ

liya'lamooo anna wa'dal laahi haqqunw wa annas Saa'ata laa raiba feehaa iz

يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرُهُمْ فَقَالُوا أَبْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا طَرْبُّهُمْ

yatanaaza'ona bainahum amrahum faqaalub noo 'alaihim bunyaanaa; Rabbuhum

أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَىٰ أَمْرِهِمْ لَنَتَخَذُنَّ عَلَيْهِمْ

a'lamu bihim; qaalal lazeena ghalaboo 'alaam amrihim lanat takhizanna 'alaihim

مَسْجِدًا ۖ سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةَ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةَ سَادِسُهُمْ

masjidaa (21) Sa yaqooloona salaasatur raabi'uhum kalbuhum wa yaqooloona khamsatu saadisuhum

كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةَ شَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُلْ رَبِّ

kalbuhum rajmam bilghaib; wa yaqooloona sab'atunw wa saaminuhum kalbuhum; qur Rabbee

أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ ۗ فَلَا تُتَّسِّرِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً

a'lamu bi'iddatihim maa ya'lamuuhum illaa qaleel; falaa tumaari feehim illaa miraa'an

ظَاهِرًا وَلَا تُسْتَفِتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدٌ ۖ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَايِعَ إِنِّي

zaahiran wa laa tastafti feehim minhum ahadaa (section 3) (22) Wa laa taqoolanna lishai'in innee

فَأَعْلَمُ ذَلِكَ غَدَّا ۖ إِلَّا أَنْ يَشَاءُ اللَّهُ وَإِذْ كُنْتَ رَبَّكَ إِذَا نَسِيَتْ وَقُلْ

faa'ilun zaalika ghadaa (23) Illaaa any yashaa'al laah; wazkur Rabbaka izaa naseeta wa quil

عَسَىٰ أَنْ يَهْدِيَنِي رَبِّي لِأَغْرِيَ بَمِنْ هَذَا رَشَدًا ۖ وَلَيُشْوِّفَ فِي كَهْفِهِمْ

'asaaa any yahdiyani Rabbee li aqraba min haazaa rashadaa (24) Wa labisoo fee kahfihim

ثَلَثٌ مِائَةٌ سِنِينَ وَأَرْدَادُوا تِسْعًا ۖ قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَيُشْوِّفَ لَهُ

salaasa mi'atin sineena wazdaadoo tis'aa (25) Qulil laahu a'lamu bimaa labisoo laahoo

غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ مَا لَهُ مِنْ دُونِهِ

ghaibus samaawaati wal ardi absir bihee wa asmi'; maa lahum min doonihe

معنی: اون ھڈہ اور سکھنہ دیکی آڑا تو ایک الٰہ کے برادر لاما کرنا

منزل ۲ ﴿تَقْرِيمٌ﴾: حروف کو پر یعنی آڑا کو جو رکھتا ہے اور سکھنے کو جو رکھتا ہے

کوئی رالٰہ کی آڑا کو جو رکھنے کی وجہ سے اس کے کافر (بے ہوں) آڑا تو کوچھ شہم (نک) میں جھپٹ کر جائے

جیسے جس اس سب سے ایک الٰہ کے برادر لاما کے پڑھانا اجب ہے

﴿قُلْ﴾: ... تمیں الٰہ کے برادر لاما کے برادر لاما کے پڑھانا اجب ہے

مِنْ وَلِيٌّ وَ لَا يُشَرِّكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا ۝ وَ اتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ

minw waliyyinw wa laa yushriku fee hukmihee ahadaa (26) Watlu maaa oohiya ilaika min

٢٤ ﴿كِتَابَ رَبِّكَ هُلَا مُبَدِّلٌ لِّكَلِمَتِهِ وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحِدًا﴾

Itaabi Rabbika laa mubaddila li Kalimaatihee wa lan tajida min doonihee multahadaa (27)

وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدْوَةِ وَالْعَشَّى

Wasbir nafsaka ma'al lazeena yad'oona Rabbahum bilghadaati wal'ashiyyi

يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا

yureedoona Wajhahoo wa laa ta'du 'aynaaka 'anhum tureedu zeenatal hayaatid dunyaa

وَلَا تطْعُمْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَدْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَّهُ وَكَانَ أَمْرُهُ

wa laa tuti' man aghfalnaa qalbahoo 'an zikrinaa wattaba'a hawaahu wa kaana amruhoo

فُرْطًا ﴿٢٨﴾ وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فِيمَ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ

furutaa (28) Wa qulil haqqu mir Rabbikum faman shaaa'a falyu'minw wa man shaaa'a

فَلِيَكُفُرْ إِنْ أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ تَارَا احْاطَ بِهِمْ سَادَةٌ فَهَا وَإِنْ
falvakfur: innaaa a'tadnaa lizzaalimeena Naaran ahaata bihijm suraadiqhuuhaa; wa inv

يَسْتَغْيِثُوا يَعْثَاوَابِيَّا عَالِمٌ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّهَابُ

yastagheesoo yughaasoo bimaaa'in kalmuhli yashwil wujooth' bi'sash-sharaab; wa

ساعَ مَرْلِفَا ٢٩ **إِنَّ الَّذِينَ امْنَوْا وَعَمِلُوا الصَّلِحَاتِ إِنَّمَا لِأَصْيَاعِ أَجْرٍ**

سَااَتْ مُرْتَفَعَّا (29) اِنَّ لَازِئِنَّا اَذَانَوْ وَ اَمِيلُسْ سَالِهَاتِي اِنَّا لَاءَ نُودِيْعُ اَجْرَا

أَوْلَئِكَ لِهُمْ جَنَاحٌ مِّنْ حَتِّيمٍ

man ahnsa 'amala (30) Ulaaa'ika lahum Jannaatu 'Adnin tajree min tahtihimul

سہر یخلوں قیہا مِن اساوِر مِن دھب و یلبسوں بیاب

anhaaru yuhallawna feehaa min asaawira min zahabinw wa yalbasooна siyaaban

اَمِن سَمْدَس وَ اَسْسَبْرِي مُكْتَبَیْنِ بِیَهَا عَلَى اَرْدَابِلِ بِعْم

- مُفَقَّهُ: اون ھڈے دا ووسم مفتہ دیکھا ادا کو ایک الٰہ کے بر ایمان کرنا
- مُنْزَلٌ ۲: تَقْتِيْمٌ: حروف کو پڑھنی اور مہم رکھنا
- مُنْزَلٌ ۳: قَلْقِيلٌ: اون ساکن اور خوش اور مم ساکن جس کے بھر (بپ) کی آداؤ و خوش (ناب) میں پھر کر پڑھنا
- مُنْزَلٌ ۴: تَغْلِيْخٌ: حروف کو پڑھنے والے کو اون خوش اون ناب کے پڑھنا
- مُنْزَلٌ ۵: تَقْتِيْمٌ: تم الٰہ کے بر ایمان پٹھ فر ایک الٰہ کے پڑھنا جس کے بھر ایمانی جسے

الشَّوَابُ طَ وَحَسِنْتُ مُرْتَفِقًا ٢١ **وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا رَجُلَيْنِ جَعَلْنَا**

sawaab; wa hasunat murtafaqaa (section 4) (31) Wadrib lahum masalar rajulaini ja'alnaa

لَا حَدِّهَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَنَهَا بِنَخْلٍ وَجَعَلَنَا

li ahadihimaa jannataini min a'naabinw wa hafafnaahumaa binakhilinw wa ja'alnaa

بَيْنَهُمَا زَرْعًا ﴿٣﴾ كُلْتَا الْجَنْتَيْنِ أَتْأَكُلُّهَا وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا وَ

bainahumaa zar'aa (32) Kiltal jannataini aatat ukulahaan wa lam tazlim minhu shai'anw wa

فَجَرْنَا خِلْدَهُمَا نَهَرًا ﴿٣﴾ وَكَانَ لَهُ شَرٌّ فَقَالَ إِصَاحِيهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ

fajjamaa khi laalahumaa naharaa (33) Wa kaana lahoo samarun faqaala lisaahibihee wa huwa yuhaawiruhoo ana

أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعْنَفُ نَفْرًا ﴿٣﴾ وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ

aksaru minka maalanw wa a'azzu nafaraa (34) Wa dakhala jannatahoo wa huwa zaalimul linafsihee

قَالَ مَا أَظْنُ أَنْ تَبْيَدَ هَذِهِ آبَدًا وَمَا أَظْنُ السَّاعَةَ قَابِلَةً **ۚ**

qaalaa maaa azunnu an tabeeda haazihee abadaa (35) Wa maaa azunnus Saa'ata qaaa'imatan wa

وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَكْفَرَتْ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ شَمْ نَطْفَةٌ

wa huwa yubaawiruhooo billazee khalqaaka min turaabin summa min putfatin

٢٨ لَكِنَّا هُوَ اللَّهُ رَبُّنَا وَلَا أَشْرَكُ بِنَبِيٍّ أَحَدًا ۖ وَلَوْلَا

summa sawwaaka rajulaa (37) Laakincaa Huwal Jaahu Rabbec wa laa ushriku bi Rabbeeee ahadaa (38) Wa law

إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ إِنْ تَرَنَّ أَنَا

laaa iz dakhalta jannataka qulta maa shaaa'al laahu laa quwwata illaa billaah; in tarani ana

أَقْلَ مِنْكَ مَالًا وَ لَدًا ﴿٣٩﴾ فَعَسَى رَبُّكَ أَنْ يُوَزِّعَنِ حَيْرًا مِنْ جَنْتِكَ

aqalla minka maalanw wa waladaa (39) Fa'asaa Rabeee any yu'tiyani khairam min jannatik.

وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِنَ السَّمَاءِ فَتُضْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا

wa yursila 'alaihaa husbaanam minas samaaa'i fatusbiha sa'eedan zalaqaa (40) Aw

يُصِّبَحُ مَا وَهَا غَوْرًا فَلَنْ تَسْتَطِعَ لَهُ طَلَبًا ۚ وَأَحِيلُّهُ بِشَرَهٍ فَأَصْبَحَ

yusbiha maaa'uhaaa għawran falan tastatee'a laħoo talabba (41) Wa uheeta bisamarihee faasbha

يُقْلِدُ كَفَيْهِ عَلَىٰ مَا آتَفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَّةٌ عَلَىٰ عَرْوَشَهَا وَيَقُولُ

yuqallibu kaffaihi 'alaa maaa anfaqa feehaa wa hiya khaawiyatun 'alaa 'urooshihaa wa yaqoolu

يُلَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا ۚ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِتَّةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ

yaalaitanee lam ushrīk bi Rabbeee ahadaa (42) Wa lam takul laħoo fi'atun yansuroonahoo min

دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا ۖ هُنَالِكَ الْوَلَايَةُ لِلَّهِ الْحَقُّ هُوَ خَيْرٌ

doonil laahi wa maa kaana muntasiraa (43) Hunaalikal walaayatun lillaahil haqq; huwa khairun

ثَوَابًا وَ خَيْرٌ عَقْبًا ۖ وَ أَضِرَّ لَهُمْ مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَا إِعَادُوا

sawaabanw wa khairun 'uqbaa (section 5) (44) Wadrīb laħum masalal hayaatid dunyaa kamaa'in

أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيشًا

anzalnaahu minas samaaa'i fakhtalata bihee nabaatul ardi fa asbha hasheem

تَذَرُّوْهُ الرِّيحُ وَ كَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِرًا ۖ الْمَالُ وَالْبَنُونُ

tazroo hur riyah; wa kaanal laħu 'alaa kulli shai'im muqtadira (45) Almaalu walbanoona

زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَ الْبَقِيَّةُ الصِّلْحُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا

zeenatul hayaatid dunya wal baaqiyatus saalihatu khairun 'inda Rabbika sawaabaw

وَ خَيْرٌ أَمَلًا ۖ وَ يَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَ تَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً ۖ وَ

wa khairun amala (46) Wa yawma nusaiyirul jibaala wa taral arda baariza tanw wa

حَشَّنَهُمْ فَلَمْ نُغَاذِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا ۖ وَ عَرِضْنَا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفَّاً

hasharnaahum falam nugħadir minhum ahadaa (47) Wa 'uridoo 'alaa Rabbika saffaa,

لَقَدْ جَعَلْنَاكَمْ أَوَّلَ مَرَّةً بَلْ زَعَمْتُمُ اللَّهَ نَجْعَلَ

laqad ji'tumoonaa kamaa khalaqnaakum awala marrah; bal za'amtum allannajjal'a

لَكُمْ مَوْعِدًا ۖ وَ وُضَعَ الْكِتَبُ فَتَرَى الْبُجُرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا

lakum maw'idaa (48) Wa wudi'al kitaabu fataral mujrimeena mushfiqeena mimmaa

مُنْتَهٰ: اونچ ہوئے اور سکھ دیکی، ادازوں کیلئے الٰہ کے برادر لامہ کرنا

منزل ۲: تفہیم: حروف کو پڑھنی آئندگانی اور کوئی رکھنا۔ قافیت: سماں حرف کو ادا کرنا۔

کوئی رکھنے والا کسی ادا کرنے کی وجہ سے جو کوئی آئندگانی اور سکھ دیکی آئی تو اس کے بعد (ب) ہوئے آئندگانی اور سکھ دیکی آئی جو کچھ کچھ حدا

بیٹھ جائیں۔ ان سب سے پرانے کیلئے الٰہ کے برادر لامہ کے پڑھانا اچب ہے۔

مُنْتَهٰ: .. تمیں الٰہ کے برادر لامہ کے برادر لامہ کے پڑھانا اچب ہے۔

فِيهِ وَيَقُولُونَ يَوْمَ لَنَا مَا لَدُنَّا هَذَا الْكِتَبٌ لَا يُعَادُ صَغِيرًا وَ لَا

feehi wa yaqooloona yaa wailatanaa maa lihaazal kitaabi laa yughaadiru saghee ratanu wa laa

كَبِيرًا إِلَّا أَحْصَهَا وَ وَجَدُوا مَا عَيْلُوا حَاضِرًا وَ لَا يَظْلِمُ رَبُّكَ

kabeeratan illaaa ahsaahaa; wa wajadoo maa 'amiloo haadira; wa laa yazlimu Rabbuka

أَحَدًا وَإِذْ قُلْنَا لِلْكَلِيلِكَةِ اسْجَدُوا لِأَدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسُ

ahadaa (Section 6) (49) Wa iz qulnaa lilma laaa'ikatis judoo li Aadama fasajadooo illaaa Iblesa

كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفْتَتَتْ خُذُونَهُ وَ ذَرِيَّتَهُ أُولَيَاءَ

kaana minal jinni fafasaqa 'an amri Rabbih; afatattakhizoonahoo wa surriyatahoo awliyaaa'a

مِنْ دُونِنِ وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌ طَبِيعَةً لِلظَّلَمِينَ بَدَلًا مَا آشَدُتُهُمْ

min doonee wa hum lakum 'aduw; bi'sa lizzaalimeena badala (50) Maaa ash hattuhum

خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقُ أَنفُسِهِمْ وَمَا كُنْتُ مُتَخَذِّ

khalqas samaawaati wal ardi wa laa khalqa anfusihim wa maa kuntu muttakizal

الْمُضْلِلِينَ عَصْدًا وَ يَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شَرَكَاءِيَ الَّذِينَ رَعَيْتُمْ

mudilleena 'adudaa (51) Wa Yawma yaqoolu naadoo shurakaaa'i yal lazeea za'amtu

فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِبُوا لَهُمْ وَ جَعَلُنَا بَيْنَهُمْ مُؤْنِقاً وَ رَا الْمُجْرِمُونَ

fada'awhum falam yastajeeboo lahem wa ja'alnaa bainahum maw biqaa (52) Wa ra al mujrimoona

النَّارَ فَظَنَّوْا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا وَ لَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصِرًا وَ لَقَدْ

Naara fazannooo annahum muwaqqi'ooha wa lam yajidoo 'anhaa masrifaa (section 7) (53) Wa laqad

صَرَفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَ كَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ

sarrafnaa fee haazal quraani linnaasi min kulli masal; wa kaanal insaanu aksara

شَيْءٌ جَدَلًا وَ مَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى وَ يَسْتَغْفِرُوا

shai'in jadala (54) Wa maa mana'an naasa any yu'minoo iz jaaa'ahumul huda wa yastaghfirou

رَبَّهُمْ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَا تِيَّهُمُ الْعَذَابُ قُبْلًا

Rabbuhum illaaa an taatiyahum sunnatul awwaleena aw yaatiyahumul 'azaabu qubulaa (55)

وَمَا نُرِسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ

Wa maa narsilul mursaleena illaa mubashshireena wa munzireen; wa yujaadilul lazeena

كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْعُ حِضُورِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا أَيْتَقِنَ وَمَا اُنْذِرُوا

kafaroo bilbaat ili liyudhidoon bihil haqqa wattakhazoo Aayaatee wa maaa unzirroo

هُرُونٌ ۖ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِرَ بِأَيْتَ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ

huzuwa (56) Wa man azlamu mimman zukkira bi ayaati Rabbihim fa-a'rada 'anhaa wa nasiya

مَا قَدَّمَتْ يَدُكَ ۖ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكْنَةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي

maa qaddamat yadaah; innaa ja'alnaa 'alaa quloobihim akinnatan any yafqahoo wa feee

أَذَانِهِمْ وَقُرْبًا ۖ وَإِنْ تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَنْ يَهْتَدُوا إِذَا أَبْدَأُ

aazaanihim waqraa; wa in tad'uhum ilal huda falany yahtadooo izan abadaa (57)

وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْيَأْخِذُهُمْ بِمَا كَسَبُوا لَعَجَلَ لَهُمْ

Wa Rabbukal Ghafoorur zur rahmati law yu'aakhi zuhumm bimaa kasaboo la'ajala lahumul

الْعَذَابَ بَلْ لَهُمْ مَوْعِدٌ لَنْ يَجِدُوا مِنْ دُونِهِ مَوْبِلاً ۖ وَتِلْكَ

'azaab; bal lahum maw'idul lany yajidoo min doonihee maw'ilaa (58) Wa tikal

الْقُرْآنِيِّ أَهْلَكْنَاهُمْ لَهَا طَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا ۖ وَإِذْ قَالَ

quraa ahlek nahum lammaa zulmoo wa ja'alnaa limahlikihim maw'ida (section 8) (59) Wa iz qaala

مُوسَى لِفَتْسِهِ لَا أَبْرُرُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقْبَاً ۖ

Moosaa lifataahu laaa abrahu hattaa ablughaa majma'al bahrayni aw amdiya huquuba (60)

فَلَمَّا بَلَغَ مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَّا هُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ

Falammaa balaghaa majma'a bainihimaa nasiyyaa hootahumaa fattakhaza sabeelahoo fil bahri

سَهَّبَا ۖ فَلَمَّا جَاءَ زَاقَ لِفَتْسِهِ أَتَنَاغَدَأَعَنْ لَقْدِ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا

sarabaa (61) Falammaa jaawazzaa qaala lifataahu aatinaa ghadaaa'anaa laqad laqeenaa min safarinaa

هَذَا نَصَبَا ۖ قَالَ أَرَعِيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّحْرَةِ فَإِنِّي نَسِيْتُ الْحُوتَ

haazaa nasabaa (62) Qaala ara'ayta iz awainaaa ilas sakhrati fa innee naseetul hoota

مُتَّقَ: اون ڈھونڈوں میں مخفی دکی آؤ اڑاکیں اپنے کارے

منزل ۲: قلعہ: جروف کو پر لئی آؤ اڑاکیں

کوئی دلکشی اور سکھیں اور سکھیں جس کے بعد (ب) ہوں آؤ اڑاکیں

جسے تین اس سب سے اپنے کارے پر لئیں کرے پڑھا جائے

مُتَّقَ: تمیں اپنے کارے پر لئیں کرے پڑھا جائے

وَمَا أَنْسَنِيهُ إِلَّا الشَّيْطَنُ أَنْ أَذْكُرَهُ وَاتَّخَذَ سَبِيلَةً فِي الْبَحْرِ

wa maaa ansaaneehu illash Shaitaanu an azkurah; wattakhaza sabeelahoo fil bahri

عَجَّبًا ﴿٢٣﴾ قَالَ ذُكْرَ مَا كُنَّا نَبْغُ فَازْتَدَ أَعْلَى أَثَارِهِ أَقْصَمَا

'ajabaa (63) Qaala zaalika maa kunnaa nabghi; fartaddaa 'alaa aasaari him maa qasasaa (64)

فَوَجَدَا عَيْدًا مِنْ عِبَادَنَا أَتَيْنَاهُ حَمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا

Fa wajadaa 'abdam min 'ibaadinaaa aatainaahu Rahmatam min 'indinaa wa 'allamnaahu mil ladunnaa

عِلْمًا ﴿٢٥﴾ قَالَ لَهُ مُوسَى هَلْ أَتَبْيَعُكَ عَلَىٰ أَنْ تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ

'ilmaa (65) Qaala lahoo Moosaa hal attabi'uka 'alaaa an tu'allimani mimmaa 'ullimta

رُشْدًا ﴿٦﴾ قَالَ إِنَّكَ لَنْ تُسْتَطِعَ مَعِي صَبْرًا ﴿٧﴾ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا

rushdaa (66) Qaalaa innaka lan tastatee'a ma'iya sabra (67) Wa kaifa tasbiru 'alaa maa

لَمْ تُحْطِ بِهِ خُبْرًا ﴿٢٨﴾ قَالَ سَتَجْدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا وَلَا عَصِيًّ

lam tuhit bihee khubraa (68) Qaala satajidunee in shaa' al laahu saabiraw wa laaa a'see

laka amras (60) Qasla fo init tabaltanee felaa ta'alaanee 'an sha'lin battaa ubdiya

لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا فَاطْلُقَا حَتَّىٰ إِذَا كَانَ السَّفِينَةُ خَرَقَهَا قَالَ

Jaka minhu zikraa (*section 9(70)*) Fanta lajaa hattaa jzaa rakibaa fis safeeqati kharagahaan qaala

أَخْرَقْتَهَا لِتُغْرِي أَهْلَهَا لَكَذَّبَ حُكْمَ شَيْئًا إِمْرًا **قَالَ اللَّهُ أَكْفَلُ**

akharagtahaa litughriiga ahlaaha laqad ii'ta shai'an imraa (71) Qaala alam aqul

إِنَّكَ لَنْ تُسْتَطِعَ مَعِي صَبْرًا ﴿٤٢﴾ قَالَ لَا تُؤَاخِذْنِي بِمَا سَيِّئْتُ وَ

innaka lan tastatee'a ma'iya sabra (72) Qaala laa tu'aakhiznee bimaa naseetu wa

لَا تُرْهِقُنِي مِنْ أَمْرِي عَسْرًا ﴿٤٣﴾ فَانْطَلِقَا حَتَّى إِذَا لَقِيَا غُلَمًا فَقَتِلُهُ

laa turhiqnee min amree 'usraa (73) Fantalaqaa hattaa izaa laqiyaa ghulaaman faqatalahoo

١٢٣ ﴿٦﴾ شِيَعَانُكَمْ لَقَدْ جَعَتْ شِيَعَانُكَمْ بِغَيْرِ نَفْسٍ نَفْسًا زَكِيَّةً أَقْتَلْتُ نَفْسًا زَكِيَّةً قَالَ

qala aqatalta nafsan zakiy yatam bighairi nafs; laqad ji'ta shai'an nukraa (**End Juz 15**) (74)

متنزل ۲ تعلیمی: حروف کی تعلیم اور اذکویں اللہ کے برایہ مارکتا
خوارجی: بلوں سان اون اون تھیں اور نسک سان جس کے بھی (ب) ہو کی آئی اون تھیں (ن) اسی پر لچھا جانا
دینی: اس کی ایسا اللہ کے برایہ باقی ایسا کی دین کے پیش میں گئے

قَالَ اللَّهُمَّ أَقْلِلْ لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِعَ مَعِيَ صَبْرًا ۝ قَالَ إِنْ

Qaala alam aquil laka innaka lan tastateea ma'liya sabra (75) Qaala in

سَأْلْتُكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصْحِبِنِي ۝ قَدْ بَلَغْتَ مِنْ

sa altuka 'an shai'im ba'daha falaa tusahibnee qad balaghta mil

لَدُنْ عَذْدَارًا ۝ فَأَنْطَلَقَ حَتَّىٰ إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْنَيْةٍ اسْتَطَعَهَا

ladunnee 'uzraa (76) Fantalaqaa hattaaa izaaa atayaaa ahla qaryatinis tat'amaaa

أَهْلَهَا فَابَوُا أَنْ يُضِيقُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ دَانْ

ahlahaa fa abaw any yudaiyifoohumaa fawajadaa feehaa jidaarany yureedu any

يَنْقَضُ فَاقَامَهُ ۝ قَالَ لَوْشَتَ لَتَخَذِّلَتْ عَلَيْهِ أَجْرًا ۝ قَالَ

yanqadda fa aqaamah; qaala law shi'ta lattakhazta 'alaihi ajraa (77) Qaala

هُذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَ بَيْنِكَ ۝ سَانِيْكَ بِتَأْوِيلِ مَاءِمُ تَسْتَطِعُ

haazaah firaaq bainee wa bainik; sa unabi 'uka bitaaweeli maa lam tastati'

عَلَيْهِ صَبْرًا ۝ أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِسَكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ

'alaihi sabra (78) Ammas safeenatu fakaanat limasaakeena ya'maloona fil bahri

فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيَّبَهَا وَ كَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ

fa arattu an a'eebahaa wa kaana waraaa' ahum malikun yaakhuza kulla safeenatin

غَصِبًا ۝ وَأَمَّا الْغُلْمُ فَكَانَ أَبُوكُ مُؤْمِنِينَ فَخَشِينَا أَنْ يُرِهَقُهُمَا

ghasbaa (79) Wa aammal ghulaamu fakaana abawaahu mu'minaini fakhshheenaa any yurhiqa humaa

طُغِيَانًا وَ كُفْرًا ۝ فَأَرَدْنَا أَنْ يُبَدِّلَهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكُوتَهُ وَ

tughyaanaw wa kuffraa (80) Faradnaa any yubdila humaa Rabbuhumaa khairam minhu zakaatan wa

أَقْرَبَ رُحْمًا ۝ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَمَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ

aqrab ruhmaa (81) Wa ammal jidaaru fakaana lighulaamaini yateemaini fil madeenati

وَ كَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَ كَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا ۝ فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ

wa kaana tahtahoo kanzul lahumaa wa kaana aboohumaa saalihan fa araada Rabbuka any

مُتَّقَ: اون ھڈہ اور سکھ دیکھ کر اداً ذکریں الٰہ کے برادر لہما کرنا

مُتَّقَ: حروف کو پڑھنی آئندگی اور کوچھ رکھنا

مُتَّقَ: حروف کو پڑھنی آئندگی اور سکھ میں کے بعد (ب) ہوں آئندگی میں بھی کچھ رکھنا

مُتَّقَ: اون سکھ اور سکھ دیکھ کر اداً ذکریں

مُتَّقَ: اون سکھ اور سکھ دیکھ کر اداً ذکریں

مُتَّقَ: اون سکھ اور سکھ دیکھ کر اداً ذکریں

مُتَّقَ: اون سکھ اور سکھ دیکھ کر اداً ذکریں

يَبْلُغَا أَشْدُهُمَا وَيَسْتَخِرُجَا كَنْزَهُمَا بِرَحْمَةِ مِنْ رَبِّكُمْ وَمَا

yablughaaa ashuddahumaa wa yastakhrijaan kanzahumaa rahmatam mir Rabbik; wa maa

فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِيٍّ ذُلِكَ تَأْوِيلٌ مَا لَمْ تُسْطِعْ عَلَيْهِ صَدْرًا

fa'altuhoo 'an amree; zaalika taaweeelu maa lam tasti' 'alaihi sabra (**Section 10(82)**)

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْقُرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُوا عَلَيْكُم مِّنْهُ دُكْمًا

Wa yas'aloonaka 'an Zil Qarnaini qul sa atloo 'alaikum minhu zikraa (83)

إِنَّا مَكَّنَاهُ فِي الْأَرْضِ وَأَتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ عَسَبِبَا ﴿٨٣﴾ فَاتَّبَعَ

Innaa makkannaah laahoo fil ardi wa aatainaahu min kulli shai'in sababaa (84) Fa atba'a

سَبَبَيَا ﴿٨٨﴾ حَتَّىٰ إِذَا بَدَأَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغُرُّبُ فِي

sababaa (85) Hattaaa izaa balagha maghribash shamsi wajadahaaa taghrubu fee

عَيْنٌ حَبِّةٌ وَوَجَدَ عِمَدَهَا قَوْمًا هُنَّا يَذَا الْقَرْنَيْنِ إِمَّا

'aynin ham'i'a tinw wa wajada 'indahaa qawmaa; qulnaa yaa Zal Qarnaini immaaa

أَنْ تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَنْ تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا ﴿٨٢﴾ قَالَ أَمَّا مَنْ ظَلَمَ

an tu'az ziba wa immaaa an tattakhiza feehim husnaa (86) Qaala amaa man zalama

فَسُوفَ نُعذِّبُهُ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَيْهِ فَيُعذِّبُهُ عَذَابًا أَنْكَرَا ﴿١٨﴾

fasawfa nu'azzibuhoo summa yuraddu ilaa Rabbihee fa yu 'azzibuhoo azaaban nukraa (87) Wa ammaa

مَنْ أَمِنَ وَعَيْلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءُ الْحُسْنَىٰ وَسَنَقُولُ لَهُ

man aamana wa 'amila saalihan falahoo jazaaa'anil husnaa wa sanaqoolu lahood

min amrinnaa yusraa (88) Summa atba'a sababaa (89) Hattaaa izaa balagha matl'ash shamsi

وَجَدَهَا تَلْدُعُ عَلَى قَوْمٍ لَمْ نَجِعْنَاهُ لَهُمْ مِنْ دُونِهَا سِتُّرًا

wajdahaa tatlu'u alaa qawmil lam naj'al lahum min doonihaa sitraa (90)

كَذِلِكَ وَقَدْ أَحْطَنَا بِالْدِيْهِ حُبْرًا ۖ ثُمَّ أَتَبْعَثُ سَبَبًا ۖ حَتَّىٰ

منزل ۲ تفہیم: عرف کو پہنچانی اور دوستکاری کرنے والے افراد کا سامان میں شامل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اون میں کوئی آئندہ ایجاد کرنے والے افراد کو خوبصورتی کے ساتھ سامنے کر دیا جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے بھروسے کو پہنچانے والے افراد کو خوبصورتی کے ساتھ سامنے کر دیا جائے۔

إِذَا بَدَعَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ وَجَدَ مِنْ دُونِهِمَا قَوْمًا لَا يَكَادُونَ

izaa balagha bainas saddaini wajada min doonihimaa qawmal laa yakaa doona

يَفْقَهُونَ قَوْلًا ﴿٢﴾ قَالُوا يَذَا الْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوْجَ وَ مَاجُوْجَةَ

yafqahoona qawlaa (93) Qaaloo yaa Zal qarnaini inna Yaajooja wa Maajooja

مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَى أَنْ

mufsidoona fil ardi fahal naj'alu laka kharjan 'alaaa an

تَبَعْجَلَ بَيْنَنَا وَ بَيْنَهُمْ سَدًا ﴿٣﴾ قَالَ مَا مَكَنَّ فِيهِ رَبِّ خَيْرٍ فَآعْيَنُونَ

taj'alaa bainanaa wa bainahum saddaa (94) Qaala maa makkaneeh feehi Rabbee khairun fa-a'eenoo nee

بِقُوَّةِ أَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَهُمْ رَدَّمًا ﴿٤﴾ اتُؤْنِي زُبُرُ الْحَدِيدِ حَتَّىٰ

biquwwatin aj'al bainakum wa bainahum radmaa (95) Aatoonee zubarai hadeed, hattaa

إِذَا سَأَوْيَ بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَالَ افْخُوا حَتَّىٰ إِذَا جَعَلَهُ نَادَاهُ

izaa saawaa bainas sadafaini qaalan fukhoo hattaaa izaa ja'alahoo naaran

قَالَ اتُؤْنِي أَفْرِغُ عَلَيْهِ قَطْرًا ﴿٥﴾ فَمَا اسْطَاعُوا أَنْ يَظْهِرُوهُ وَ

qaala aatooneee ufrigh 'alaihi qitraa (96) Famas taa'ooo any yazharoo hu wa

مَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبَا ﴿٦﴾ قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِّنْ رَبِّنَا فَإِذَا جَاءَ

mastataa'oo lahoo naqbaa (97) Qaala haaza rahmatummir Rabbee fa izaa jaaa'a

وَعْدُ رَبِّيْ جَعَلَهُ دَكَاءً وَ كَانَ وَعْدُ رَبِّيْ حَقًا وَ تَرَكُنا

wa'du Rabbee ja'alahoo dakkaaa'a; wa kaana; wa du Rabbee haqqaa (98) Wa taraknaa

بَعْضُهُمْ يَوْمَئِذٍ يَرْجُوْجٌ فِي بَعْضٍ وَ نُفَخَّ فِي الصُّورِ فَجَعَنُهُمْ

ba'dahum Yawma'iziny yamooju fee ba'dinw wa nufikha fis Soori fajama'naahum

جَمِيعًا ﴿٧﴾ وَ عَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكُفَّارِينَ عَرْضًا لِلَّذِينَ

jam'a (99) Wa 'aradnaa jahannama Yawma'izil lilkaafireena 'ardaa (100) Allazeena

كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَنْ ذَكْرِي وَ كَانُوا لَا يَسْتَطِيْعُونَ

kaanat a'yunuhum fee ghitaaa'in 'an zikree wa kaanoo la yastatee'oona

● نقاش: اون ھڈہ اور سکھ دیکی ادا اڑاکیں الگ کے برابر لامہ کرنا

● نقاش: حروف کو پر لائی آدا کو جاری رکھنا ● نقاش: حروف کو پر لائی آدا کو جاری رکھنا

● نقاش: اون سکھ اور سکھ دیکی ادا کو جاری رکھنے کے بعد (ب) ہوں (ک) آؤ اونا ان فیش (د) آئی آپ

● نقاش: اس سب سے آڈاکیں الگ کے برابر لامہ کر کے پڑھنا اجب ہے

سَيْعًا ﴿١٠﴾ أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ يَتَخَذُوا عِبَادَى مِنْ

sam'aa (section 11) (101) Afahasibal lazeena kafaroo any yattakhizoo 'ibaadee min

دُونِيَّاً أَوْ لِيَاءً طِّينَةً إِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكُفَّارِ يُنْزَلُ ﴿١٠٢﴾ قُلْ هَلْ

dooneee awliyaaa'; innaaa a'tadnaa jahannamaa lil kaafireena nuzulaa (102) Qui hal

نُنْتَيْكُمْ بِالْأَخْسَرِيْنَ أَعْبَالًا ﴿١٠٣﴾ الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي

nunabbi'ukum bilakhsareena a'maalaa (103) Allazeena dalla sa'yuhum fil

الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُوْنَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُوْنَ صَنْعًا ﴿١٠٤﴾ أُولَئِكَ

hayaatid dunyaa wa hum yahsaboon annahum yuhisnoona sun'aa (104) Ulaaa'ikal

الَّذِينَ كَفَرُوا إِبْرَاهِيمَ وَلِقَائِهِ فَحِبَطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ

lazeena kafaroo bi aayaati Rabbihim wa liqaaa'ihee fahabitat a'maluhum falaa nuqeemu

لَهُمْ يَوْمُ الْقِيَمَةِ وَرَزْنَا ﴿١٠٥﴾ ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُوا

lahum Yawmal Qiyaamati wzanaa (105) Zaalika jazaa'uhum jahannamu bimaa kafaroo

وَاتَّخَذُوا أَيْتِيْنِ وَرُسُلِيْنِ هُزُوا ﴿١٠٦﴾ إِنَّ الَّذِينَ امْنَوْا وَعَمِلُوا الصِّلْحَتِ

wattakhazooo Aayaatee wa Rusulee huzuwa (106) Inna lazeena aamanoo wa 'amilus saalihaati

كَانَتْ لَهُمْ جَنْتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا ﴿١٠٧﴾ خَلِدِيْنَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ

kaanat lahumm jantul firdaus nuzulaa (107) Khaalideena feeha la yabghoona

عَنْهَا حِوْلًا ﴿١٠٨﴾ قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَتِ رَبِّيْ لَنَفِدَ الْبَحْرُ

'anhaa hiwala (108) Qul law kaanal bahr midaadal li kalimaati Rabbee lanafidal bahr

قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَتُ رَبِّيْ وَلَوْ جَعَنَا بِشِلْهِ مَدَدًا ﴿١٠٩﴾ قُلْ إِنَّا أَنَا

qabla an tanfada Kalimaatu Rabbee wa law ji'naa bimislilhee madadaa (109) Qul innamaaa ana

بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوَحِّي إِلَى أَنَّهَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَسَنَ كَانَ يَرْجُو الْقَاءَ

basharum mislukum yoohaaa ilaiya annamaaa ilaahukum Ilahun Waahid; faman kaana yarjoo liqaaa'a

رَبِّهِ فَلَدِيْعُمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ﴿١١٠﴾

Rabbiihe falya'mal 'amalan saalihan wa laa yushrik bi'ibaadati Rabbiiheee ahadaa (section 12) (110)

مُتَّقَّدٌ: اُونو: هدف دارو سکھ دیکی آداڑا لوکپ الٰف کے برابر لامہ کرنا

مُتَّقَّدٌ: اُونو: سکھ دارو سکھ دیکی آداڑا لوکپ الٰف کے برابر لامہ کرنا (ب) ہوئی آداڑا لوکپ الٰف (آ) میں جیسا کچھ حدا

مُتَّقَّدٌ: اُونو: سکھ دارو سکھ دیکی آداڑا لوکپ الٰف کے برابر لامہ کر کے پڑھا جاپے

سُورَةٌ مَّدْيَم
مِكْرَيَّةٌ

۱۹

رَبُّكُمْ أَنَّهُمْ لَا يَشْعُرُونَ

إِلَيْهِمْ أَنَّهُمْ لَا يَشْعُرُونَ

۹۸

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Bismillaahir Rahmaanir Raheem

كَمِيعَصْ ذَكْرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدَهُ زَكَرِيَّاً إِذْ نَادَى رَبَّهُ

Kaaaf-Haa-Yaa'-Ayyyn-Saaad(1)Zikru rahmati Rabbika 'abdahoo Zakariyya(2)Iz naadaa Rabbahoo

نِدَاءً حَفِيَّاً قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظُمُ مِنِّي وَأَشْتَعَلَ الرَّأْسُ

nidaaa'an khafiyaa(3)Qaala Rabbi innee wahanal 'azmu minnee washta 'alar ra'su

شَيْبَاءُ لَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيَّاً وَإِنِّي خُفْتُ الْمَوَالِيَ

shaibaw wa lam akun bidu'aaa'ika Rabbi shaqiyaa(4)Wa innee khiftul mawaaliya

مِنْ وَرَاءِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرَّةً فَهَبْ لِي مِنْ لُدُنْكَ وَلِيَّا

minw waraaa'ee wa kaanat imra atee 'aqiran fa hablee mil ladunka waliyyaa(5)

يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ أَلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيَّاً يَزِّكَرِيَّاً

Yarisunee wa yarisu min aali Ya'qoob, waj'alhu Rabbi radiyya(6)Yaa Zakariyya

إِنَّا نَبْشِّرُكَ بِغُلْمٍ اسْمُهُ يَحْيَى لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلٍ سَمِيَّاً

innaa nubashshiruka bi ghulaamin ismuuhoo Yahyaa lam naj'al lahoo min qablu samiyyaa(7)

قَالَ رَبِّيْ أَنِّي يَكُونُ لِيْ غُلْمٌ وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا وَقَدْ بَلَغْتُ

Qaala Rabbi annaa yakoona lee ghulaamunw kaanat imra atee 'aaqiranwa qad balaghtu

مِنَ الْكِبِيرِ عِتْيَيَاً قَالَ كَذِيلَكَ قَالَ رَبِّكَ هُوَ عَلَىٰ هَيْنَ وَقَدْ

minal kibari 'ityaya(8)Qaala kazaalika qaala Rabbuka huwa 'alaiya haiyunuw wa qad

خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلٍ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا قَالَ رَبِّيْ أَجْعَلْ لِيَّ إِيَّاهُ

khalaqtuka min qablu wa lam taku shai'aa(9)Qaala Rabbij 'al leee Ayah;

قَالَ أَيْتُكَ أَلَا تَكْلِمُ النَّاسَ ثَلَاثَ لَيَالٍ سَوِيًّا فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ

qaala Aayatuka allaa tukalliman naasa salaasa layaalain sawiyyaa(10) Fakharaja 'ala qawmihee

مِنَ الْبِحْرِ فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ أَنْ سِبْحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا يَيْحِيَّا

minal mihraabi fa-awhaha ilaihim an sabbihoo bukratanw wa 'ashiyyaa(11) Yaa Yahyaa

معنی: اون ھدھ اور سکھ دیکھی اداڑا کیاں الٰہ کے بر ایسا کرنا

بالآخر: اون ساکن اداڑا کیچھ اور سکھ میں جیسا کیچھ دیکھ دیجیا جائے

معنی: اس سب سے الٰہ کے بر ایسا کر کے پڑھا جائے

معنی: .. تمیں الٰہ کے بر ایسا پانچ الٰہ کے بر ایسا کر کے پڑھا جائے

خُذِ الْكِتَبَ بِقُوَّةٍ وَاتَّيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا ﴿١٢﴾ وَ حَنَانًا مِنْ لَدُنْهَا

khuzil Kitaaba biquwwatinw wa aatainaahul hukma sabiyaa(12) Wa hanaanam mil ladunnaa

وَزَكْوَةً وَكَانَ تَقِيًّا ﴿١٣﴾ وَ بَرَّا بِالدِّيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَارًا عَصِيًّا

wa zakaatanw wa kaana taqiyaa(13) Wa barram biwaalidayhi wa lam yakum jabbaaran 'asiyyaa(14) Wa

سَلْمٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلْدَهُ وَ يَوْمَ يَمُوتُ وَ يَوْمَ يُبَعْثَ حَيًّا ﴿١٥﴾ وَ اذْكُرْ

salaamun 'alaihi yawma wulida wa yawma yamootu wa yawma yub'asu haifyaa (section 1) (15) Wazkur

فِي الْكِتَبِ مَرِيْمٌ إِذَا تَبَدَّلَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرِقِيًّا ﴿١٦﴾ فَاتَّخَذَتْ

fil Kitaabi Maryma; izin tabazat min ahlihaa makaanan sharqiyyaa(16) Fattakhazat

مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوْحَنَا فَتَمَشَّلَتْ لَهَا بَشَرًا

min doonihim hijaab fa arsalnaa ilaiha roohanaa fatamassala lahaa basharan

سَوِيًّا ﴿١٧﴾ قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ تَقِيًّا

sawiyyaa(17) Qaalat innee a'oozu bir Rahmaani minka in kunta taqiyaa(18) Qaala innamaa

أَنَا رَسُولُ رَبِّيْكِ لِإِلَهَ لَكِ غُلْمَانًا زَكِيًّا ﴿١٩﴾ قَالَتْ أَنِّي يَكُونُ لِيْ غُلْمَانًا

ana rasoolu Rabbiki li abaha laki ghulaaman zakiiyyaa(19) Qaalat anna yakoona lee ghulaamunw

وَلَمْ يَئِسْسِنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا ﴿٢٠﴾ قَالَ كَذِيلِكِ هَذِهِ قَالَ رَبِّكِ هُوَ

wa lam yamsasnee bashrunw wa lam aku baghiyyaa(20) Qaala kazalaliki qaala Rabbuki huwa

عَلَىَّ هَيْنَ هَيْنَ وَ لِنْجَعَلَهُ أَيَّةً لِلنَّاسِ وَ رَحْمَةً مِنَّا وَ كَانَ أَمْرًا

'alaiya haiyimunw wa linaj 'alahooo Aayatal linnaasi wa rahmatam minnaa; wa kaana amram

مَقْضِيًّا ﴿٢١﴾ فَحَمَلَتْهُ فَاتَّبَدَّلَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا

maqdiyyaa(21) Fahamalat hu fantabazat bihee makaanan qasiyyaa(22) Fa ajaa 'ahal

الْمَخَاضُ إِلَى جَذْعِ النَّخْلَةِ قَاتَثُ يَلِيَّتِنِي مِتْ قَبْلَ هَذَا

makhaadu ilaa jiz'in nakhlati qaatal yaa laitanee mittu qabla haazaaz

وَكَنْتُ نَسِيًّا مَنْسِيًّا ﴿٢٣﴾ فَنَادَاهَا مِنْ تَحْتِهَا أَلَا تَحْرِنِي قَدْ جَعَلَ

wa kuntu nasyam mansiyyaa(23) Fanaadaahaa min tahtihaaa allaa tahzanee qad ja'ala

● نقاش: اون ھڈو اور سکھ دیکی ادا اڑاکیں الگ کے بر ایسا کرنا

● بالغ: اون ساکن اور سکھ دیکی ادا اڑاکیں اس کے بعد (ب) ہوئی آؤ اوناں پیش، ای ای ای ای ای ای

● مکمل: اس سب سے الگ کے بر ایسا کر کے پڑھا جائے

وَهُزِئَ إِلَيْكَ بِجُنُدِ النَّحْلَةِ تُسْقَطُ عَلَيْكَ

Rabbuki tahtaki sariyyaa(24) Wa huzzeee ilaiki bijiz 'in nakhlati tusaaqit 'alaiki

رُطْبَا جَنِيَا ۝ فَكُلِّيْ وَاشْهَبِيْ وَقَرِيْ عَيْنِيَا ۝ فَامَا تَرِيْنَ مِنْ ۝

rutaban janiyyaa(25) Fakulee washrabee wa qarree 'ainaa; fa immaa tarayinnna minal

الْبَشَرِ أَحَدًا لَفَوْلَى إِنِّي نَذَرْتُ لِلَّهِ حِمْنَ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ

bashari ahadan faqooleee innee nazartu lir Rahmaani sawman falan ukallimal

الْيَوْمَ أَنْسِيَا ﴿٢٦﴾ فَاتَّثُبْهُ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُوا يَمْرِيْمُ لَقَدْ جُئْتِ

yawma insiyyaa(26) Fa atat bihee qawmahaa tahmiluhoo qaaloo yaa Maryamoo laqad ji'ti

شَيْئًا فَرِيَّا ﴿٢٤﴾ يَا خَتَ هُرُونَ مَا كَانَ أَبُوكَ امْرَأَ سَوْءٌ وَمَا كَانَتْ

shai'an fariyyaa(27) Yaaa ukhta Haaroona maa kaana abooki mra'a saw'inw wa maa kaanat

أَمْكِنْ بَغْيَا ﴿٢٨﴾ فَأَشَارَتُ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ

ummuki baghiyyaa(28) Fa ashaarat ilaih; qaaloo kaifa nukallimu man kaana fil mahdi

sabiyyaa(29) Qaalaa innee 'abdullaahi ataaniyal Kitaaba wa ja'alanee Nabiiyyaa(30)

وَجَعَلَنِي مُبْرَكًا أَيْنَ مَا كُنْتُ وَأَوْصَنِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكُورَةِ مَا

Wa ja'alanee mubaarakan aina maa kuntu wa awsaanee bis Salaati waz Zakaati maa

دُمْتَ حَيَا ۝ وَبَرَأَ بَوْالِدَتِي ۝ وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيقًا ۝ وَالسَّلَامُ ۝

dumtu haiyaa(31) Wa barram biwaalidatee wa lam yaj'alnee jabbaaran shaqiyaa(32) Wassalaamu

عَلَى يَوْمِ وُلْدَتْ وَيَوْمِ أَمْوَاتْ وَيَوْمِ أُبْعَثْ حَيَا ۝ ذَلِكَ عِيسَى

'alaiya yawma wulidtu wa yawma amootu wa yawma ub'asu haiyaa(33) Zaalika 'Eesab-nu

ابن مريم قول الحق الذي فيه ينترون ﴿٣﴾

Maryama; qawlii haqqii lazee feehi yamtarroon(34) Maa kaana illaahi al-

يَتَخِذُ مِنْ وَلَدٍ سُبْحَنَهُ إِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ

yattakuniza inni walaadhi SubhaanAllah, Izaa qadaaa amrani ta innamaa yaqoolu laahoo kuu

منزل ۲ **تقطیعیہ:** حروف کو پہنچانی اور سکم سائیں جس کے بعد (ب) یوں آئے تو کو تقطیعیہ (ا) میں پھپا کر پڑھنا
غیرہ: اون ساں کو اونچا کر کر بخوبی کر دیا جائے اور اس کے پیش کر دیا جائے اور اس کے پیش کر دیا جائے

فَيَكُونُ ۖ وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّنَا وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ ۚ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ۝

ta'yakoon(35) Wa innal laaha Rabbee wa Rabbukum fa'budooh; haazaa Siraatum Mustaqeem(35)

فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ ۗ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ مَشْهِدِ

Fakhtalaf ahzaabu min bainihim fawallul lillazeena kafaroo min mashhadi

يَوْمٍ عَظِيمٍ ۝ أَسْيَعُهُمْ وَأَبْصِرُهُمْ يَوْمَ يَأْتُونَا لِكِنَّ الظَّالِمُونَ

Yawmin 'azeem(37) Asmi' bihim wa absir Yawma ya'toonanaa laakiniz zaalimoonal

الْيَوْمَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ۝ وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْحُسْنَةِ إِذْ قُضِيَ

yawma fee dalaalin mubeen(38) Wa anzirhum Yawmal hasratu iz qudiyal

الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غُلْفَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۝ إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ

amr; wa hum fee ghaflatiniw wa hum laa yu'minoon(39) Innaa nahnun narisul

الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ ۝ وَإِذْكُرْ فِي الْكِتَابِ

arda wa man 'alaahaa wa ilainaay yurja'oon (section 2) (40) Wazkur fil Kitaabi

إِبْرَاهِيمَ ۝ إِنَّهُ كَانَ صَدِيقًا نَّبِيًّا ۝ إِذْ قَالَ لِآبِيهِ يَا بَتِ لِمَ تَعْبُدُ

Ibraheem; innahoo kaana siddeeqan Nabiyaa(41) Iz qaala li abeehi yaaa abati lima ta'bdu

مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبَصِّرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا ۝ يَا بَتِ إِنِّيْ قَدْ

maa laa yasma'u wa laa yubsiru wa laa yughnee 'anka shai'aa(42) Yaaa abati innee qad

جَاءَنِيْ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِيْ أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا ۝

jaaa'anee minal 'ilmi maa lam ya'tika fattabi'neee ahdika siraatan Sawiyyaa(43)

يَا بَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَنَ ۝ إِنَّ الشَّيْطَنَ كَانَ لِلَّهِ حُنْنِ عَصِيًّا ۝

Yaaa abati laa ta'budish Shaitaan; innash Shaitanaa kaana lir Rahmaani 'asiyyaa(44)

يَا بَتِ إِنِّيْ أَخَافُ أَنْ يَيْسَلَ عَذَابٌ مِنَ الرَّحْمَنِ فَتَكُونُ

Yaaa abati innee akhaafu ai yamassaka 'azaabum minar Rahmaani fatakoona

لِلشَّيْطَنِ وَلِيًّا ۝ قَالَ أَرَاغِبُ أَنْتَ عَنِ الْهَتْكِيِّ يَا إِبْرَاهِيمُ لَئِنْ

lish Shaitani waliyyaa(45) Qaala araaghibun anta 'an aalihatee yaaa Ibraheemu la 'il

﴿عَنْهُ﴾: اونو هدھے اور سم مھدھے دیکھیا اور اذکور کیا۔ ﴿فَلَقَرَبَهُمْ حَرْوَنُ كَوْنِيْ پُرِيْ بَنْجَانِ آنِیْ وَكَوْنِجَارِکَنِ﴾

﴿إِلَخَّا﴾: اون سماں اون خوش ہیں اور سم ساں جس کے درجے (ب) ہوں کی آئندگانی خوش ہیں ایسے جیسا کہ حدا

﴿بَعْدِ﴾: اس سے پہلے اذکور کیے ہوئے کارکے پڑھا جائیں گے

﴿عَنْهُ﴾: تمیں الک کے برادر ہیں پرانی الک کے برادر ہم کارکے پڑھا جائیں گے

لَمْ تَتَهَّه لَأَرْجُنْتَ وَاهْجُرْنِي مَلِيّا ۲۶ ﴿ قَالَ سَلَّمٌ عَلَيْكَ سَاءَتْغَفِيرُ

lam tantahi la arjumannaka wahjurnee maliyyaa(46) Qaala salaamun 'alaika sa astaghfiru
لَكَ رَبِّي طِإِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيَّا ۲۷ وَاعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِنْ

laka Rabbeec innahoo kaana bee hafiyaa(47) Wa a'tazilukum wa maa tad'oon min

دُونِ اللَّهِ وَادْعُوا رَبِّي عَسَى أَلَا أَكُونُ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا ۲۸

doonil laahi wa ad'oo Rabbee 'asaaa allaaa akoona bidu'aaa'i Rabbee shaqiyaa(48)

فَلَمَّا اعْتَزَلُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَهَبَنَا لَهُ إِسْحَاقَ

Fa lam ma'tazalahum wa maa ya'budoona min doonil laahi wahabnaa lahoo is-haaqa

وَيَعْقُوبَ وَكُلُّا جَعَلْنَا نَبِيًّا ۲۹ وَهَبَنَا لَهُمْ مِنْ رَحْمَتِنَا وَ

wa ya'qoob; wa kulla ja'alnaa Nabiyaa(49) Wa wahabnaa lahum mir rahmatinaaa wa

جَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقِي عَلِيًّا ۳۰ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَبِ مُوسَى

ja'alnaa lahum lisaana sidqin 'aliyyaa (section 3) (50) Wazkur fil Kitaabi Moosaa;

إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَ كَانَ رَسُولًا نَبِيًّا ۳۱ وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ

innahoo kaana mukhlasanw wa kaana Rasoolan Nabiyaa(51) Wa naadainaahu min jaanibit
الْطُورِ الْأَيَّمِينِ وَقَرَبَنَاهُ نَحْيَا ۳۲ وَهَبَنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا أَخَاهُ

Tooril aimani wa qarrabnaahu najiyaa(52) Wa wahabnaa lahoo mir rahmatinaaa akhaahu
هُرُونَ نَبِيًّا ۳۳ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَبِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ

Haarooda Nabiyaa(53) Wazkur fil Kitaabi isma'eel; innahoo kaana saadiqal wa'di

وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا ۳۴ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكُوَةِ وَكَانَ

wa kaana Rasoolan Nabiyaa(54) Wa kaana ya'muru ahlahoo bis Salaati waz zakaati wa kaana
عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا ۳۵ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَبِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا

'inda Rabbihhee mardiyaa(55) Wazkur fil Kitaabi Idrees; innahoo kaana siddeeqan

نَبِيًّا ۳۶ وَرَفَعْنَهُ مَكَانًا عَلَيْهَا ۳۷ أُولَئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ

Nabiyaa(56) Wa rafa'naahu makaan'an 'aliyyaa(57) Ulaaa'ikal lazeena an'amal laahu 'alaikum

مُتَّقَّدٌ: اونوں ھڈے اور سکھ دیکی ادا اڑا لوکیں الٰہ کے برادر لامہ کرتا

منزل ۲: تلقین یعنی: حروف کو پڑھنی آئندگانی اور کوئی رکھنا۔ قلقنے: سماں جو حرف کو پڑھنے کا کوئی افسوس نہیں۔

چھپا: اون سماں اور حروف کو پڑھنے کے بعد (بے ہو) کی آؤں کو چھپا دتا۔ میں چھپا کرچھ خدا

بھیجیں۔ اس سماں سے ایک الٰہ کے برادر لامہ کے پڑھانا اجب ہے

مِنَ النَّبِيِّنَ مِنْ ذُرِّيَّةِ أَدَمَ وَمِنْ حَبَلْنَا مَعَ نُوحٍ وَمِنْ

minan Nabiyeeena min surriyyati Aadama wa mimman hamalnaa ma'a Noohinw wa min

ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَمِنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا إِذَا تُشْلِلَ

zurriyyati Ibraheema wa Israa'eela wa mimman hadainaajtibinaa; izaa tutlaa

عَلَيْهِمْ أَيْتُ الرَّحْمَنَ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكَيْتَ ۝ فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ

'alaikim Aayaatur Rahmaani kharroo sujjadanw wa bukiyyaa (make sajda) (58) Fakhalaifa min ba'dihim

خَلَفَ أَصَاعُوا الصَّلْوَةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّابًا ۝

khalfun adaa'us Salaata wattaba'ush shahawaati fasawfa yalqawna ghaiyyaa(59)

إِلَّا مَنْ تَابَ وَأَمَنَ وَعِمِّلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ

Illaa man taaba wa aamana wa 'amilaa salihan fa ulaa'iika yadkhuloonal jannata

وَلَا يُظْلِمُونَ شَيْئًا ۝ جَنَّتِ عَدْنٍ ۝ الَّتِي وَعَدَ الرَّحْمَنُ عِبَادَةً

wa laa yuzlamoona shai'aa(60) Jannaati 'adninal latee wa'adar Rahmaanu ibaadahoo

بِالْغَيْبِ ۝ إِنَّهُ كَانَ وَعْدُهُ مَاتِيًّا ۝ لَا يَسْعَونَ فِيهَا لَغْوًا إِلَّا سَلَّمًا

bilghaib; innahoo kaana wa'duhoo ma'tiyyaa(61) Laa yasma'oona feehaa laghwan illaa salaamaa;

وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بَكْرٌ وَعَشِيًّا ۝ تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ

wa lahum rizquhum feehaa bukratanw wa 'ashiyaa(62) Tilkal jannatal latee noorisu min

عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا ۝ وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ

'ibaadinaa man kaana taqiyaa(63) Wa maa natanazzalu illaa bi amri Rabbika lahoo maa baina

أَيْدِينَا وَمَا خَلَفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ۝ دَبْ

aideenaa wa maa khalfanaa wa maa baina zaalik; wa maa kaana Rabbuka nasiyyaa(64) Rabbus

السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبُدْ ۝ وَاصْطَبْ ۝ لِعِبَادَتِهِ ۝ هَلْ

samaawaati wal ardi wa maa bainahumaa fa'bud hu wastabir li'ibaadatih; hal

تَعْلَمُ لَهُ سَيِّئًا ۝ وَيَقُولُ الْإِنْسَانُ عَرِادًا مَا مِثْ لَسْوَفَ أُخْرَاجٌ

ta'lamu lahoo samiyyaa (section 4) (65) Wa yaqoolu insaanu 'izaa maa mittu lasawfa ukhraju

نَعْلَمُ: اُونوں مدد وارث کیا جاؤ اُولیاءِ اللہ کے برادر لامہ کرنا

مِنْزَلٌ ۝ قَلْقِيلٌ: حروف کو پڑھنی آئندگانی اور کوچھ رکھنا

كُوچھ: اللہ کی آزادی کو کوچھ بھی کہا جائے (ب) ہو) کی آزادی کوچھ (ت) میں بھی کوچھ

بھی: اس سب سے اپنے ایک اللہ کے برادر لامہ کے پڑھانا اجب ہے

حَيَا ۝ أَوَ لَا يَذْكُرُ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلٍ وَلَمْ يَكُنْ شَيْئًا ۝

aiyaa(66) 'A wa laa yazkurul insaanu annaa khalaqnaahu min qablu wa lam yaku shai'aa(67)

فَوَرَبِّكَ لَنْخَشُّ نَهْمُ وَالشَّيْطِينُ شُمُّ لَنْخَضَهَا نَهْمُ حَوْلَ جَهَنَّمَ حِشْيَا ۝

Fawa Rabbika lanahshu rannahum wash shayaateena summa lanuhdirannahum hawla jahannama jisiiyaa(68)

شُمُّ لَنْتَزَعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيْعَةٍ أَيْهُمْ أَشَدُ عَلَى الرَّحْمَنِ عِتَيْيَا ۝

Summa lanan zi'anna min kulli shee'atin aiyuham ashaddu 'alar Rahmaani 'itiyyaa(69)

شُمُّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَوْلَى بِهَا صِلِّيَّا ۝ وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا ۝

Summa lanahnu a'lam billazeena hum awlaa bihaa siliyyaa(70) Wa in minkum illaa

وَارِدُهَا ۝ كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتَّىٰ مَقْضِيًّا ۝ شُمُّ نُنْجِي الَّذِينَ اتَّقَوْا ۝

waariduhaa; kaana 'alaa Rabbika hatmam maqdiyyaa(71) Summa nunajil lazeenat taqaw wa

نَذْرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا حِشْيَا ۝ وَإِذَا تُشْلِي عَلَيْهِمْ أَيْتُنَا بَيِّنَتْ قَالَ ۝

nazaruz zaalimeena feehaa jisiiyaa(72) Wa izaa tutlaa 'alaihim Aayaatunaa baiyinaatin qaalal

الَّذِينَ كَفَرُوا وَالَّذِينَ أَمْنَوْا لَا إِلَهَ إِلَّا فَرِيْقُكُمْ خَيْرٌ مَّقَامًا وَأَخْسَنُ ۝

lazeena kafaroo lillazeena aamanoo aiyl fareeqaini khairum maqaamanw wa ahsanu

نَدِيَّا ۝ وَكُمْ أَهْلُكُنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنِ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِعَيَا ۝

nadiyyaa(73) Wa kam ahlaknaa qablhum min qarnin hum ahsanu asasasan wa ri'yaa(74)

قُلْ مَنْ كَانَ فِي الْضَّلَالَةِ فَلَيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدَدًا حَتَّىٰ إِذَا دَوَّا ۝

Qul man kaana fidda laalati falyamdu lahir Rahmaanu maddaa;hattaaa izaa ra aw

مَا يُوعَدُونَ إِمَّا الْعَذَابَ وَإِمَّا السَّاعَةَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ ۝

maa yoo'adoona immal 'azaaba wa immas Saa'ata fasa ya'lamoona man huwa

شَرَّ مَكَانًا وَأَصْعَفُ جُندًا ۝ وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى ۝

sharrum makaanaw wa ad'afu jundaa(75) Wa yazeedul laahul lazeenah tadarw hudaan;

وَالْبُقِيَّتُ الصِّلْحُتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَرَدًا ۝ أَفَعَيْتَ ۝

wal baaqiyaatus saalihaatu khairun 'inda Rabbika sawaabaw wa khairum maraddaa(76) Afara'ayt

﴿نَذْرٌ﴾: اونوں مدد وار سکھ دیکی آؤ رابیک الٰف کے بر ایسا کرنا

﴿نَعْلَمُ﴾: جروف کو پیر یعنی آؤ رکھو رکھنا

﴿مَنْزِلٌ﴾: قلعہ، حوف کو پیر یعنی آؤ رکھو رکھنا

﴿كَوْرُوكِي﴾: افسوس کی آؤ رکھو رکھنے کے بعد (ب) یوں آؤ رکھو رکھنا (ت) میں جیسا کچھ حدا

﴿بَلْ﴾: اس سب سے آپکی الٰف کے بر ایسا کر کے پڑھنا اجب ہے

﴿عَيْتَ﴾: - تمیں الٰف کے بر ایسا پائیں الٰف کے بر ایسا کر کے پڑھنا اجب ہے

الَّذِي كَفَرَ بِاِيْتَنَا وَقَالَ لَا وُتَّيَّنَ مَالًا وَلَدًا ﴿٦﴾ أَطْلَعَ الْغَيْبَ

lazee kafara bi Aayaatinaa wa qaala la oota yanna maalanw wa waladaa(77) 'At tala'al ghaiba

أَمْ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا ﴿٧﴾ كَلَّا طَسْنَكُتبُ مَا يَقُولُ وَنَهْدُ

'amit takhaza 'indar Rahmaani 'ahdaa 'ahdaa(78) Kallaa; sanaktabu maa yaqoolu wa namuddu

لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدْدًا ﴿٨﴾ وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَا تَيَّنَا فَمَّا دَادَ ﴿٩﴾ وَاتَّخَذُوا

lahoo minal 'azaabi maddaa(79) Wa narisuhoo maa yaqoolu wa ya'teena fardaa(80) Wattakhazoo

مِنْ دُونِ اللَّهِ إِلَهَةً لَّيْكُونُوا لَهُمْ عِنْدًا ﴿١٠﴾ كَلَّا سَيِّكُفُرُونَ

min doonil laahi aalihatal liyakoonoo lahum 'izzaa(81) Kallaa; sa yakfuroona

بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضَدًا ﴿١١﴾ إِلَمْ تَرَأَّنَا أَرْسَلْنَا الشَّيْطِينَ

bi'ibaadatihim wa yakoonoona 'alaihim diddaa (section 9) (82) Alam tara annaas arsalnash Shayaateena

عَلَى الْكُفَّارِ يَنْ تَوَزُّهُمْ أَذَا ﴿١٢﴾ فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا نَعْذِلُهُمْ

'alal kaafireena ta'uzzuhum azzaa(83) Falaa ta'jal alaihim innamaa na 'uddu lahum

عَدًا ﴿١٣﴾ يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفَدًا ﴿١٤﴾ وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ

'addaa(84) Yawma nahshurul muttaqeena ilar Rahmaani wafdaa(85) Wa nasooqul mujrimeena

إِلَى جَهَنَّمَ وَرُدًا ﴿١٥﴾ لَا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ

ilaah Jahannama wirdaa(86) Laa yamlikoonash shafaa'ata illaa manittakhaza 'indar

الرَّحْمَنِ عَهْدًا ﴿١٦﴾ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا ﴿١٧﴾ لَقَدْ جُئْتُمْ شَيْئًا

Rahmaani 'ahdaa(87) Wa qaalut takhazar Rahmaanu waladaa(88) Laqad ji'tum shai'an

إِذَا ﴿١٨﴾ تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّنُ مِنْهُ وَتَنَشَّقُ الْأَرْضُ وَتَخْرُجُ الْجِبَالُ

iddaa(89) Takaad samaawaatu yatafattarna minhu wa tanshaq qul ardu wa takhirul jibaal

هَدًا ﴿١٩﴾ أَنْ دَعَوْا لِلَّهِ رَحْمَنَ وَلَدًا ﴿٢٠﴾ وَمَا يَنْبَغِي لِلَّهِ رَحْمَنِ أَنْ يَتَخَذَ

haddaa(90) An da'aw lir Rahmaani waladaa(91) Wa maa yambaghee lir Rahmaani ai yattakhiza

وَلَدًا ﴿٢١﴾ إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا أَتِيَ الرَّحْمَنَ عَبْدًا

waladaa(92) In kullu man fis samaawaati wal ardi illaaa atir Rahmaani 'abdaa(92)

مُتَّقٌ: اون ہدہ اور سامنہ دکی، ادا تو ایک الٰہ کے بر ایسا کہا جائے

منزل: ۲ قلعہ: حروف کو پڑھنی آئندگانی اور سماں کی دھن (ب) ہوئی آؤ تو یعنی (ت) میں جیسا کچھ حدا

کوئی: الٰہ کے بر ایسا کہا جائے

بُخْلٌ: اس سب سے ایک الٰہ کے بر ایسا کہے جائے جیسے پیش کیا جائے

لَقَدْ أَخْضُمْهُ وَعَدَّهُمْ عَدًّا ۖ وَكُلُّهُمْ أَتَيْهِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ

Laqad ahsaahum wa addahum 'addaa(94) Wa kulluhum aateehi Yawmal Qiyaamati

فَرَدًا ۖ إِنَّ الَّذِينَ أَمْنُوا وَعَيْلُوا الصِّلْحَتِ سَيَجْعَلُ لَهُمْ

fardaa(95) Innal lazeena aamanoo wa 'amilus saalihati sa yaj'alu lahumur

الرَّحْمَنُ وُدًّا ۖ فَإِنَّمَا يَسِّرَنَا بِلِسَانِكَ لِتُبَيِّشَ بِهِ الْمُتَّقِينَ

Rahmaanu wuddaa(96) Fa innamaa yassarnaahu bilisaanika litubashshira bihil muttaqeena

وَتُنْذِرَ بِهِ قَوْمًا مَالُدًّا ۖ وَكُمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ ۚ هَلْ

wa tunzira bihee qawmal luddaa(97) Wa kam ahlaknaa qabla hum min qarnin hal

تُحِسْ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْعَ لَهُمْ رِكْزَا ۖ

tuhissu minhum min ahadin aw tasma'u lahum rikzaa (section 6) (98)

رَوْحَاتُهَا

۸

أَيْثَنَا

۱۳۵

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سُورَةُ طَه

۴۵

مِكَيْمَةٌ

۲۰

Bismillaahir Rahmaanir Raheem

طَهٌ ۖ مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْفَقَ ۖ إِلَّا تَذَكِّرَةٌ لِيَنْهَا ۖ

Taa-Haa(1) Maaa anzalnaa 'alaikal Qur-aانا litashqaaa(2) Illaa tazkiratal limany

يَخْشِي ۖ تَنْزِيلًا مِنْ خَلْقِ الْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتِ الْعُلَىٰ ۖ أَلَّرَّحْمَنُ

yakhshaa(3) Tanzeelan mimman khalaqal arda was samaawaatil 'ulaa(4) Ar-Rahmaanu

عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى ۖ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۖ وَمَا

'alal 'Arshis tawaa(5) Lahoo maa fis samaawaati wa maa fil ardi wa maa

بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الْثَّرَىٰ ۖ وَإِنْ تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهَ يَعْلَمُ

bainahumaa wa maa tahtassaraa(6) Wa in tajhar bilqawli fainnahoo ya'lamus

السِّمَاءُ وَأَخْفَى ۖ أَلَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۖ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ ۖ وَهَلْ

siirra wa akhfaa(7) Allaahu laaa ilaaha illa Huwa lahal Asmaaa'ul Husnaa(8) Wa hal

أَتَكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ ۖ إِذْ رَا نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي

ataaka hadeesu Moosa(9) Iz ra aa naaran faqaala li ahlilhim kusooo innee

معنی: اون ھدیہ داروں کی مدد کی جائے تو اولیٰ الٰہ کے برادر لامہ کرنا

معنی: اون سماں اور سماں کی مدد کی جائے تو اولیٰ الٰہ کے برادر لامہ (بیوی) ایک آئندہ اپنی بیوی کی پڑھی

معنی: اس سماں سے اولیٰ الٰہ کے برادر لامہ کے پڑھا جائے

أَنْسَتُ نَادِيَ الْعَلَى اتِيَّكُم مِنْهَا بِقَبِيس أَوْ أَجْدُ عَلَى النَّارِ هُدَى

aanastu naaral la'alleee aateekum minhaa biqabasin aw ajidu 'alan naari huda(10)

فَلَمَّا آتَيْهَا نُودِيَ يَهُوسُى طَ اِنِّي اَنَا بِكَ فَاخْلُدْ نَعْلَيْكَ اِنْكَ

Falammaaa ataahaa noodiya yaa Moosaa(11) Inneee Ana Rabbuka fakhla' na'laika

بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طَوْيٌ ٦٢ وَأَنَا أَخْتَرُكَ فَاسْتَبِعْ لِيَا يُوْحَى

innaka bilwaadil muqaddasi Tuwaa(12) Wa anakhtartuka fastami' limaa yoohaa(13)

إِنَّمَا أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي

Innaneee Anal laahu laaa ilaaha illaa Ana fa'budnee wa aqimis-salaata lizikree(14)

إِنَّ السَّاعَةَ اٰتِيَةً أَكَادُ أَخْفِيَهَا لِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَى

Innas Saa'ata aatiyatun akaadu ukhfeehaa litujzaa kullo nafsin bimaa tas'aa(15)

فَلَا يَصِدَّكَ عَنْهَا مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرَدَى

Falaa yasuddannaka 'anhaa mal laa yu'minu bihaa wattaba'a hawaahu fatardaa(16)

وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَوْسُفٌ ﴿٢٤﴾ قَالَ هِيَ عَصَمَىٰ أَتُوكُوا عَلَيْهَا وَ

Wa maa tilka bi yamee nika yaa Moosaa(17) Qaala hiya 'asaaya atawakka'u alaihaa wa

شِ پَهَا عَلَى غَنْمٍ وَلِي فِيهَا مَارِبُ أُخْرَى ۝ قَالَ الْقِرْ

فَلَمَّا كَانَتْ مَنَازِلُهُنَّا هَذِهِ تَسْعَ فَقَالَ أَخْرَجْهُمْ أَنَّمَا لَا تَخْفَى

yaa Moosaa(19) Fa-alqaahaa fa -izaa hiya haiyatun tas'aa(20) Qaala khuzhaa wa laa ta khaf

وَمُهَاجِرٌ إِلَيْهَا وَمُهَاجِرٌ مِّنْهَا

sanu'eeduhaa seeratahal oolaa(21) Wadmum yadaka ilaa janaahika takhruj

يُضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوْءٍ آيَةً أُخْرَى ﴿٢﴾ يَنْرِيكَ مِنْ آيَتِنَا الْكَبِيرَى

baalaaa a linn għalli sooo ill Aayat lu ukkifha(22) L-Imru yaka linn Ayaathha kubra(23)

يَسِّئُ لِـ أَمْرِيٌ ۖ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِيٍ ۖ يُفْقَهُوا قُولُٰ ۚ

yassir lee amree(26) Wahlu 'uqdatan milli saanee(27) Yafqahoo qawlee(28)

وَاجْعَلْ لِـ وَزِيرًا مِنْ أَهْلِيٍ ۖ هُرُونَ أَخِيٍ ۖ اشْدُدْ بِهِ أَزْرِيٍ ۚ

Waj'al lee wazeeran min ahlee(29) Haarooma akhee(30) Ushdud biheee azree(31)

وَأَشْرِكُهُ فِـ أَمْرِيٌ ۖ كُـ نُسِّبَحَ كَثِيرًا ۖ وَـ نَذْكُرَ كَثِيرًا ۖ إِنَّكَ

Wa ashrik hu feee amree(32) Kai nusabbihaka kaseeraa(33) Wa nazkuraka kaseeraa(34) Innaka

كُـثَـ بِنَابِصِيرًا ۖ قَالَ قَدْ أُوتِيَتْ سُؤْلَكَ يِمُوسَىٰ ۖ وَلَقَدْ

kunta binaa baseeraa(35) Qaala qad ooteeta su'laka yaa Moosaa(36) Wa laqad

مَنَـنَـا عَلَيْكَ مَرَـةً أَخْـرَـى ۖ إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَـيْـكَ مَـا يُـوحِـيـ ۖ أَنِـ

manannaa 'alaika marratan ukhraaa(37) Iz awhainaaa ilaaa ummika maa yoohaaa(38) 'Ani

اقْدِـفِـيـهـ فــيـ التــابــوـتــ فــاقــدــفــيـهـ فــيـ الــيــمــ فــلــيــلــقــهـ الــيــمــ بــالــســاحــلــ

qzifeehi fit Taabooti fa qzifeehi fil yammi fal yul qihil yammu bis saahili

يــأــخــذــهـ عــدــوــلــ وــعــدــوــلــهـ وــالــقــيــتــ عــلــيــكــ مــحــبــةـ مــنــهـ وــلــتــضــنــعــ

ya'khuzhu 'aduwul lee wa 'aduwul lah; wa alqaitu 'alaika mahabbatan minnee wa litusna'a

عــلــىـ عــيــنــيـ ۖ إـذـ تــمــشــيـ أـخــتــكــ فــتــقــوــلــ هــلــ أـدــلــكــ عــلــىـ مــنــ

'ala 'ainee(39) Iz tamshee ukhtuka fataqoolu hal adullukum 'alaai mai

يــكــفــلــهـ فــرــجــعــنــكــ إـذـ تــمــشــيـ أـخــتــكــ كــيــ تــقــعــ عــيــنــهـاـ وــلــاتــخــنــهـ وــقــتــلــتــ

yakfuluhoo faraja 'naaka ilaaa ummika kai taqarra 'ainuhaa wa laa tahzan; wa qatalta

نــفــســاـنــجــيــنــكــ مــنــ الــغــمــ وــفــتــنــ فــتــوــنــاـهـ فــلــيــثــ ســنــيــنــ فــ

nafsan fanajainaaka minal ghammi wa fatannaaka futoonaa; falabista sineena feee

أـهـلـ مــدــيــنــةـ شــمــ جــئــتــ عــلــىـ قــدــرــيــمــوــســىـ ۖ وــأـضــطــنــعــتــكــ

ahli Madyana summa ji'ta 'ala qadariny yaa Moosa(40) Wastana' tuka

لــنــفــســيــ ۖ إـذـ هــبــ أـنــتــ وــأـخــوــكــ بــاـيــقــيــ وــلــاـتــنــيــاـ فــيــ ذــكــرــيــ

linafsee(41) Izhab anta wa akhooka bi Aayaatee wa laa taniyaa fee zikree(42)

مُـنــزــلــ ۲۴ مُـنــزــلــ: حروف کو پڑھنے والے مکان یا حرف کو پڑھنے والے مکان

مُـنــزــلــ: اونوں مکان کو پڑھنے والے مکان یا حرف کو پڑھنے والے مکان

مُـنــزــلــ: اونوں مکان کو پڑھنے والے مکان یا حرف کو پڑھنے والے مکان

مُـنــزــلــ: اونوں مکان کو پڑھنے والے مکان یا حرف کو پڑھنے والے مکان

إِذْهَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى ﴿٤٣﴾ **فَقُولَاهُ قَوْلًا لَّيْسَ عَلَّهُ يَتَذَكَّرُ**

Izhabaaa ilaa Fir'awna innahoo taghaa(43) Faqoolaa lahoo qawlalaiyinal la allahoo yatazakkkaru

أَوْ يَخْشِي ﴿٤٤﴾ **قَالَ رَبَّنَا إِنَّنَا خَافُ أَنْ يَفْعَلَ كَمَا عَلَيْنَا أَوْ أَنْ يَطْغَى** ﴿٤٥﴾ **قَالَ**

'aw yakhsheehaa(44) Qaala Rabbanaaa innanaaa nakhaafuu ai yafruta 'alainaaa aw ai yatghaa(45) Qaala

لَا تَخَافَا إِنَّهُ مَعْكُمَا أَسْبَعُ وَأَرَى ﴿٤٦﴾ **فَأَتِيهُ فَقُولَاهُ إِنَّا رَسُولُ رَبِّكَ**

laa takhaafaa innanee ma'akumaa asma'u wa araa(46) Faatiyaahu faqoolaa innaa Rasoolaa Rabbika

فَأَرْسَلْنَا مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ هَوَلَا تُعَذِّبُهُمْ قَدْ جِئْنَكَ بِآيَةً

fa arsil ma'anaa Banee Israa'eela wa laa tu'azzibhum qad ji'naaka bi Aayatim

مِنْ رَبِّكَ طَوَ السَّلْمُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى ﴿٤٧﴾ **إِنَّا قَدْ أُوحَى إِلَيْنَا**

mir Rabbika wassa laamu 'alaa manit taba'al hudaa(47) Innaa qad oohiya ilainaaa

أَنَّ الْعَذَابَ عَلَى مَنْ كَذَبَ وَتَوَلَّ ﴿٤٨﴾ **قَالَ فَمَنْ رَبَّكُمَا يَمْوُسِي**

annnal 'azaaba 'alaa man kaz zaba wa tawalla(48) Qaala famar Rabbu kumaa yaa Moosa(49)

قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَةً ثُمَّ هَدَى ﴿٤٩﴾ **قَالَ فَمَا بَالُ**

Qaala Rabbun al lazee a'taa kulla shai'in khalqahoo summa hadaa(50) Qaala famaa baalul

الْقُرْآنِ الْأُولَى ﴿٥٠﴾ **قَالَ عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي فِي كِتَبٍ لَا يَضُلُّ رَبِّي**

quroonil oolaa(51) Qaala 'ilmuhaa 'inda Rabee fee kitaab, laa yadillu Rabbee

وَلَا يَخْسَى ﴿٥١﴾ **الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدَى وَ سَلَكَ لَكُمْ فِيهَا**

wa laa yansaa(52) Allazee ja'ala lakumul arda mahdanw wa salaka lakum feehaa

سُبْلًا وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَنَا بِهِ أَرْوَاجًا مِنْ نَبَاتٍ

subulanw wa anzala minas samaaa'i maaa'an fa akhrajnaa bihee azwaajam min nabaatin

شَقْقَى ﴿٥٢﴾ **كُلُّوا وَارْعُوا أَنْعَامَكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَتِي لِأُولَى النُّفُى**

shatta(53) Kuloo war'aw an'aamakum; inna fee zaalika la Aayaatil li ulin nuuhaa(54)

مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَ فِيهَا نُعِيدُكُمْ وَ مِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى ﴿٥٥﴾

Minhaa khalaqaakum wa feehaa nu'eedukum wa minhaa nukhrijukum taaratana ukhraa(55)

وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ أَيْتَنَا مَكَّهَ فَكَذَّبَ وَأَبَى ﴿٥٦﴾ قَالَ أَجْعَنَنَا لِتُخْرِجَنَا

Wa laqad arainaahu Aayaatinaa kullahaa fakaz zaba wa abaa(56) Qaala aji'tanaa litukhri janaa

مِنْ أَرْضِنَا بِسْحَرِكَ يَمْوُسِي ﴿٥٧﴾ فَلَنَأْتِيَنَكَ بِسِحْرِيْ مِثْلِهِ فَاجْعَلْ

min ardinaa bisihrika yaa Moosa(57) Falanaatiyannaka bisihrim mislihee faj'al

بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ مَكَانًا سُوَى ﴿٥٨﴾

bainanaa wa bainaka maw'idal laa nukhlifuhoo nahnu wa laaa anta makaanan suwa(58)

قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الْزِيْنَةِ وَأَنْ يُخْشَى النَّاسُ ضُحَى ﴿٥٩﴾ فَتَوَلَّ

Qaala maw'idukum yawmuz zeenati wa ai yuhsharan naasu duhaa(59) Fatawallaa

فِرْعَوْنُ فَجَمِعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَتَى ﴿٦٠﴾ قَالَ لَهُمْ مُوسَى وَيَلْكُمْ لَا تَفْتَرُوا

Fir'awnu fajjama'a kaidahoo summa ataa(60) Qaala lahum Moosaa wailakum laa taftaroo

عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَيُسْحِرَكُمْ بِعَذَابٍ وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرَى ﴿٦١﴾

'alal laahi kaziban fa yus hitakum bi 'azaab, wa qad khaaba manif taraa(61)

فَتَنَازَعُوا أَمْرُهُمْ بَيْنَهُمْ وَآسَأُوا النَّجْوَى ﴿٦٢﴾ قَالُوا إِنْ هُذِينَ

Fatanaaza'oo amrahum bainahum wa asarrun najwaa(62) Qaalooo in haaazaani

لَسْحَانِيْنِ يُرِيدُنَ أَنْ يُخْرِجُكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِمَا وَيَذْهَبَا بِطَرْيُقِتِكُمْ

lasaahiraani yureedaani ai yakhrijaakum min ardikum bisihrihimaa wa yazhabaa bitareeqatikum

الْمُشْلِلِ ﴿٦٣﴾ فَاجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ ائْتُوا صَفَاً وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ

muslaa(63) Fa ajmi'o kaidakum summima'too saffaa; wa qad aflahal yawma manis

اسْتَعْلَى ﴿٦٤﴾ قَالُوا يَمْوُسَى إِمَّا أَنْ تُلْقِي وَإِمَّا أَنْ تَكُونَ أَوَّلَ

ta'laa(64) Qaaloo yaa Moosaaa immaaa an tulqiya wa immaaa an nakoona awala

مَنْ الْقُلُّ ﴿٦٥﴾ قَالَ بَلْ الْقُلُوْا فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِّيُّهُمْ يُخَيِّلُ

man alqaa(65) Qaala bal alqoo fa izaa hibaaluhum wa 'isiyyuhum yuhaiyalu

إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعِي ﴿٦٦﴾ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيْفَةً مُوسِي

ilaihi min sihrihim annahaa tas'aa(66) Fa awjasa fee nafsihii kheefatam Moosa(67)

قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَى ﴿٦﴾ وَالْأَنْقَ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفُ مَا

Qulnaa laa takhaf innaka antal'aalaa(68) Wa alqi maa fee yamee nika talqaf maa

صَنَعُوا طِ اِنْسَانًا صَنَعُوا كَيْدُ سَحْرٍ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَ ﴿٦٩﴾

sana'oo; innamaa sana'oo kai'du saahir; wa laa yuflihu saahiru haisu ataa(69)

فَأَلْقَى السَّحْرَةُ سُجَّدًا قَالُوا أَمَنَّا بِرَبِّ هَرُونَ وَمُوسَى ﴿٧٠﴾ قَالَ

Fa ulqiyas saharatu sujjadan qaalooyaa aamammaa bi Rabbi Haaroona wa Moosa(70) Qaala
امْنَتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ أَذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرٌ كُمُ الَّذِي عَلِمْتُمُ السِّحْرَ

aamantum lahoo qabla an aazana lakum; innahoo lakabeerukumul lazee 'allama kumus sihra

فَلَا قُطِعَنَّ أَيْدِيْكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خَلَافٍ وَلَا صَلِبَنَّكُمْ فِي

fala uqatt'i'anna aidiyakum wa arjulakum min khilaafinw wa la usallibannakum fee

جُذُوعَ النَّخْلِ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيْنَا أَشَدُ عَذَابًا وَأَبْتَقِي ﴿٧١﴾ قَالُوا لَنْ

juzoo'in nakhli wa lata'lumunna aiyunaaa ashaddu 'azaabanwa abqaa(71) Qaaloo lan
نُؤْثِرُكَ عَلَى مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالَّذِي فَطَرَنَا فَاقْضِي مَا أَنْتَ

nu'siraka 'ala maa jaaa'anaa minal baiyinataati wallazee fataranaa faqdimaa anta
قَاضِي اِنْسَاتَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ﴿٧٢﴾ إِنَّا أَمَنَّا بِرَبِّنَا يَغْفِرُ لَنَا

qaad; innamaa taqdeehaa haazihil hayaatad dunyaa(72) Innaa aamanna bi Rabbinaa liyaghfira lanaa
خَطِينَا وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ وَاللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْتَقِي ﴿٧٣﴾ إِنَّهُ

khataayaanaa wa maaa akrathtanaa 'alaihi minas sihr; wallahu khairun wa abqaa(73) Innahoo

مَنْ يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَبُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيِي ﴿٧٤﴾

mai ya'ti Rabbahoo mujriman fa inna lahoo Jahananma laa yamotoo feehaa wa laa yahyaa(74)

وَمَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصِّلْحَتِ فَأُولَئِكَ لَهُمُ الدَّرْجَتُ

Wa mai ya'tihee mu'minan qad 'amilas saalihiati fa ulaa'i'ka lahumud darajaatul

الْعُلُو ﴿٧٥﴾ جَنَّتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَرُ خَلِدِينَ فِيهَا

'ulaa'(75) Jannaatu 'Adnин tajree min tahtihal anhaaru khaalideena feehaa;

● عَلَقَ: اُونِ حَدَرَ مَهْرَ وَكِي، وَأَذْوَلِكَ الْفَكَ كَبَرَ لَهُمَا كَرَا
● مَنْزِلٌ ۝ تَقْلِيمَ: حَرْفٌ كَوْيِي لَهُنَّيْ آنِ كَوْمَارِكَنَّ
● مَكْوُرَ: الْفَكَ آذْوَلَ كَوْمَرَ حَرْجَي آنِ آذْوَلَ كَوْمَرَ (آنِ) مَيْسَيْ كَبَرَ حَرْجَي
● بَلْقَلْ: آنِ سَكَنَ آذْوَلَ كَوْمَرَ حَرْجَي آنِ آذْوَلَ كَوْمَرَ (آنِ) مَيْسَيْ كَبَرَ حَرْجَي
● مَقْلَلٌ .. تَعَنِ الْفَكَ كَبَرَ لَهُمَا كَرَا بَلْقَلْ كَبَرَ لَهُمَا كَرَا بَلْقَلْ

۲۰۲

وَذِلِكَ جَزُؤًا مِنْ تَزَكِّيٍّ ﴿٧﴾ وَلَقَدْ أُوحَيْنَا إِلِيْ مُوسَى ۖ أَنْ أَسْرِيْ

wa zaalika jazaaa'u man tazakka (section 3) (76) Wa laqad awhainaa ilaa Moosaa an asri

بِعِبَادِيْ فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرْيِقًا فِي الْبَحْرِ يَبْسَأْ لَا تَخْفُ دَرَكًا

bi'ibaadee fadrib lahumm tareeqan fil bahri yabasal laa takhaafu darakanw

وَ لَا تَخْشِيْ ﴿٨﴾ فَاتَّبِعْهُمْ فِرَّاعَنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيْهِمْ مِنْ الْيَمِّ

wa laa takhshaa(77) Fa atba'ahum Fir'awnu bijunoodihee faghashiyahum minal yammim

مَاغْشِيْهِمْ ﴿٩﴾ وَأَضْلَلَ فِرَّاعَنُ قَوْمَهُ وَمَاهِدِيْ يَبْنَيَ

maa ghashi yahum(78) wa adalla fir'awnu qawmahoo wa maa hadaa(79) Yaa Banee

إِسْرَاءً عَيْلَ قَدْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ عَدُوِّكُمْ وَعَدْنُكُمْ جَانِبَ الطُّورِ

Israaa'eela qad anjainaakum min 'aduw wikum wa wa'adnaakum jaanibat Tooril

الْأَيْنَ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلَوَى ﴿١٠﴾ كُلُوا مِنْ طَيْبَاتِ

aimana wa nazzalnaa 'alaikumul Manna was Salwaa(80) Kuloo min taiyibaati

مَا رَزَقْنَاكُمْ وَ لَا تَطْغُوا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَصَبٌ وَ مَنْ

maa razqaakum wa laa tatghaw feehe fa yahilla 'alaikum ghadabee wa mai

يَخْلِلُ عَلَيْهِ غَصَبٌ فَقَدْ هُوَيِ ﴿١١﴾ وَإِنِّي لَغَافِرٌ لِمَنْ تَابَ وَ

yahilil 'alaihi ghadabee faqad hawaa(81) Wa innee la Ghaffaarul liman taaba wa

امَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا شَمَّ اهْتَدَى ﴿١٢﴾ وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قُومِكَ

aamana wa 'amila saalihan summah tadaa(82) Wa maaa ajalaka 'an qawmika

يَمُوسَى ﴿١٣﴾ قَالَ هُمْ أُولَاءِ عَلَىٰ أَثْرَىٰ وَعِجْلَتْ إِلَيْكَ رَبُّ لِتَرْضِي

yaa Moosa(83) Qaala hum ulaaa'i 'alaaa asaree wa 'ajiltu ilaika Rabbi litardaa(84)

قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضْلَلْهُمُ السَّامِرِيُّ

Qaala fa innaa qad fatannaa qawmaka mim ba'dika wa adallahumus Saamiriyy(85)

فَرَجَعَ مُوسَى إِلِيْ قَوْمِهِ غَضِبًا أَسْفًا قَالَ يَقُومُ اللَّمَ يَعْدُكُمْ

Faraja's Moosaa ilaa qawmihee ghadbaana asifaa; qaala yaa qawmi alam ya'idkum

معنی: اون ڈریں مدد کی ادا کر لیکے برا بر لیکا کرنا

بلطفاً: اون ساکن اون خوش ہوں اور سکھ مانیں گے کے بھروسے (ب) ہوئی آؤ کوچھیم ساکن میں جیسا کچھ حدا

بھروسے: اون سب ساکن ایک الک کے برا بر لیکا کر کے پڑھانا ہے

بھروسے: ایک الک کے برا بر لیکا کے پڑھانا ہے

رَبُّكُمْ وَعْدًا حَسَنًا أَفَطَالَ عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ أَمْ أَرَدْتُمْ أَنْ يَحِلَّ عَلَيْكُمْ

Rabbukum wa'dan hasanaa; afataala 'alaikum 'ahdu am arattum ai yahilla 'alaikum

غَصَبٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ فَاخْلَفْتُمْ مَوْعِدِي ﴿٨٦﴾ **قَالُوا مَا أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكُمْ**

ghadabum mir Rabbikum fa akhlaftum maw'idee(86) Qaaloo maaa akhlaafnaa maw'idaka

بِئْلِكُنَا وَلِكُنَا حُبِّلْنَا أَوْ زَادَ مِنْ زِينَةِ الْقَوْمِ فَقَدْ فُنِّهَا فَكَذِلِكَ

bimalkinna wa laakinna hummilnaaa awzaaram min zeenatil qawmi faqazafnaahaa fakazaalika

أَلَقِ السَّامِرِيُّ ﴿٨٧﴾ **فَأَخْرَجَ لَهُمْ عَجْلًا جَسَدَ اللَّهِ خَوَارِفَ قَالُوا**

alqas Saamiriyy(87) Fa akhraja lahum 'ijlan jasad al lahu khuwaarun faqaaloo

هُذَا إِلَهُكُمْ وَإِلَهُ مُوسَىٰ فَنَسِيَ ﴿٨٨﴾ **أَفَلَا يَرَوْنَ أَلَا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ**

haazaaa ilaahukum wa ilaahu Moosaa fanasee(88) Afalaa yarawna allaa yarji'u ilaihim

قَوْلًا لَا يَأْتِيكُلُ لَهُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا ﴿٨٩﴾ **وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَرُونُ**

gawlanw wa laa yamliku lahum darranw wa laa naf'aa (section 4) (89) Wa laqad qaala lahum Haaroonu

مِنْ قَبْلِ يَقُومُ إِنَّمَا فَتَتَّهُمْ بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي

min qablu yaa qawmi innamaa futintum bihee wa inna Rabbakumur Rahmaanu fattabi'oonee

وَأَطِيعُوا أَمْرِي ﴿٩٠﴾ **قَالُوا لَنْ نَبْرَأْحَ عَلَيْهِ عَكِيفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَا**

wa atee'ooo amree(90) Qaaloo lan nabraha 'alaihi 'aakifeena hattaa yarji'a ilainaa

مُوسَىٰ ﴿٩١﴾ **قَالَ يَهُرُونُ مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوا** ﴿٩٢﴾ **أَلَا تَتَّبِعُنِ**

Moosaa(91) Qaala Yaa Haaroonu maa mana 'aka iz ra aitahum dalloo(92) Allaa tattabi'anii

أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي ﴿٩٣﴾ **قَالَ يَبْنُؤُمَ لَا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِي وَلَا بِرُّسُمي**

afa'asaita amree(93) Qaala yabna'umma laa taakhuz bilihyatee wa laa biraasee

إِنْ خَشِيتُ أَنْ تَقُولَ فَرَقْتَ بَيْنَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَمْ تَرْقُبْ

innee khashetu an taqoola farraqta baina Baneee Israa'eela wa lam tarqub

قُولِيٰ ﴿٩٤﴾ **قَالَ فَمَا حَطْبُكَ يَسَامِرِيُّ** ﴿٩٥﴾ **قَالَ بَصْرَتُ بِسَالَمُ يَبْصُرُوا**

qawlee(94) Qaala famaa khatbuka yaa Saamiriyy(95) Qaala basurtu bimaa lam yabsuroo

﴿٩٦﴾ قَالَ آتُونَهُ دَارِيْسَمْ مَهْدَى وَكَلْمَانَهُ دَارِيْلَكَ الْفَكَرَ كَرَنَا

﴿٩٧﴾ مَنْزِلٌ ۝ تَقْلِيمَهُ: حروف کو پر لکھی آئی اور کوچھ رکھنا۔ قَلْقِلَهُ: حروف کو پر لکھی آئی اور کوچھ رکھنا۔

﴿٩٨﴾ بَلْخَاهُ: قوان ساکن اور بخوبی زیر بیوی آئی اور حرف میں بخوبی زیر بیوی آئی۔

﴿٩٩﴾ جَهَنَّمُ: اس سب ساریں اپنے الک کے برادر لہا کر کے پڑھتا ہے جبکہ پیش میں کے

بِهِ فَقَبَضْتُ قَبْصَةً مِنْ أَثْرِ الرَّسُولِ فَنَبَذْتُهَا وَكَذَلِكَ سَوَّلْتُ

bihee faqabadtu qabdattam min asarir Rasooli fanabaztuhaa wa kazaaliqa sawwalat

لِي نَفْسِي ﴿٩٦﴾ قَالَ فَأَذْهَبْ فَإِنَّكَ فِي الْحَيَاةِ أَنْ تَقُولُ لَا مِسَاسَ

lee nafsee(96) Qaala fazhab fa inna laka fil hayaati an taqoola laa misaasa

وَإِنَّكَ مَوْعِدًا لَنْ تُخْلِفَهُ وَإِنْظُرْ إِلَى إِلَهِكَ الَّذِي قَلْتَ

wa inna laka maw'idal lan tukhlafahoo wanzur ilaaa ilaahikal lazee zalta

عَلَيْهِ عَاكِفًا لَنْحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ نَتَسْفِنَهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا ﴿٩٧﴾ إِنَّا

'alaahi 'aakifaa; lanuharriqannahoo summa lanansifanahoo fil yammi nastfaa(97) Innamaaa

إِلَهُكُمُ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا ﴿٩٨﴾ كَذَلِكَ

ilaahukkumul laahul lazee laa ilaaha illaa Hoo; was'i'a kulla shai'in ilmaa(98) Kazaalika

نَقْصٌ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ مَا قَدْ سَبَقَ وَقَدْ أَتَيْنَكَ مِنْ لَدُنَّا

naqssu 'alaika min ambaaa'i maa qad sabaq; wa qad aatainaaka mil ladunnaa

ذَكْرًا ﴿٩٩﴾ مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وِزْرًا

Zikraa(99) Man a'rada 'anhу, fa innahoo yahmilu Yawmal Qiyaamati wizraa(100)

خَلِدِينَ فِيهِ وَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ حَمْلًا ﴿١٠٠﴾ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي

Khaalidinaa feehi wa saaa'a lahum Yawmal Qiyaamati himlaa(101) Yawma yunfakuu fis

الصُّورَ وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَ مِيزِزُرْقَا ﴿١٠٢﴾ يَتَخَافَّتُونَ بَيْنَهُمْ

soori wa nahshurul mujrimeena Yawma 'izin zurqaa(102) Yatakhafatoona bainahum

إِنْ لَيْشْتُمْ إِلَّا عَشَّا ﴿١٠٣﴾ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ أَمْشَلُهُمْ

il labistum illaa 'ashraa(103) nahnu a'lamu bimaa yaqooloona iz yaqolu amsaluhum

طَرِيقَةً إِنْ لَيْشْتُمْ إِلَّا يَوْمًا ﴿١٠٤﴾ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ

tareeqatan illabistum illaa yawmaa (section 5) (104) Wa yas'aloonaka 'anil jibaali faqul

يَسِفْهَا رَبِّ نَسْفًا ﴿١٠٥﴾ فَيَذْرُهَا قَاعًا صَفَصَفًا ﴿١٠٦﴾ لَا تَرَى فِيهَا

yansifuhaa Rabbee nasfaa(105) Fa yazaruhaa qaa'an safsafa(106) Laa taraa feehaa

مُتَّقَّدٌ: اُونِي هادِرِ سِمْ هَدَرِ اُونِي هَادِرِ الْفَكَرَ كَرَ

مُتَّقَّدٌ: حَرْفُ كُوپِي لَتْهَيْ آنِي هَادِرِ مَكَنْ

عِوْجَاجٌ وَ لَا أَمْتَأٌ ﴿١٠٧﴾ يَوْمَ إِذْ يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ لَا عِوْجَاجَهُ وَ خَشَعَتِ

'iwajajn wa laaa amtaa(107) Yawma iziny yattabi'oonad daa'iya laa 'iwaja laooo wa khashaatil

الْأَصْوَاتُ لِلَّهِ حِينَ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا ﴿١٠٨﴾ يَوْمَ إِذْ لَا تَفْعَلُ

aswaatu lir Rahmaani falaa tasma'u illaa hamsaa(108) Yawma 'izil laa tanfa'ush

الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذْنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَ رَضِيَ لَهُ قَوْلًا ﴿١٠٩﴾ يَعْلَمُ

shafaa'atu illaa man azina lahu Rahmaanu wa radiya laooo qawlaa(109) Ya'lamu

مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَ مَا خَلْفُهُمْ وَ لَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا ﴿١١٠﴾ وَ عَنْتَ

maa bainaa aideehim wa maa khalfahum wa laa yuheetoona bihee 'ilm(a)(110) Wa 'anatil

الْوُجُوهُ لِلَّهِ الْقَيُومُ طَ وَ قَدْخَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا ﴿١١١﴾ وَ مَنْ

wujoohu lil Haiiyil Qaiyoomi wa qad khaaba man hamala zulmaa(111) Wa mai

يَعْمَلُ مِنَ الصِّلْحَاتِ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخْفُ ظُلْمًا وَ لَا هَضْمًا ﴿١١٢﴾

ya'mal minas saalihaati wa huwa mu'min falaa yakhaafu zulman wa laa hadmaa(112)

وَ كَذِيلَكَ أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَ صَرَفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ

Wa kazaalika anzalnaahu Qur-aanan 'Arabiyyan wa sarrafnaa fee hi minal wa'eedi

لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحَدِّثُ لَهُمْ ذَكْرًا ﴿١١٣﴾ فَتَعْلَمَ اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ

la'allahum yattaqoona aw yuhaddithuhum zikraa(113) Fata'alal laahul Malikul Haqq;

وَ لَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَ حِيَةٌ وَ قُلْ

wa laa ta'jal bil Quraani min qabli ai yuqdaa ilaika wahyuuhoo wa qur

رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا ﴿١١٤﴾ وَ لَقَدْ عَهَدْنَا إِلَى آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَ

Rabbi zidnee 'ilm(a)(114) Wa laqad 'ahidnaa ilaaa Aadama min qablu fanasiya wa

لَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا ﴿١١٥﴾ وَ إِذْ قُلْنَا لِلَّهِ الْمَلِكِ اسْجُدُوا إِلَادَمَ فَسَجَدُوا

lam najid laooo 'azmaa (section 6) (115) Wa iz qulnaa lilma laaa'ikatis judoo li Aadama fasajadoo

إِلَّا إِبْلِيسَ أَبِي ﴿١١٦﴾ فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُولُكَ وَ لِزَوْجِكَ فَلَا

illaaa Ibleesa; abaa(116) Faqulnaa yaaa Aadamu inna haazaa 'aduwuwul laka wa lizawjika falaa

منزل ۲: اونوں مدد اور سکھ دیکی اور اذوکیں اپنے کارہیں کرتا

کوئی راستی اور کوئی ریکھیں: جو روپ کو پیر یعنی آدمی اور کوئی ریکھیں: جو کوئی آدمی کو پیر کرنے کے لئے اپنے کارہیں کرتا

بیٹھ جائیں: اس سب سے اپنے کارہیں کرنے کے لئے اپنے کارہیں کرنے کے

پانی: ... تمیں اپنے کارہیں کرنے کے لئے اپنے کارہیں کرنے کے پانیاں اپنے کارہیں کرنے کے پانیاں اپنے کارہیں کرنے کے

يُخْرِجُنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْفَعُونَ ﴿١١٤﴾ إِنَّ لَكُمْ أَلَّا تَجُوعُونَ فِيهَا وَ

yukhrrijan nakumaa minal Jannati fatashqaa(117) Innaa laka allaa tajoo'a feeha wa

لَا تَعْزَرُونَ ﴿١١٥﴾ وَأَنَّكُمْ لَا تُظْمَئُونَ فِيهَا وَلَا تَضْحَى

Fawwasas aliyeh laa ta'raa(118) Wa annaka laa tazma'u feehaa wa laa tadhaa(119) Fa waswasa ilaihish

الشَّيْطَنُ قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَدْلُكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكِ لَأَيْمَلِ ﴿١٢٠﴾

Shaitaanu qaala yaaa Aadamu hal adulluka 'alaa shajaratil khului wa mulki laa yablaa(120)

فَأَكَلَّ مِنْهَا فَبَدَأْتُ لَهُمَا سَوَّاتُهُمَا وَ طَفِقَا يَخْصِفُنَ عَلَيْهِمَا مِنْ

Fa akala minhaa fabadat lahumaa saw aatu humaa wa tafiqaa yahsifaani 'alaihimaa minw

وَرَقِ الْجَنَّةِ وَعَطَى أَدْمُ رَبَّهُ فَغَوَى ﴿١٢١﴾ شَمْ اجْتَبَهُ رَبُّهُ

waraqil jannah; wa 'asaaa Aadamu Rabbahoo faghawaa(121) Summaj tabbahu Rabbuhoo

فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى ﴿١٢٢﴾ قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَبِيعًا بَعْضُكُمْ لِيَعْسُ

fataaba 'alaihi wa hadaa(122) Qaalah bita minhaa jamee'am ba'dukum liba'din

عَدُوٌ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنْهُمْ هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدًى إِنَّ فَلَأَيْضَلُ ﴿١٢٣﴾

'aduww; fa immaa ya'tiyannakum minnee hutan famanit taba'a hudaaya falaa yadillu

وَلَا يَشْقَى ﴿١٢٤﴾ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً حَسْنَكَا وَ

wa laa yashqaa(123) Wa man a'rada 'an Zikree fa inna lahoo ma'eeshatan dankanw wa

نَحْشُرُكُمْ إِلَيْنَا يَوْمَ الْقِيَمَةِ أَعْمَى ﴿١٢٥﴾ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ

nahshuruhoo Yawmal Qiyaamatii a'maa(124) Qaalaa Rabbi lima hashar tanee a'maa wa qad

كُنْتُ بَصِيرًا ﴿١٢٦﴾ قَالَ كَذَلِكَ أَتَتَكَ أَيْتُنَا فَنِسِيَّتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ

kuntu baseeraa(125) Qaalaa kazaalika atatka Aayaatunaa fanaseetahaa wa kazaalikal Yawma

تُنْسَى ﴿١٢٧﴾ وَكَذَلِكَ نَجْزِيُّ مَنْ أَسْرَافَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِاِيمَانِ رَبِّهِ

tunsaa(126) Wa kazaalika najzee man asrafa wa lam yu'mim bi Aayaati Rabbih;

وَلَعْذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُ وَأَبْقَى ﴿١٢٨﴾ أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كُمْ أَهْلَكُنَا قَبْلَهُمْ

wa la'azaabul Aakhirati ashaddu wa abqaa(127) Afalam yahdi lahum kam ahlaknaa qablhum

مِنَ الْقُرُونِ يَعْشُونَ فِي مَسِكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّا يُؤْلِمُ

minal qurooni yamshoona fee masaakinihim; inna fee zaalika la Aayaatil li

النَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ ﴿١٢٩﴾ وَلَوْلَا كَلِمَةً سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَكَانَ لِزَاماً وَأَجَلٌ مُّسَيٌّ

ulinnuhaa (128) Wa law laa Kalimatun sabaqat mir Rabbika lakaana lizaamanw wa ajalum musammaa(129)

فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَيَّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ

Fasbir 'alaa maa yaqooloona wa sabbih bihamdi Rabbika qabla tuloo'ish shamsi

وَقَبْلَ غُرْبَهَا وَمِنْ أَنَاءِ الْيَلَى فَسَيِّحٌ وَأَطْرَافُ النَّهَارِ لَعَلَّكَ

wa qabla ghuroobihaa wa min aanaaa'il laili fasabbih wa atraafan naхаari la 'allaka

١٢٠ تَرْضِي وَلَا تَهْدَن عَيْنِيكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ

tardaa(130) Wa laa tamuddanna 'ainaika ilaa ma matta'na biheee azwajam minhum

زَهْرَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتَنِهِمْ فِيهِ وَرِزْقٌ رِّبَكَ حَيْدُرٌ وَأَبْقَى

zahratal hayaatid dunya linaftinahum feeh; wa rizqu Rabbika khairunw wa abqaa(131)

وَأَمْرُ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَأَضْطَبَ عَلَيْهَا لَا نَسْئَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ

Waamur ahlaka bis Salaati wastabir 'alaihaa la nas'aluka rizqaa; nahnu

نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلْتَّقِوِيِّ ﴿١٣٢﴾ **وَقَالُوا لَوْلَا يَأْتِنَا بِآيَةٍ مِّنْ رَّبِّهِ**

narzuq; wal 'aaqibatu littaqwaa(132) Wa qaalo law laa ya'teenaa bi Aayatim mir Rabbih;

أَوَلَمْ تَأْتِهِمْ بَيْنَةٌ مَا فِي الصُّحُفِ الْأُولَىٰ ۝ وَلَوْا نَآهُلُكُنَّهُمْ ۝

awalam ta'tihim baiyinatu maa fis suhafil oolaa(133) Wa law annaaa ahlaknaahum

بِعْدَ اِبْرَاهِيمَ قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبُّنَا لُوَّا اَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعُ

bi'azaabim min qablihee laqaaloo Rabbanaa law laaa arsalta ilainaa Rasoolan fanattabi'

اٰیتِ کَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُذَلَّ وَنَخْزَى ﴿١٣٣﴾ قُلْ كُلُّ مُتَرَبِّصٍ فَتَرَبَّصُوا

Aayaatika min qabli an nazilla wa nakhzaa(134) Qul kullum mutarabbisun fatarabbasoo

فَسَتَعْلَمُونَ مِنْ أَصْحَابِ الْصَّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنِ اهْتَدَى

١٢

إِلَيْهَا

ذُو نَعْثَاثَةٍ

٧

١٢

إِلَيْهَا

ذُو نَعْثَاثَةٍ

١٢

مُكَبَّةٌ

سُورَةُ الْأَنْبِيَاءِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Bismillaahir Rahmaanir Raheem

إِقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَ هُمْ فِي غَفْلَةٍ مُّعَرِّضُونَ

Iqtaraba linnaasi hisaabuhum wa hum fee ghaflatim mu'ridoon(1)

مَا يَأْتِيهِمْ مِّنْ ذِكْرٍ مِّنْ رَّبِّهِمْ مُّحَدَّثٌ إِلَّا اسْتَمَعُوهُ وَ

Maa ya'teihim min zikrim mir Rabbihim muhdasin illas tama'oohu wa

هُمْ يَلْعَبُونَ لَا هِيَةٌ قُلُوبُهُمْ وَ أَسَرُّهُمْ وَ النَّجْوَى فِي الَّذِينَ

hum yal'aboon(2)Laahiyatan quloobuhum; wa asarrun najwal lazeena

ظَلَمُوا هُلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ أَفَتَأْتُونَ السِّحْرَ وَ أَنْتُمْ

zalamoo hal haazaaa illaa basharum mislukum 'afa ta'toonas sihra wa antum

تُبَصِّرُونَ قَلْ رَبِّيْ يَعْلَمُ الْقَوْلَ فِي السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ

tubsiroon(3)Qaala Rabbee ya'lamul qawla fis samaaa'i wal ardi

وَ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ بَلْ قَالُوا أَضْغَاثُ أَحْلَامٍ بَلْ

wa Huwas Samee'u'l 'Aleem(4)Bal qaaloosu adghaasu ahlamaan bal

أَفْتَرَاهُ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ فَلِيَأْتِنَا بِآيَةٍ كَمَا أَرْسَلَ الْأَوَّلُونَ

iftaraahu bal huwa shaa'irun fal ya'tinaa bi Aayatin kamaa ursilal awwaloon(5)

مَا آمَنَتْ قَبْلَهُمْ مِّنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكُنَّهَا أَفَهُمْ

Maaa aaamanat qablum min qaryatin ahlaknaahaa a-fahum

يُؤْمِنُونَ وَ مَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِيَ إِلَيْهِمْ

yu'minoon(6)Wa maaa arsalnaa qablaka illaa rijaalan noohee ilaihim

فَسَأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ وَ مَا جَعَلْنَاهُمْ

fas'aloo ahlaaz zikri in kuntum laa ta'lamoona(7)Wa maa ja'alnaahum

منزل ٢ تَقْرِيرِيْم: حروف کو پڑیں جیکے براہم کرنا
بلکہ، ہون سائیں اور سیم سائیں جس کے لئے (ب) ہوئی آؤکھیش (ت) میں جیچا کر جائے
بُلْ .. تمیں الگ کے براہم پائیں الگ کے براہم کر کے پڑھا جائے

جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَ مَا كَانُوا خَلِدِينَ ٢٩

jasadal laa ya'kuloon ta'aama wa maa kaanoo khaalideen(8)Summa

صَدَقْنَاهُمُ الْوَعْدَ فَإِنْجَيْنَاهُمْ وَ مَنْ نَشَاءُ وَ أَهْلَكُنَا

sadaqnaa humul wa'da fa-anjainaahum wa man nashaa'u wa ahlaknal

الْمُسْرِفِينَ ٣٠ لَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتْبًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ

musrifeen(9)Laqad anzalnaa ilaikum Kitaaban feehi zikrukum

أَفَلَا تَعْقِلُونَ ٣١ وَ كُمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ قَالِمَةً

afalaa ta'qiloon(10)Wa kam qasamnaa min qaryatin kannat zaalimatanw

وَ أَنْشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا أَخْرَى ٣٢ فَلَمَّا أَحْسُوا بَاسْنَا إِذَا هُمْ

wa ansha' naa ba'daha qawman aakhareen(11)Falammaa ahassoo ba'sanaaa izaa hum

مِنْهَا يَرْكُضُونَ ٣٣ لَا تَرْكُضُوا وَ ارْجِعُوا إِلَى مَا أُتْرِفْتُمْ فِيهِ

minhaa yarkudoon(12)Laa tarkudoo warji'oou ilaa maaa utrifnum feehe

وَ مَسِكِنِنُكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلُونَ ٣٤ قَالُوا يُوَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَلَمِينَ ٣٥

wa masakinukum la'allakum tus'aloon(13)Qaaloo yaa wailanaaa innaa kunnaa zaalimeen(14)

فَمَا زَالَتْ تِلْكَ دَعْوَاهُمْ حَتَّى جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا خَمِدِينَ ٣٦

Famaa zaalat tilka da'waahum hattaa ja'alnaahum haseedan khaamideen(15)

وَ مَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَ الْأَرْضَ وَ مَا بَيْنَهُمَا لِعِبِينَ ٣٧ لَوْا رَدَنَا

Wa maa khalaqnas samaaa'a wal arda wa maa bainahumaa laa ibeen(16)Law aradnaaa

أَنْ تَتَخَذَ لَهُوا لَا تَخْذُنَهُ مِنْ لَدُنَّا ٣٨ إِنْ كُنَّا فَعِيلِينَ ٣٩ بَلْ

an nattakhiza lahwal lat takhaznaahu mil ladunnaaa in kunnaa faa'ileen(17)Bal

نَقْدِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ ٤٠ وَ

naqzifu bilhaqqi 'alal baatili fa yadmaghuhoo fa izaa huwa zaahiq; wa

لَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصْفُونَ ٤١ وَ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ

lakum wailo mimmaa tasifoon(18)Wa lahoo man fis samaawaati

مُنْزَلٌ ٢٩: اُولیٰ هَذِهِ اور سِمْعَهُ دُكَّیٰ اور اُولیٰ الْفَلْكَ کے برپا رہا کرنا

مُنْزَلٌ ٣٠: تَقْرِيمٌ: حروف کو پر یعنی آئندگانی اور کوچکی کرنے کا معنی ہے۔

مُنْزَلٌ ٣١: اُولیٰ الْفَلْکَ اور سِمْعَهُ اور سِمْعَهُ کا من میں کے بھروسے (ب) یا اُولیٰ الْفَلْکَ (ت) میں صحیح کرچا

مُنْزَلٌ ٣٢: اُولیٰ الْفَلْکَ کے برپا رہا کر کے پڑھا جائے۔

وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ ٢٩

wal ard; wa man 'indahoo laa yastakbiroona 'an 'ibaada tihee wa laa yastahsiroon(19)

يُسَيِّحُونَ الَّيْلَ وَ النَّهَارَ لَا يَفْتَرُونَ ٢٠ أَمْ اتَّخَذُوا إِلَهَةً

Yusabbihoona laila wannahaara laa yafturoon(20)Amit takhazooo aalihatan

مِنَ الْأَرْضِ هُمْ يُمْشِيُونَ ٢١ لَوْ كَانَ فِيهِمَا إِلَهٌ

minal ardi hum yunshiroon(21)Law kaana feehimaaa aalihatan

إِلَّا إِلَهٌ لَفَسَدَتَا فَسُبِّحُنَ اللَّهَ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصْفُونَ ٢٢

illal laahu lafasadataa; fa-Subhaanal laahi Rabbil 'Arshi 'ammaa yasifoon(22)

لَا يُسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَ هُمْ يُسْئَلُونَ ٢٣ أَمْ اتَّخَذُوا مِنْ

Laa yus'alu 'ammaa yaf'alu wa hum yus'aloon(23)Amit takhazoo min

دُونَهُ إِلَهٌ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ هَذَا ذَكْرٌ مِنْ مَعِينَ ٢٤

doonihee aalihatan qul haatoo burhaanakum haaza zikru mam ma'iya

وَ ذَكْرٌ مِنْ قَبْلِنِي بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ٢٥ الْحَقُّ

wa zikru man qablee; bal aksaruhum laa ya'lamoona haqqa

فَهُمْ مُعَرِّضُونَ ٢٦ وَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ

fahum mu'ridoon(24)Wa maaa arsalnaa min qablka mir Rasoolin

إِلَّا نُوحٌ إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ ٢٧ وَقَالُوا اتَّخَذَ

illaa nooheeeli alaihi annahoo laaa ilaaha illaaa Ana fa'budoon(25) Wa qaalut takhazar

الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبِّحْنَهُ ٢٨ بَلْ عِبَادُ مُكَرَّمٍ مُؤْنَ ٢٩ لَا يَسْبِقُونَهُ

Rahmaanu waladaa; Subhaanahu bal 'ibaadum mukramoon(26)Laa yasbiqoonahoo

بِالْقَوْلِ وَ هُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ ٣٠ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ

bil qawli wa hum bi amrihee ya'maloon(27)Ya'lamu maa baina aideehim

وَ مَا خَلْفُهُمْ وَ لَا يَشْفَعُونَ ٣١ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى وَ هُمْ مِنْ ٣٢

wa maa khalfahum wa laa yashfa'a oona illaa limanir tadaa wa hum min

● نقاش: اونو هدھے اور سکھھ دیکھی اداڑا کیا۔ الف کے برادر لامہ کرنا

● بالغ: تون ساکن اداڑا کوئی جو بیکاری آئندگانی پاٹھیں کے بعد (بے ہوئی) آؤ کوئی خوشیم (تاک) میں جیسا کچھ حدا

● بیٹھیں: اس سب سے بڑی کیا کے برادر لامہ کے پاٹھانہ اجنبی ہے

حَشِّيَّتِهِ مُشْفِقُونَ ٢٨ وَمَنْ يَقُلُّ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ مِنْ

khash yatihee mushfiqoon(28)Wa mai yaqul minhum innee ilahum min

دُونِهِ فَذِلَّكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ طَ كَذِلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ ٢٩

doonihee fazaalika najzehi Jahannam; kazaalika najziz zaalimeen (section 2) (29)

أَوْ لَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّيْوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا

Awalam yaral lazeena kafarooo annas samaawaati wal arda kaanataa

رَتْقًا فَفَتَّقْنَاهُمَا طَ وَجَعَلْنَا مِنَ الْبَاعِثِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ ط

ratqanfafataqnaa humaa wa ja'alnaa minal maaa'i kulla shai'in haiyin

أَفَلَا يُؤْمِنُونَ ٣٠ **وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَّ أَنْ تَبِعَدُهُمْ**

afalaa yu'minoon(30)Wa ja'alnaa fil ardi rawaasiya an tameeda bihim

وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبْلًا لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ٣١

wa ja'alnaa feehaa fijajaa subulal la'allahum yahtadoon(31)

وَجَعَلْنَا السَّيَّاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا طَ وَ هُمْ عَنِ اِيْتَهَا

Wa ja'lnas samaaa'a saqfam mahfoozanw wa hum 'an Aayaatihaa

مُعْرِضُونَ ٣٢ **وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ الْيَلَى وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ**

mu'ridoon(32)Wa Huwal lazee khalaql laila wannahaara washshamsa

وَالْقَمَرَ كُلُّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ ٣٣ **وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرًا مِنْ**

wal qamara kullun fee falakiny yasbahoon(33) Wa maa ja'alnaa libasharim

قَبِيلَكَ الْخُلْدَ أَفَلَيْ مِتَّ فَهُمُ الْخَلِدُونَ ٣٤ **كُلُّ نَفْسٍ**

min qabilkal khuld; afa immitta fahumul khalidoon(34)Kullu nafsin

ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً طَ وَإِلَيْنَا

zaaa'iqatal mawt; wa nablookum bi sharri walkhairi fitnatanw wa ilainaa

تُرْجَعُونَ ٣٥ **وَإِذَا رَأَكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا**

turja'oon(35)Wa izaa ra aakal lazeena kafarooo iny-yattakhizoonaka illa

هُرُواٰ طَ أَهْذَا الَّذِي يَذْكُرُ الْهَتَّكُمْ ۚ وَ هُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ

huzuwan; ahaazal lazee yazkuru aalihatakum wa hum bi zikrillah Rahmaani

هُمْ كُفَّارٌ ۖ ۝ خُلُقُ الْإِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ ۖ سَأُورِيْكُمْ أَيْقُونِيْ

hum kaafiroon(36)Khuliqal insaanu min 'ajal; sa ureekum Aayaatee

فَلَا تَسْتَعْجِلُوْنَ ۝ وَ يَقُولُوْنَ مَتَىٰ هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ

falaatasta'jiloon(37)Wa yaqooloona mataa haazal wa'du in kuntum

صَدِيقِيْنَ ۝ لَوْ يَعْلَمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوا حِينَ لَا يَكْفُونَ عَنْ

saadiqueen(38)Law ya'lamlu lazeena kafaro heena laa yakuffoona 'anw

وَ جُوْهِيْمُ النَّارَ وَ لَا عَنْ ظُهُورِهِمْ وَ لَا هُمْ يُنْصَرُوْنَ

wujoohihim Naara wa laa 'an zuhorihim wa laa hum yunsaroon(39)

بَلْ تَأْتِيْهِمْ بَعْثَةً فَتَبَهَّهُمْ فَلَا يَسْتَطِيْعُوْنَ رَدَّهَا وَ

Bal ta'teem baghtatan fatabhatuhum falaat yastatee'oona raddaha wa

لَا هُمْ يُنْظَرُوْنَ ۝ وَ لَقِدِ اسْتُهْزِيْأَ بِرُسُلِ مِنْ قَبْلِكَ

laa hum yunzaroon(40)Wa laqadis tuhzi'a bi-Rusulim min qablka

فَحَاقَ بِالَّذِيْنَ سَخِيْرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِيْعُوْنَ

fahaaqa billazeena sakhiroo minhum maa kaanoo bihee yastahzi'oon (section 3) (41)

قُلْ مَنْ يَكْلُوْكُمْ بِالَّيْلِ وَ النَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَنِ ۖ بَلْ هُمْ

Qul mai yakla 'ukum billaili wannahaari minar Rahmaan; bal hum

عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِمْ مُعْرِضُوْنَ ۝ أَمْ لَهُمْ إِلَهٌ ثَئِنَعُوْهُمْ مِنْ

'an zikri Rabbihim mu'ridoon(42)Am lahum aalihatun tamna'uhum min

دُونَنَا ۖ لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ نَصَرَ أَنْفُسِهِمْ وَ لَا هُمْ مِنَّا

dooninaa; laa yastatee'oona nasra anfusihim wa laa hum minna

يُضَحِّبُوْنَ ۝ بَلْ مَتَّعْنَا هُؤُلَاءِ وَ أَبَاءَهُمْ حَتَّىٰ طَالَ عَلَيْهِمْ

yus-haboon(43)Bal matta'naa haaa'ulaa'i wa aabaaa'ahum hattaa taala 'alaihimul

منزل ٢٧ تَفْسِيْر: حروف کو پڑھنی آئیں اور کوہا رکھنا۔ قافیہ: حروف کو پڑھنی آئیں اور کوہا رکھنا۔ مکون: حروف کو پڑھنی آئیں اور کوہا رکھنا۔ مکون کو کوہا کو کہا جائے۔ مکون ساکن اور کوہا ساکن ہیں کے مقابلے میں (ب) ہوئی آئیں اور کوہا کوہا (ت) میں بھی کوہا جائے۔ مکون کوہا کوہا کوہا جائے۔ ان سب ہیں اپنے الگ کے برادر لہا کر کے پڑھنا اچھا ہے۔

الْعُمُرُ ط أَفَلَا يَرَوْنَ أَنَّا نَأْتِ الْأَرْضَ نَسْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا

'umur; afalaa yarawna anna na'til arda nanqusuhaa min atraafihaa;

أَفَهُمُ الْغُلَبُونَ ٤٤ قُلْ إِنَّا أَنْذِرْكُمْ بِالْوَحْيٍ وَلَا يَسْعُ� الصُّمُّ

afahum ghaaliboon(44) Qui immamaaa unzirukum bilwahyi; wa laa yasma'us summud

الْدُّعَاءُ إِذَا مَا يُنْذَرُونَ ٤٥ وَلَئِنْ مَسْتُهُمْ نَفْحَةٌ مِنْ

du'aa'a 'a izaa maa yunzaroon(45)Wa la'in massat hum nafhatun min

عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يُوَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَلَمِينَ ٤٦ وَنَصَاعُ

'azaabi Rabbika la yaqoolunna yaawailanaaa innnaa kunnaa zaalimeen(46)Wa nad'a ul

الْمَوَازِينَ الْقُسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَمَةِ فَلَا تُظْلِمُ نَفْسَ شَيْئًا وَ

mawaazeen qista li Yawmil Qiyaamati falaa tuzlamu nafsun shai'aa; wa

إِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَاهَا وَكَفَى بِنَا

in kaana misqaala habbatim min khardalin atainaah bihaa; wa kafaa binaa

خَسِيبِينَ ٤٧ وَلَقَدْ أَتَيْنَا مُوسَى وَهُرُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً

haasibeen(47)Wa laqad aatainaaa Moosa wa haaroonal Furqaana wa diyyaa'anw

وَ ذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ ٤٨ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَ هُمْ

wa zikral lilmuttaaqeen(48)Allazeena yakhshawna Rabbahum bilghaibi wa hum

مِنْ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ ٤٩ وَ هَذَا ذِكْرٌ مُبِّئٌ أَنْزَلْنَاهُ

minas Saa'ati mushfiqoon(49)Wa haazaa Zikrum Mubaarakun anzalnaah;

أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ ٥٠ وَلَقَدْ أَتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدًا

afa antum lahoo munkiroon (section 4) (50)Wa laqad aatainaaa Ibraheema rushdahoo

مِنْ قَبْلٍ وَ كُنَّا بِهِ عَلِمِينَ ٥١ إِذْ قَالَ لِإِبْرَاهِيمَ مَا

min qablu wa kunnaa bihee 'aalimeen(51)Iz qaala li abeehi wa qawmihee maa

هُذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَكِفُونَ ٥٢ قَالُوا

haazihit tamaaseelul lateee antum lahaa 'aakifoon(52) Qaaloo

مُتَّقٌ: اُولوٰ هَذِهِ اُورَسِمَتْهُ دِيْكٌ وَ اَذْوَالِكَ الْفَكَرَ كَرَأَ

مُنْكِرٌ: حَرْفٌ كَوْنِيٌّ بِتَحْتِ اَنْوَارِ الْمَكْرُورِ

مُنْكِرٌ: اُولوٰ هَذِهِ اُورَسِمَتْهُ دِيْكٌ وَ اَذْوَالِكَ الْفَكَرَ كَرَأَ

مُنْكِرٌ: اُولوٰ هَذِهِ اُورَسِمَتْهُ دِيْكٌ وَ اَذْوَالِكَ الْفَكَرَ كَرَأَ

مُنْكِرٌ: اُولوٰ هَذِهِ اُورَسِمَتْهُ دِيْكٌ وَ اَذْوَالِكَ الْفَكَرَ كَرَأَ

وَجَدْنَا أَبَاءَنَا لَهَا عِبَادِينَ ﴿٥٣﴾ قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ

wajadnaaa aabaaa'anaa lahaa 'aabideen(53)Qaala laqad kuntum antum

وَأَبَاوْكُمْ فِي ضَلَلٍ مُّبِينٍ ﴿٥٤﴾ قَالُوا أَجْعَنَنَا بِالْحَقِّ أَمْ أَنْتَ

wa aabaaa'ukum fee dalaalin mubeen(54)Qaalooo aji'tanaa bil haqqi am anta

مِنَ اللَّعِيْنِ ﴿٥٥﴾ قَالَ بَلْ رَبُّكُمْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ

minal laa'been(55)Qaala bar Rabbukum Rabbus samaawaati wal ardil

الَّذِي فَطَرَهُنَّ ۚ وَأَنَا عَلَى ذِلِكُمْ مِّنَ الشَّهِيدِيْنَ ﴿٥٦﴾ وَتَالَّهُ

lazee fatarahunna wa ana 'alaa zaalikum minash shaahideen(56)Wa tallaahi

لَا كِيْدَنَ أَشْنَامَكُمْ بَعْدَ أَنْ تُولُوا مُدْبِرِيْنَ ﴿٥٧﴾ فَجَعَلْتُهُمْ

la akeedanna asnaamakum ba'da an tuwalloo mudibreen(57)Faja'alahum

جُذْذَا إِلَّا كَيْرِيْدا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ ﴿٥٨﴾ قَالُوا مَنْ

juzaazan illaa kabeeral lahum la'allahum ilaihi yarji'oon(58)Qaaloo man

فَعَلَ هَذَا بِالْهَتِنَا إِنَّهُ لِيْنَ الظَّلِيمِيْنَ ﴿٥٩﴾ قَالُوا سَمِعْنَا

fa'ala haaza bi aalihatinaaa innahoo laminaz zaalimeen(59)Qaaloo sami'naa

فَتَقَرَّ يَيْذِكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ ابْرَاهِيْمُ ﴿٦٠﴾ قَالُوا فَأَتُوْا بِهِ عَلَىٰ

fatany yazkuruhum yuqaalu lahooo Ibraheem(60)Qaaloo fa'too bihee 'alaaa

أَعْيُنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ ﴿٦١﴾ قَالُوا إِنَّا شَهَدْنَا فَعَلْتَ هَذَا

a'yunin naasi la'allahum yash hadoon(61)Qaalooo 'a-anta fa'alta haaza

بِالْهَتِنَا يَا ابْرَاهِيْمُ ﴿٦٢﴾ قَالَ بَلْ فَعَلَهُ ۖ كَيْرِيْهُمْ هَذَا فَسُلُوهُمْ

bi aalihatinaa yaaa Ibraheem(62)Qaala bal fa'alahoo kabeeruhum haaza fas'alohum

إِنْ كَانُوا يَنْطِقُوْنَ ﴿٦٣﴾ فَرَجَعُوا إِلَىٰ أَنْفُسِهِمْ فَقَالُوا إِنَّكُمْ أَنْتُمْ

in kaanoo yantiqoon(63)Faraja'ooo ilaaa anfusihim faqaalooho innakum antumuz

الظَّلِيمُوْنَ ﴿٦٤﴾ ثُمَّ نُكُسُوا عَلَىٰ رُعُوسِهِمْ ۚ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هُوَ لَأَعْ

zaalimoon(64)Summa nukisoo 'alaa ru'oosihim laqad 'alimta maa haaa'ulaa'i

معنی: اون ھڈہ اور سکھ دیکی ادا اڑاکیں الگ کے بر ایسا کرنا

منزل ۲: نقاشی: حروف کو پر لینی آئندہ اور سکھ میں کے حروف (ب یوں) آئندہ ایک خاص حرف (نکھل) میں جھپٹ کر جائے

معنی: اون سکھ اور سکھ دیکی ادا اڑاکیں ایک خاص حرف (نکھل) میں جھپٹ کر کے پڑھا جائے

معنی: ... تمیں الگ کے بر ایسا کر کے پڑھا جائے

يَنْطَقُونَ ﴿٦﴾ قَالَ أَفَتَعْبُدُونَ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ

yantiqoon(65)Qaala afata'budoona min doonil laahi maa laa yanfa'ukum

شَيْئًا وَ لَا يَصْرَكُمْ ﴿٧﴾ أَفِلَّكُمْ وَ لِمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ

shai'anw wa laa yadurrukum(66)Uffil lakum wa limaa ta'budoona min doonil laah;

أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٨﴾ قَالُوا حَرَقُوهُ وَ انصُرُوا إِلَيْهِتُكُمْ إِنْ كُنْتُمْ

afalaa ta'qiloon(67)Qaaloo harriqoohu wansurooo aalihatakum in kuntum

فَعِلِيلُنَّ ﴿٩﴾ قُلْنَا يَنْارُ كُونِيْ بَرَدًا وَ سَلَّى عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَ

faa'illeen(68)Qulnaa yaa naaru koonee bardanwa salaaman 'alaaa Ibraheem(69)Wa

أَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُ الْأَخْسَرَيْنَ ﴿١٠﴾ وَ نَجَيْنَاهُ وَ لُوطًا

araadoo bihee kaidan faja'alnaahum akhsareen(70) Wa najjainaahu wa Lootan

إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي لَرَكَنَّا فِيهَا لِتَعْلِمَيْنَ ﴿١١﴾ وَ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ

ilal ardin latee baaraknaa feehaa lil 'aalameen(71) Wa wahabnaa lahooo Ishaaqa;

وَ يَعْقُوبَ نَافِلَةً وَ كَلَّا جَعَلْنَا صَلِحِينَ ﴿١٢﴾ وَ جَعَلْنَاهُمْ أَبِيَّةً

wa Ya'qooba naafilah; wa kullan ja'alnaa saaliheen(72)Wa ja'alnaahum a'immatany

يَمْدُونَ بِأَمْرِنَا وَ أَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَ إِقَامَ الصَّلَاةِ

yahdoona bi amrinaa wa awhainaaa ilaihim fi'l khairaati wa iqaamas Salaati

وَ رَأَيْتَنَا الزَّكُورَةَ وَ كَانُوا لَنَا عِبَدِيْنَ ﴿١٣﴾ وَ لُوطًا أَتَيْنَاهُ حُكْمًا

wa eetaaa'az Zakaati wa kaanoo lanaa 'aabideen(73)Wa Lootan aatainaahu hukman

وَ عِلْمًا وَ نَجَيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَيْثَ

wa 'ilmaw wa najjainaahu minal qaryatil latee kaanat ta'mul khabaaa's;

إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا سَوْءَ فِسِيقِيْنَ ﴿١٤﴾ وَ أَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْبَتِنَا إِنَّهُ

innahum kaanoo qawma saw'in faasiqeen(74)Wa adkhalaahu fee rahmatinnaa innahoo

مِنَ الصَّلِحِيْنَ ﴿١٥﴾ وَ نُوحًا إِذْنَادِي مِنْ قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ

minas saaliheen (section 5) (75)Wa noohan iz naadaa min qablu fastajabnaa lahoo

مُتَّقَ: اون ھڈے اور سکھہ دیکی آؤ اڑاکیں الٰہ کے بر ایسا کرنا

مُتَّقَ: اون سکن اور سکھیں اور سکھ میں کسے کوئی بھی (ب) ہوں (ک) آؤ اوناں پیش، (ل) آئیں

مُتَّقَ: اس سب سے ایک الٰہ کے بر ایسا کر کے پڑھا جائے

مُتَّقَ: ... تمیں الٰہ کے بر ایسا پانچ الٰہ کے بر ایسا کر کے پڑھا جائے

فَتَجَيَّنَهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبَلَاءِ الْعَظِيمِ ﴿٧٦﴾ وَ نَصَّانَهُ مِنَ

fanajjainaahu wa ahlahoo minal karbil 'azeem(76)Wa nasarnaahu minal

الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِاِيْتِنَا اِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمٌ سَوْءٌ فَآغْرَى قُنْهُمْ

qawmil lazeena kazzaboo bi Aayaatinaa; innahum kaanoo qawma saw'in fa-aghraaq naahum

أَجْمَعِينَ وَ دَاؤَدَ وَ سُلَيْمَيْنَ اِذْ يَحْكُمُنَ فِي الْحَرَثِ اِذْ

ajma'een(77)Wa Daawooda wa Sulaimana iz yahkumaani fil harsi iz

نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَ كُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَهِيدِينَ

nafashat feehi ghanamul qawmi wa kunnaa lihukmihim shaahideen(78)

فَقَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَيْنَ وَ لَلَّا اتَّيَنَا حُكْمًا وَ عِلْمًا وَ سَخَّنَا مَعَ

Fafahhamnaahaa sulaimaan; wa kulla aatainaa hukman wa'ilman wa sakha kharnaa ma'a

دَاؤَدُ الْجِبَالَ يُسَيِّحَنَ وَ الْطَّيْرَ وَ كُنَّا فَعِيلِينَ وَ عَلَّمْنَاهُ

Daawoodal jibaala yusabbihna wattayr; wa kunnaa faa'ileen(79)Wa 'allamanaahu

صَنْعَةَ لَبُوْسٍ لَكُمْ لِتُخْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ آتُتُمْ

san'ata laboosil lakum lituhsinakum min ba'sikum fahal antum

شَكِّرُونَ وَ لِسُلَيْمَيْنَ الرِّيحَ عَاصِفَةَ تَجْرِيُ بِأَمْرِهِ إِلَى

shaakiroon(80)Wa li Sulaimaanar reeha 'aasifatan tajree bi amriheee ilal

الْأَرْضِ الَّتِي بَرَكْنَا فِيهَا وَ كُنَّا بِطْلٍ شَئِعَ عَلِمِينَ وَ

ardil latee baaraknaa feehaa; wa kunnaa bikulli shai'in 'aalimeen(81)Wa

مِنَ الشَّيْطَيْنِ مَنْ يَغُوْصُونَ لَهُ وَ يَعْمَلُونَ عَمَلاً دُونَ

minash Shayaateeni mai yaghoosoona lahoo wa ya'maloona 'amalan doona

ذَلِكَ وَ كُنَّا لَهُمْ حَفَظِينَ وَ آيُوبَ اِذْ نَادَى رَبَّهُ اَنِّي

zaalika wa kunna lahum haafizeen(82)Wa Ayyooba iz naadaa Rabbahooo annee

مَسَنَّى الصُّرُّ وَ اَنْتَ اَرْحَمُ الرَّحِيمِينَ ﴿٨٣﴾ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا

massaniyad durru wa Anta arhamur raahimeen(83) Fastajabnaa lahoo fakashaf naa

مِنْزَلٌ ۝ تَقْلِيْمِ: حروف کو پر لہجی آؤ کرو جائے۔

● مِنْزَلٌ: اونوں مکان اور سکھنے کے لئے جگہ۔

● اَنْتَ: اون سماں اور سکھنے کے لئے جگہ۔

● مَسَنَّى: اس سے پہلے اپنے الک کے برادر لہما کے پڑھانا اچب ہے۔

مَا بِهِ مِنْ ضَرٍّ وَّ أَتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَ مِثْلُهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةٌ

maa bihee min durrinw wa aatainaahu ahlahoo wa mislahum ma'ahum rahmatan

مِنْ عِنْدِنَا وَذِكْرٌ لِلْعَبْدِيْنَ وَإِدْرِيْسَ

min 'indinaa wa zikraa lil'aabideen(84)Wa Ismaa'eela wa Idreesa

وَذَا الْكِفْلِ كُلُّ مِن الصَّابِرِينَ ۖ وَأَدْخِلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا ۗ

wa Zal Kifli kulum minas saabireen(85) Wa adkhalnaahum fee rahmatinaa

إِنَّهُمْ مِنَ الظَّالِمِينَ وَذَلِكُنَّ أَذْهَبَ مُعَاصِيَهُمْ فَقْطَنْ

innahum minas saaliheen(86) Wa Zan Nooniz zahaba mughaadiban fa zanna

٦٣٩

اللَّهُمَّ نَعْلَمُ أَنَّكَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الْقَمَتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ
al-lahumma na'lamu anka 'ala'ihi fanaadaa fiz-zulumaati al-iaaa ilaaha illaaa Anta

جعفر بن ابي طالب علیه السلام

سُبْحَنَ رَبِّكَ إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْضِ وَالْمَاءِ وَإِنَّكَ
Subhaanaka innee kuntu minaz zaalimeen(87)Eastajabnaa laahoo wa naijainaahu

۱۰۲. تکمیلی = ۱۳۳۰۲. ۳۹۹ = ۱۴۷۷۶

وَذِكْرِكَ سُبْحَانَ الْمُوْمِينِ وَرَحْمَةِ إِذْنَادِي رَبِّهِ

فَاسْتَجِبْنَا لَهُ أَنْتَ خَيْرُ الْوَرَثِينَ

Rabbi laa tazarnee fardanw wa Anta khairul waariseen(89)Fastajabnaa laahoo

وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَى وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَاءُونَ

وَاهْبَنَا لَهُ يَحْيَى وَاسْلَهْنَا لَهُ زَوْجَهٖ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِّي

fil khiraati wa yad'oonaan raghabanw wa rahabaa; wa kaanoo lanaa khaashi'een(90)

۱۰۷۳

Wallatee ahsanat farjahaa fanafakhnaa feehaa min roohinaa wa ja'alnaahaa

- مُنْزَلٌ ۝ تَفْعِيلُهُمْ: حروف کو پہنچیں اور مکار رکھنا ۔ قافلے میں ساکن حرف کو پہنچا کرنا
- مُنْزَلٌ ۝ تَفْعِيلُهُمْ: حروف کو پہنچیں اور مکار رکھنا ۔ قافلے میں ساکن حرف کو پہنچا کر کرچا
- مُنْزَلٌ ۝ تَفْعِيلُهُمْ: حروف کو پہنچیں اور مکار رکھنا ۔ قافلے میں ساکن حرف کو پہنچا کر کرچا
- مُنْزَلٌ ۝ تَفْعِيلُهُمْ: حروف کے برابر لامبا کر کے پڑھنا جب ہے

٤٨

رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُنَّ ۖ وَتَقْطَعُوا أَمْرَهُمْ ۖ كُلُّ إِلَيْنَا رُجُونَ ۖ

Rabbukum fa'budoon(92)Wa taqatta'oo amrahum bainahum kullun ilainaas raaji'oona (section 6) (93)

فَمَنْ يَعْمَلُ مِنَ الصِّلْحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفَّارٌ لِسَعْيِهِ ۖ

Famai ya'mal minas saalihaati wa huwa mu'minun falaa kufraana lisa'yihhee

وَرَأَنَّا لَهُ كَتَبُونَ ۖ وَحَمَّمَ عَلَى قَرْيَةٍ أَهْلَكُنَّهَا أَنْهُمْ لَا يَزِيدُونَ ۖ

wa innaa laheem kataboon(94)Wa haraamun 'ala qaryatin ahlaqnahaaa annahum laa yarji'oona(95)

حَتَّىٰ إِذَا فُتِّحَتِ يَأْجُوجُ وَمَاجُوجٌ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ ۖ

Hattaaa izaa futihat Ya'jooju wa Ma'jooju wa hum min kulli hadabiny

يَسِّلُونَ ۖ وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَاهِدٌ أَبْصَارُ ۖ

yansiloona(96)Waqtarabal wa'dul haqqu fa-izaa hiya shaakhisatan absaaru

الَّذِينَ كَفَرُوا ۖ يَوْمَئِنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا بَلْ كُنَّا ۖ

lazeena kafaroo yaawailanaa qad kunna fee ghaflatin min haaza bal kunnaa

ظَلَمِيْنَ ۖ إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصْبُ جَهَنَّمَ ۖ

zaalimeen(97)Innakum wa maa ta'budoona min doonil laahi hasabu Jahannama

أَنْتُمْ لَهَا وَرِدُونَ ۖ لَوْ كَانَ هَوْلَاءُ إِلَهَةً مَا وَرَدُوهَا ۖ وَ ۖ

antum lahaa waaridoon(98)Law kaana haaa'ulaaa'i aalihatan maa waradoohaa wa

كُلُّ فِيهَا خَلِدُونَ ۖ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْعَونَ ۖ

kullun feehaa khaalidoon(99)Lahum feehaa zaferunw wa hum feehaa laa yasma'oona(100)

إِنَّ الَّذِينَ سَبَقُتْ لَهُمْ مِنْ نَا الْحُسْنَىٰ أُولَئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ ۖ

Innal lazeena sabqaat lahumm minnal husnaaa ulaaa'ika anhhaa mub'adood(101)

لَا يَسْعَونَ حَسِيْسَهَا ۖ وَهُمْ فِي مَا اشْتَهَىٰ لَنْفُسُهُمْ ۖ

Laa yasma'ona hashee saaha wa hum fee mash tahat anfusuhum

خَلِدُونَ ۖ لَا يَحْنُنُهُمْ الْفَرَّغُ الْأَكْبَرُ وَ تَتَلَاقُهُمُ الْبَلِيْكَةُ ۖ

khaalidoon(102)Laa yahzunuhumul faza'u'l akbaru wa tatalaq qaahumul malaaa'ikatu

مُلْكُه: اونوں مدد و مدد کی آڑا تو ایک الٰہ کے برادر لامہ کرنا
مُنْزَل: ۲ قلچشم: حروف کو پوری تائی آڑا کو جو رکھتا
کوئی رکھتا۔ تو ان سماں کو اور سماں کی جس کے بعد (ب) ہوئی آڑا تو ایک عالم (نک) میں جیسا کہ جسے
جیسے تھے۔ ان سماں کے بعد ایک الٰہ کے برادر لامہ کے پڑھانا اجب ہے
مُنْعَل: .. تین الٰہ کے برادر پانچ الٰہ کے برادر لامہ کے پڑھانا اجب ہے

هَذَا يَوْمُكُمُ الَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ﴿١٠٣﴾ يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ

haazaa Yawmukumul lazee kuntum too'adoon(103) Yawma natwis samaaa'a

كَطْنِي السِّجْلِ لِلنُّكْتِبِ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعَدْنَا

kataiyis sijilli liikutub; kamaa bada'na awwala khalqin nu'eedu; wa'dan

عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ ﴿١٠٤﴾ وَلَقَدْ كَنَّنَا فِي الرَّبُورِ مِنْ بَعْدِ

'alaina; innaa kunna faa'ileen(104) Wa laqed katabnaa fiz Zaboori min ba'diz

الَّذِكْرُ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِي الصَّلِحُونَ ﴿١٠٥﴾ إِنَّ فِي

zikri annal arda yarisuhaa 'ibaadi ya saalihoon(105)Inna fee

هَذَا لَبَلَغا لِقَوْمٍ غَيْبِيْنَ ﴿١٠٦﴾ وَ مَا أَرْسَلْنَا إِلَّا رَحْمَةً

haaza labalaa ghal liqawmin 'aabideen(106) Wa maaa arsalnaaka illaa rahmatal

لِلْعَالَمِيْنَ ﴿١٠٧﴾ قُلْ إِنَّمَا يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ وَاحِدٌ

lil'alameen(107)Qul innamaa yoohaa ilaiya annamaaa ilaahukum illaahunw Waahid,

فَهُنَّ أَنْتُمُ مُسْلِمُونَ ﴿١٠٨﴾ فَإِنْ تَوَلُّوْا فَقُلْ أَذْنُتُكُمْ عَلَى

fahal antum muslimoon(108) Fa in tawallaw faqul aazantukum 'alaa

سَوَاءٌ وَإِنْ أَدْرِي أَقْرَيْبُ أَمْ بَعِيْدُ مَا تُوعَدُونَ ﴿١٠٩﴾ إِنَّهُ

sawaaa'; wa in adreee aqareebun am ba'eedun maa too'adoon(109)Innahoo

يَعْلَمُ الْجَهَنَّمُ مِنَ الْقَوْلِ وَ يَعْلَمُ مَا تَكْتُبُونَ ﴿١١٠﴾ وَ إِنْ

ya'lamu jahra minal qawli wa ya'lamu maa taktumoon(110)Wa in

أَدْرِي لَعَلَّةٌ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَ مَتَاعٌ إِلَى حِينٍ ﴿١١١﴾ قُلْ

adree la'allaho fitnatul lakum wa mataau'n ilaahineen(111)Qaalaa

رَبِّ احْكُمْ بِالْحَقِّ وَ رَبُّنَا الرَّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى

Rabbih kum bil haqq; wa Rabbunar Rahmaa nul musta'aanu 'alaa

مَا تَصْفُونَ

maa tasifoon (section 7) (112)

مَنْزِلٌ ۝ تَقْرِيمٌ: حروف کو پڑھنی آئندگانی کرنے والے مکان یا جگہ (بے ہوی) آئندگانی کرنے والے مکان یا جگہ (بے ہوی) میں پڑھنا کرچے جانا
● بالخاتما: یونان سائنس اور فلسفے میں کئی بزرگ حروف کو پڑھنے آئندگانی کرنے والے مکان یا جگہ (بے ہوی) آئندگانی کرنے والے مکان یا جگہ (بے ہوی) میں پڑھنا کرچے جانا
● بُلْهُ: اپنے ایک الف کے پڑھنا کرچے جانا
● مَنْزِلٌ: اپنے ایک الف کے پڑھنا کرچے جانا
● مَنْزِلٌ: اپنے ایک الف کے پڑھنا کرچے جانا

رَبُّنَا شَهْرُهُ	إِلَيْهِمَا	رَبُّنَا شَهْرُهُ	سُوْدَةُ الْحَجَّ
۱۰	۷۸	۱۰	۲۲

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

Bismillaahir Rahmaanir Raheem

يَا ايُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ

Yaaa ayyuhan naasuttaqoo Rabbakum; inna zalzalatas Saa'ati shai'un 'azeem(1)

يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَ تَضَعُ

Yawma tarawnahaa tazhalu kulla murdi'atin 'ammaaa arda'at wa tada'u

كُلُّ ذَاتٍ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَ تَرَى النَّاسَ سُكُنًا وَ مَا هُمْ

kullu zaati hamlin hamlahaa wa tarannaasa sukaaraa wa maa hum

بِسُكُنٍ وَ لِكِنْ عَذَابَ اللّٰهِ شَدِيدٌ وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ

bisukaaraa wa lakinaa 'azaabal laahi shadeed(2)Wa minan naasi mai yujaadilu

فِي اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَ يَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَنٍ مَرِيدٍ كُتِبَ عَلَيْهِ

fil laahi bighairi 'ilm wa yattabi'u kullaa shaitaanim mareed(3)Kutiba 'alaahi

أَنَّهُ مَنْ تَوَلَّهُ فَأَنَّهُ يُضْلَلُ وَ يَهْدِيهِ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ

annahoo man tawallaahu fa annahoo yudilluhoo wa yahdeehi ilaa 'azaabis sa'eer(4)

يَا ايُّهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِنَ الْبَعْثِ فَإِنَا خَلَقْنَاكُمْ

Yaaa ayyuhan naasu in kuntum fee raibim minal ba'si fa inna khalaqnaakum

مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ

min turaabin summa min nutfatin summaa min 'alaqtin summa mim mud ghatim

مُخْلَقَةٌ وَ غَيْرُ مُخْلَقَةٍ لِنَبِيِّنَ لَكُمْ وَ نُقُرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا

mukhal laqatin wa ghairi mukhalla qatil limubaiyina lakum; wa nuqirru fil arhaami maa

نَشَاءٌ إِلَى أَجَلٍ مُسَمٍّ ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لَتَبْلُغُوا أَشْدَدَكُمْ

nashaa'u ilaaa ajalim musam man summa nukhrijukum tiflaan summa litabluhooo ashud dakum

مُنْزَل٢: اونوں حلقہ اور سکھنہ دیکی جائے اور آنے والے الٰف کے برادر لہما کرنا

مُنْزَل٣: تلفیخ: حروف کو پر لینی آئندگانی اور کوئی رکنا

مُنْزَل٤: اون سماں اور سکھنے اور سکھنے کے بعد (بے ہوئی آئندگانی) میں بھی کچھ حدا

مُنْزَل٥: اس سے آنے والے الٰف کے برادر لہما کر کے پڑھنا اجب ہے

وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَى أَذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلَا

wa minkum mai yutawffa wa minkum mai yuraddu ilaaa arzalil 'umuri likailaa

يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا ۖ وَ تَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا

ya'lama mim ba'di 'ilm shai'aa; wa taral arda haamidatan fa izaaa

أَرْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَرَّتْ وَ رَبَثَ وَ أَبْتَثَ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ

anzalnaa 'alaikal maaa'ah tazzat wa rabat wa ambatat min kulli zawjim

بَهِيمَيْجٌ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَ أَنَّهُ يُحِبُّ الْمُؤْمِنَ وَ أَنَّهُ

baheej(5)Zaalika bi annal laaha Huwal haqqu wa annahoo yuhil mawtaa wa annahoo

عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۖ وَ أَنَّ السَّاعَةَ أَتِيهَا لَارِيبٌ فِيهَا

'alaakulli shari'in Qadeer(6)Wa annas Saa'ata aatiya tul laa raiba feeha

وَ أَنَّ اللَّهَ يَعِثُ مَنْ فِي الْقُبُوْرِ ۖ وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ

wa annal laaha yab'a suman fil quboor(7)Wa minan naasi mai yujaadilu

فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَ لَا هُدًى وَ لَا كِتَابٌ مُنِيرٌ ۖ ثَانِي عَطْفَهٖ

fil laahi bighairi 'ilm min huda wal katab munir(8)Saaniya 'iftihee

لِيُضْلِلَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُ فِي الدُّنْيَا خَنْزِيًّا وَ نُذِيقَهُ

Iiyudilla 'an sabeeil laahi lahoo fiddun yaa khizyunw wa nuzeequhoo

يَوْمَ الْقِيَمَةِ عَذَابُ الْحَرِيقِ ۖ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدِكَ وَ

Yawmal Qiyaamat 'azaabal Ihraaq(9)Zaalika bimaa qaddamat yadaaka wa

أَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَامٍ لِلْعَبِيدِ ۖ وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ

annal laaha laisa bizallaamil lil'aabeed (section 1) (10)Wa minan naasi mai ya'bulud

الَّهُ عَلَى حَرْفٍ ۗ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ أَطْمَانَ بِهِ وَ إِنْ أَصَابَتْهُ

laaha 'ala harfin fa in asaabahoo khairunit maanna bihee wa in asaabat hu

فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ ۖ خَسِيرٌ الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةُ ۖ ذَلِكَ هُوَ

fitnatun qalaba 'ala wajhihee khasirad dunyaa wal aakhirah; zaalika huwal

مُتَّقَ: اون ھڈہ اور سم مھر دیکی ادا اڑاکیں الگ کے بر ایسا کرنا

مُتَّقَ: جو روپ کو پیر یعنی آوارگی اور کوچراک کہا جائے اس کے بعد (ب) یعنی آوارگی کو ادا کیا جائے

مُتَّقَ: اون سماں اوارگی کو جیسے کوئی آوارگی اور سم مس کیسے کوئی آوارگی کو ادا کیا جائے

مُتَّقَ: اس سے (ب) یعنی آوارگی کے بر ایسا کر کے پڑھا جائے

الْخُسْنَاءِ إِنَّ الْمُبِينُ ﴿١١﴾ يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُ وَمَا

khusranaul mubeen(11)Yad'oo min doonil laahi maa laa yadurruhoo wa maa

لَا يَنْفَعُهُ طَذِيلَهُ هُوَ الظَّلْمُ الْبَعِيدُ ﴿١٢﴾ يَدْعُوا لَهُنَّ ضَرَّةً

laa yanfa'uh' zaalika huwad dalaalul ba'ed(12)Yad'oo laman darruhooo

أَقْرَبُ مِنْ نُفُعِهِ طَلِيْسَ الْمَوْلَى وَلَيْسَ الْعَشِيرُ إِنَّ اللَّهَ ﴿١٣﴾

aqrabu min nafi'ih; labi'salmawlaa wa labi'sal 'asheer(13) Innal laaha

يُدْخِلُ الَّذِينَ أَمْنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَاتِ جَنَّتٍ تَجْرِي مِنْ

yudkhil lazeea aamanoo wa 'amilus saalihaati jannaatin tajree min

تَحْتِهَا الْأَنْهَرُ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ﴿١٤﴾ مَنْ كَانَ يَظْنُ

tahtihal anhaar; innal laaha yaf'alu maa yureed(14)Man kaana yazunnu

أَنَّ لَنْ يَنْصُرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَلَيَمِدُّ بِسَبَبِ إِلَى

allai yansuruhul laahu fid dunyaa wal aakhirati fal yamduu bisababin ilas

السَّمَاءِ ثُمَّ لِيُقْطَعُ فَلَيَمِظْهُ هَلْ يُدْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغْيِظُ ﴿١٥﴾

samaaa'i summal yaqta' falyanzur hal yuzhibanna kaiduhoo maa yagheez(15)

وَكَذِيلَكَ أَنْزَلْنَاهُ أَيْتَ بَيِّنَتٍ لَّا وَإِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يُرِيدُ ﴿١٦﴾

Wa kazaalika anzalnaahu aayaatim baiyinaatinwa annal laaha yahdee mai yureed(16)

إِنَّ الَّذِينَ أَمْنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِرِينَ وَالنَّاصِرَاتِ

Innal lazeea aamanoo wallazeena haadoo was saabi'ena wan nasaaraa

وَالْمُجْوَسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ

wal Majoosa wallazeena ashراكoo innal laaha yafsilu bainahum

يَوْمَ الْقِيَمَةِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ إِلَمْ تَرَ أَنَّ ﴿١٧﴾

yawmal qiyamah; innal laaha 'ala kull shai'in shaheed(17)Alam tara annal

اللَّهُ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ

laaha yasjudu laahoo man fis samaawaati wa man fil ardi wash shamsu

● نقاش: اون ھڈہ اور سکھ دیکھی ادا ذرا کیلے اللہ کے برادر لامہ کرنا

● بالآخر: دون سماں ادا ذرا ہیں اور سکھ میں کے بعد (ب) ہوئی آؤ دنماں ادا ذرا (ت) میں صحیح کچھ حدا

● بیان: اس سب سے اکیل اللہ کے برادر لامہ کے پڑھانا اجب ہے

وَ الْقَمَرُ وَ النُّجُومُ وَ الْجِبَالُ وَ الشَّجَرُ وَ الدَّوَابُ وَ كَثِيرٌ

walqamaru wan nu joomu wal jibaalu wash shajaru wad dawaabbu wa kaseerum

مِنَ النَّاسِ وَ كَثِيرٌ حَقٌّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَ مَنْ يُهِنِّ

minan naasi wa kaseerun haqqa 'alaahil 'azaab; wa mai yuhinil

اللَّهُ فِي أَهَلَّهُ مِنْ مُكَاهِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ ﴿١٨﴾ هَذِنَ خَصْنَ

laahu famaa laaho mim mukrim; innallaaha yaf'alu maa yashaa (make sajda) (18) Haazaani khasmaanikh

أَخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِعُتْ لَهُمْ ثِيَابُ مِنْ

tasamoo fee Rabbihim fal lazeena kafaroo qutti'at lahum siyaabum min

نَارٍ طَيْصَبُ مِنْ فَوْقِ رُعْوَسِهِمُ الْحَمِيمُ ﴿١٩﴾ يُصَهِّرُ بِهِ مَا فِي

naar; yusabbu min fawqi ru'oosihim hameem(19) Yusharu bihee maa fee

بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ ﴿٢٠﴾ وَلَهُمْ مَقَامٌ مِنْ حَدِيدٍ ﴿٢١﴾ كُلُّمَا آزَادُوا

butoonihim waljulood(20)Wa lahum maqaami'u min hadeed(21)Kullamaa araadooo

أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ أُعِيدُوا فِيهَا وَذُوقُوا عَذَابَ

any yakhrujoo minhaa min ghammin u'eedoo feeha wa zooqoo 'azaabal

الْحَرِيقِ ﴿٢٢﴾ إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ أَمْنَوْا وَعَمِلُوا الصَّلِحَاتِ

haraeq (section 2) (22)Innal laaha yudkhilul lazeena aamanoo wa 'amilus saalihiat

جَنَّتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَرُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ

jannaatin tajree min tahtihal anhaaru yuhallawna feehaa min asawaar min

ذَهَبٌ وَلُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيقٌ ﴿٢٣﴾ وَهُدُوًا إِلَى الطَّيِّبِ

zahabinw wa lu'lou'a; wa libaasuhum feehaa hareer(23)Wa hudooo ilat tayibi

مِنَ الْقَوْلِ وَ هُدُوًا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيمِ ﴿٢٤﴾ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا

minal qawli wa hudooo ilaaa siraatil hameed(24)Innal lazeena kafaroo

وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ

wa yasuddoona 'an sabeeli laahi wal Masjidil Haraamil lazee ja'alnaahu

مُتَّقَ: اونو: هادر سکھ دیکی اداڑا لوکپال الف کے برابر لاما کرنا

مُتَّقَ: اون سکھ اور سکھ دیکی اداڑا کوئی کوئی نہیں کر سکتا۔

مُتَّقَ: اون سکھ اور سکھ دیکی اداڑا کوئی کوئی نہیں کر سکتا۔

مُتَّقَ: اون سکھ اور سکھ دیکی اداڑا کے برابر لاما کر کے پڑھانا اچیب ہے

لِلنَّاسِ سَوَاءُ الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ طَ وَمَنْ يُرِدُ فِيهِ بِالْحَادِ

linnaasi sawaaa'anil 'aakifu feehi walbaad; wa mai yurid feehi bi ilhaadim

بِظُلْمٍ ثُدْقَهُ مِنْ عَذَابِ أَلِيُّم ۲۵ **وَإِذْبَوْأَنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ**

bizulmin nuziqhu min 'azaabin aleem (section 3) (25)Wa iz bawwaanaa li Ibraheema makaanah

الْبَيْتِ أَنْ لَا تُشْرِكُ بِ شَيْئًا وَ طَهْرَ بَيْتِيَ لِلطَّاهِيفِينَ وَ

Baiti allaa tushrik bee shai'anw wa tahir Baitya litaa'ifeena wal

الْقَابِيْنَ وَالرَّكْعِ السُّجُودُ ۲۶ **وَأَذْنُ فِي النَّاسِ بِالْحَجَّ يَأْتُوكَ**

qaaa'imeena warrukka 'is sujood(26)Wa azzin fin naasi bil Hajji yaatooka

رِجَالًا وَ عَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجِّ عَمِيقٍ ۲۷

rijaalanw wa 'alaa kulli daamiriny yaateena min kulli fajjin 'ameeq(27)

لَيَشْهَدُو أَمَانَاتِهِ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَتِ

Li yashhadoo manaafi'a lahum wa yazkurus mal laahi feee ayyaamimma'loomaatin

عَلَى مَا رَزَقْهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُّوْ مِنْهَا وَ أَطْعِمُوا

'alaa maa razaaqahum mim baheematil an'aami fakuloo minhaha wa at'imul

الْبَآسِ الْفَقِيرِ ۲۸ **ثُمَّ لَيَقْضُوا تَقْشِهِمْ وَلَيُوفُوا نُذُورَهُمْ**

baaa'isal faqeer(28)Summal yaqdoo tafasahum wal yoofoo nuzoorahum

وَلَيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ۲۹ **ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمُ حُرْمَتِ اللَّهِ**

wal yattawafoo bil Baitil 'Ateeq(29)Zaalika wa mai yu'azzim hurumaatil laahi

فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَ أَحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَى

fahuwa khairul laahoo 'inda Rabbih; wa uhillat lakumul an'aamu illaa maa yutlaa

عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قُولَّ

'alaikum fajtanibur rijsa minal awsaani wajtaniboo qawlaz

الرُّورِ ۳۰ **حُنَفَاءُ اللَّهُ غَيْرُ مُشْرِكِينَ بِهِ طَ وَ مَنْ يُشْرِكُ بِاللَّهِ**

zoor(30)Hunafaaa'sa lillaahi ghaira mushrikeena bih; wa mai yushrik billaahi

مُتَّقَ: اونوں میں مشرک دیکھ کر آڈا لوگوں کا الف کے برادر لاما کرتا

منزل ۲: تلقیخ: حروف کو پڑھنے آؤ کوچار کتا

کوچار: اون سماں اور سکھیں اور سکھیں جس کے درجے (ب) ہوں (کی) آڈا لوگوں کا (ت) میں صحیح کچھ حدا

جیسے: اس سب سے آڈا لوگوں کے برادر لاما کے پڑھانا اجب ہے

فَكَانَتْ خَرَّةً مِنَ السَّيَّارِ فَتَخَطَّفَهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهُوِيْ بِهِ الرِّيحُ فِي

faka annamaa kharra minas samaaa'i fatakh tafuhut tairu aw tahwee bihir reehu fee

مَكَانٌ سَاحِقٌ ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمُ شَعَابَرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ

makaanin saheeq(31)Zaalika wa mai yu'azzim sha'aaa'iral laahi fa innahaa min

تَقْوِيُّ الْقُلُوبُ لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعٌ إِلَى أَجَلٍ مُسَمٍّ ثُمَّ

taqwal quloob(32)Lakum feehaa manaafi'u ilaaa ajalim musamman summa

مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ ۝ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَسْكَانًا لِيَذْكُرُوا

mahilluhaaa ilal Baitil 'Ateeq (section 4) (33)Wa likulli ummatin ja'alnaa mansakal liyazkurus

9 1 b 2 n 3 m 8 1 1

اسْمُ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيَّةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَهُمْ إِلَهٌ

9. *Chlorophytum comosum* L. (Liliaceae) 13 2 2 8 100% 100%

Waahidun falahooo aslimoo: wa bashshiril mukhbiteen(34)Allazeena izaa zukiral

۱۳۸۹

الله وَجْلَتْ قُلُوبُهُمْ وَ الصَّابِرُونَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ وَ الْمُقْيَمُونَ
Jaahu waajilat quloobuhum wassaabireena 'ala maaa asaabahum walmiqeemis

الصلوة وَ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿٣٥﴾ وَ الْبُدْنَ جَعَلْنَا لَكُمْ
Salata wa mimma razaqnahum yunfiqoon(35)Walbadna ja'alnaaha lakum

۱۳۰۰-۱۳۰۱

مِنْ شَعَّابِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافِ
min sha'aa'iril laabi lakum feehaa khairun fazkurusmal laabi 'ala'iha sawaaff:

卷之三十一

فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعَتَرِّ

8 21 9 1 16

كَذِيلِكَ سَخْرَيْنَهَا لَكُمْ لَعْلَكُمْ تَشَكَّوْنَ ﴿٢﴾ لَنْ يَنْالَ اللَّهُ لَحْوُهُمَا

kazaalika sakhharnaahaa lakum la'allakum tashkuroon(36)Lany yanaalal laaha luhoo muhaa

وَلَا دِمَاؤُهَا وَلِكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ كَذِيلَكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ

wa laa dimaaa'uhaa wa laakiny yanaaluhut taqwaa minkum; kazaalika sakhharrhaa lakum

متن ۲ **لَعْنَهُ:** حروف کوئی لعنت آوار کو موارکت کرنے والے سماں حرف کو جلا کر دھنا گئے توں محدث داور محدث دیکی اور اذکو اپنے اللہ کے برادر میا کرتا

• اخْفَى: توں ساکن اور جو کون اور میم ساکن جس کے بعد (بے ہو) کی آواز کو خیشوم (ناک) میں چھپا کر پڑھنا

• تین الف کے برابر پانچ الف کے برابر لہا کر کے ڈھندا جب ہے

لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَكُمْ وَبَشِّرُ الْمُحْسِنِينَ ﴿٣٧﴾

litukabbirul laaha 'ala ma hadaakum; wa bashshirul muhsineen(37)Innal laaha

يُدْفَعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَانِ كُفُورٍ ﴿٣٨﴾

yudaafi' 'anil lazeena aamanoo; innal laaha laa yuhibbu kulla khawwaanin kafoor (section 5) (38)

أَذْنَ لِلَّذِينَ يُقْتَلُونَ بِإِنْهُمْ طَلَبُوا طَ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرَاهُمْ

Uzina lillazeena yuqaataloona bi annahum zulimoo; wa innal laaha 'ala nasrihim

لَقَدِيرٌ إِنَّ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا ﴿٣٩﴾

la Qaderr(39)Allazeena ukhrijoo min diyaarihim bighairi haqqin illaaa any yaqooloo

رَبُّنَا اللَّهُ طَ وَلَوْلَا دَفْعَ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ

rabbunallaah; wa law laa daf'ul lahin naasa ba'dahum biba'dil lahuddimat

صَوَامِعٍ وَبَيْعٍ وَصَلَواتٍ وَمَسَاجِدٍ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا

sawaami'u wa biya'unw wa salawaatunw wa masaajidu yuzkaru feehasmul laahi kaseeraa;

وَلَيَهُنْصَنَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ ط إِنَّ اللَّهَ لَقَوْيٌ عَنِيزٌ ﴿٤٠﴾

wa layansurannal laahu mai yansuruh; innal laaha la qawiyun 'Azeez(40)Allazeena

إِنْ مَكَنُوكُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَاتَّوْا الزَّكُوَةَ وَأَمْرُوا

im makkan naahum fil ardi aqaaamus Salaata wa aatawuz Zakaata wa amaro

بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَا عَنِ الْمُنْكَرِ ط وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ﴿٤١﴾

bilmara'roofi wa nahaw 'anil munkar; wa lillaahi 'aaqibatul umoor(41)Wa iny

يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَبْتُ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَوْدٍ وَ ﴿٤٢﴾

yukazzibooka faqad kazzabat qablahum qawmu Nooinw wa Aadunw wa Samood(42)Wa

قَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ ط وَأَصْحَبُ مَدْيَنَ وَكُذَّبَ مُوسَى ﴿٤٣﴾

qawmu Ibraheema wa qawmu Loot(43)Wa as haabu Madyana wa kuzziba Moosaa

فَأَمْلَيْتُ لِلْكُفَّارِينَ ثُمَّ أَخْذَتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ ﴿٤٤﴾

fa amlaitu lilkaafireena summa akhaztuhum fakaifa kaana nakeer(44) Faka ayyim

معنی: اون ہڈے اور سم مھرے دیکھ کر ادا لوگوں کیلئے جو حرف کو پڑھتی آئی تو کوئی حرف نہ کہا جائے۔

معنی: اون سماں کو ادا کرنے کے لئے جو کوئی حرف بھی آئی تو اس کے بعد (ب) یا (ج) آؤ کوچھیمہ (نا) میں جھپٹ کر کر جائے۔

معنی: اس سماں کو ادا کرنے کے لئے جو کوئی حرف بھی آئی تو اس کے بعد (ب) یا (ج) آؤ کوچھیمہ (نا) میں جھپٹ کر کر جائے۔

معنی: ... تمیں الک کے برادر پانچ الک کے برادر لام کے پانچ طبقے ہیں۔

مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكُنَّهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُمْدٍ وُشِّهَاءٍ

min qaryatin ahlaaknaahaa wa hiya zaalimatum fahiya khaawiyatun 'ala urooshihihaa

وَبِئْرٌ مُعَطَّلَةٌ وَقَصَادٌ مَشِيدٌ ﴿٤٥﴾ **أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ**

wa bi'rim mu'at talatinw wa qasrim masheed(45) Afalam yaseeroo fil ardi

فَتَكُونُ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ أَذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا

fatakoona lahum quloobun ya'qiloona bihaaa aw aazaanun yasma'oon bihaa

فَإِنَّهَا لَا تَعْنِي الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْنِي الْقُلُوبُ الَّتِي فِي

fa innahaa laa ta'mal absaaru wa laakin ta'mal quloobul latee fis

الصُّدُورُ ﴿٤٦﴾ **وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ**

sudoor(46) Wa yasta'juloonaka bil'azaabi wa lany yukhlifal laahu wa'dah;

وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَافِ سَنَةٌ مِمَّا تَعْدُونَ ﴿٤٧﴾ **وَكَأَيْنَ**

wa inna yawman 'inda Rabbika ka'alfi sanatim mimmaa ta'uddoon(47) Wa ka ayyim

مِنْ قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخْذَتُهَا وَإِلَى

min qaryatin amlaitu lahaa wa hiya zaalimatum summa akhaztuhaa wa ilaiyal

الْمُصِيرُ ﴿٤٨﴾ **قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا أَنَا لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ**

maseer (section 6) (48)Qul yaaa ayyuhan naasu innamaaa ana lakum nazeerum mubeen(49)

فَالَّذِينَ أَمْنَوْا وَعَمِلُوا الصِّلْحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ

Fallazeena amanoo wa 'amilu saalihaati lahum maghfiratunw wa rizqun

كَرِيمٌ ﴿٤٩﴾ **وَالَّذِينَ سَعَوا فِي أَيْتِنَا مُعْجِزِينَ أُولَئِكَ أَصْحَبُ**

kareem(50)Wallazeena sa'aw fee Aayaatinaa mu'ajizeena ulaaa ika As-haabul

الْجَحِيمِ ﴿٥٠﴾ **وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا**

jaheem(51)Wa maaa arsalnaa min qablikha mir Rasoolinuw wa laa Nabiyin illaaa

إِذَا تَبَّىَ اللَّهُ الشَّيْطَنُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقَى

izaaa tamannaaa alqash Shaitaanu feee umniyatihee fa yansakhul laahu maa yulqish

نَعْلَقُ: اونوں مدد اور سہ مدد کی ادا کرنے والے الٰہ کے برادر لامہ کرنا

مَنْزِلٌ ۝ تَقْتِيقُهُ: حروف کو پڑھنے اور کوہار کرنا

کوہار: الٰہ کی ادا وار کوہار جو بیک آئندگانی میں کام کرنے والے ہیں

بَعْلٌ: اس سب سے الٰہ کے برادر لامہ کے پڑھانا اجب ہے

الشَّيْطَنُ ثُمَّ يُحَكِّمُ اللَّهُ أَيْتَهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ حَكِيمٌ ﴿٥٢﴾ لَيَجْعَلَ

Shaitaanu summa yuhkimul laahu aayaatih; wallaahu 'Aleemun Hakeem(52)Liyaj'ala

مَا يُلْقِي الشَّيْطَنُ فِتْنَةً لِّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْقَاسِيَةُ

maa yulqish Shaitaanu fitnata lillazeena fee quloobihim maradunw walqaasiyati

قُلُوبِهِمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَغَنِيٌ شَقَاقٌ بَعِيدٌ ﴿٥٣﴾ وَلَيَعْلَمَ الَّذِينَ

quloobuhum; wa innaz zaalimeena lafee shiqaaqim ba'eed(53) Wa liya'lamat lazeena

أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ

ootul 'Ilma annahul haqqu mir Rabbika fa yu'minoo bihee fatukhbita lahoo

قُلُوبِهِمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادُ الَّذِينَ أَمْنَوْا إِلَى صِرَاطِ مُسْتَقِيمٍ ﴿٥٤﴾

quloobuhum; wa innal laaha lahaadil lazeena aamanoo ilaa Siraatim Mustaqeem(54)

وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ حَتَّىٰ تَأْتِيهِمُ السَّاعَةُ

Wa laa yazaal lazeena kafaroo fee miryatim minhu hattaa taatiyahumus Saa'atu

بَغْتَةً أَوْ يَأْتِيهِمْ عَذَابٌ يَوْمٌ عَقِيمٌ ﴿٥٥﴾ الْمُلْكُ يَوْمَ مِيزِنَةِ اللَّهِ

baghtatan aw yaatiyahum 'azaabu Yawmin 'aqeem(55)Almulku Yawma'izil lillaahi

يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ طَفَالَذِينَ أَمْنَوْا وَعَمِلُوا الصِّلْحَتِ فِي جَنَّتِ

yahkumu bainahum; fallazeena aamanoo wa 'amilus saalihiati fee jannaatin

الشَّعِيمِ ﴿٥٦﴾ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَأَكْذَبُوا إِلَيْنَا فَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ

Na'eem(56)Wallazeena kafaroo wa kazzaboo bi Aayaatinaa fa ulaaa'iaka lahum 'azaabum

۱۲

مُهِينٌ ﴿٥٧﴾ وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ قُتِلُوا أَوْ مَاتُوا

muheen (section 7) (57)Wallazeena haajaroo fee sabeeel laahi summa qutiloo law maatoo

لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا طَوَّافُهُ خَيْرُ الرُّزْقِينَ ﴿٥٨﴾

la yarzuqan nahum rizqan hasanaa; wa innal laaha la Huwa khairur raaziqeen(58)

لَيُدْخِلَنَّهُمْ مَدْخَلًا يَرْضُونَهُ طَوَّافُهُ لَعِلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿٥٩﴾

La yudkhilan nahum mud khalany yardawnah; wa innal laaha la 'Aleemun Haleem(59)

﴿٥٧﴾ اُولُوْنِيْهِ دارُوْنِيْم مُهَاجِرِيْنِ دُكِيْنِ دَارُوْلِيْكِ الْفَلْكَ كَبِيرِ لَامِا كَرَا
﴿٥٨﴾ اُخْلَقُوا ثُمَّ اُنْسَانُوا اُخْرَى مُهَاجِرِيْنِ دُكِيْنِ دَارُوْلِيْكِ الْفَلْكَ بَيْنَ دَوْلَتَيْنِ دَارُوْلِيْكِ حَلِيمِ
﴿٥٩﴾ مُهَاجِرِيْنِ دَارُوْلِيْكِ الْفَلْكَ كَبِيرِ لَامِا كَرَا مُهَاجِرِيْنِ دَارُوْلِيْكِ حَلِيمِ
﴿٦٠﴾ مُهَاجِرِيْنِ دَارُوْلِيْكِ الْفَلْكَ كَبِيرِ لَامِا كَرَا مُهَاجِرِيْنِ دَارُوْلِيْكِ حَلِيمِ
﴿٦١﴾ مُهَاجِرِيْنِ دَارُوْلِيْكِ الْفَلْكَ كَبِيرِ لَامِا كَرَا مُهَاجِرِيْنِ دَارُوْلِيْكِ حَلِيمِ

ذلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِإِثْمٍ بُغْيَ عَلَيْهِ

Zaalika wa man 'aaqaba bimisli maa 'ooqiba bihee summa bughiya 'alaahi

لَيَعْصُمَنَّهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌ غَفُورٌ ﴿٦٠﴾ **ذلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ يُولُجُ**

la yansurannahul laah; innal laaha la 'Afuwwun Ghafoor(60)Zaalika bi annal laaha yoolijul

الَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولُجُ النَّهَارَ فِي الَّيْلِ وَأَنَّ اللَّهَ سَيِّعٌ

laila fin naahari wa yoolijun naahara fil laili wa annal laaha Samee'um

بَصِيرٌ ﴿٦١﴾ **ذلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ**

Baseer(61)Zaalika bi annal laaha Huwal haqqu wa anna maa yad'oona min

دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ ﴿٦٢﴾ **الَّمْ تَرَ أَنَّ**

doonihue huwal baatil wa annal laaha Huwal 'Aliyyul kabeer(62)Alam tara annal

الَّهُ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَتُصَبِّحُ الْأَرْضُ مُخْضَةً

laaha anzala minas samaaa'i maaa'an fatusbihul ardu mukhdarrah;

إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ حَبِيبٌ ﴿٦٣﴾ **لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ**

innal laaha Lateefun Khabeer(63)Lahoo ma fis samaawaati wa ma fil ard;

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ﴿٦٤﴾ **الَّمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا**

wa innal laaha la Huwal Ghaniyyul Hameed (section 8) (64)Alam tara annal laaha sakhhara jakum maa

فِي الْأَرْضِ وَالْفُلُكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ إِلَامِرَةً وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ

fil ardi wal fulka tajree fil bahri bi amrihee wa yumsikus samaaa'a

أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا يَأْذِنُهُ إِنَّ اللَّهَ بِإِنْسَاسٍ لَرَءُوفٌ

an taqa'a 'alal ardi illaa bijizn; innal laaha binnaasi la Ra'oofur

رَحِيمٌ ﴿٦٥﴾ **وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمْتَكِّمُ ثُمَّ يُحِيِّيْكُمْ**

Rahim(Wa Huwal lazee ahyaakum summa yumeetukum summma yuheekum);

إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ ﴿٦٦﴾ **لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ**

innal insaana lakafoor(66)Likulli ummatin ja'alnaa mansakan hum naasikooohu

معنی: اون ھڈہ اور سکھہ دیکی ادا دلکپ ایک الٰہ کے برادر لہا کرنا

معنی: اون ساکن اور سکھی اور سکھیں ساکن گھی کے بعد (بیوی) آئی آؤ کوچھیم (ناک) میں جھپٹ کر پڑھا

معنی: اس سب ادیک ایک الٰہ کے برادر لہا کے پڑھا جب ہے

فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ وَادْعُ إِلَيْكَ إِنَّكَ لَعَلَى هُدًى

falaal yunaazi 'unnaka fil amr; wad'u ilaa Rabbika innaka la 'alaa hudam

مُسْتَقِيمٌ ﴿٦٨﴾ **وَإِنْ جَدَلُوكَ فَقُلْ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ**

mustaqeem(67) Wa in jaadalooka faqulil laahu a'lamu bimaa ta'maloon(68)

أَللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿٦٩﴾

Allaahu yahkumu bainakum Yawmal Qiyaamat feema kuntum feehi takhtalifoon(69)

أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّ

Alam ta'lam annal laaha ya'lamu maa fis samaaa'i wal ard; inna

ذَلِكَ فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ وَيَعْبُدُونَ

zaalika fee kitaab; inna zaalika 'alal laahi yaseer(70)Wa ya'budoona

مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْنَ بِهِ سُلْطَنًا وَمَا لَيْسَ لَهُمْ

min doonil laahi maa lam yunazzil bihee sultaanaw wa maa laisa lahum

بِهِ عِلْمٌ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ ﴿٧١﴾ **وَإِذَا تُشْلِي عَلَيْهِمْ**

bihee 'ilm; wa maa lizzaalimeena min naseer(71)Wa izaa tutlaa 'laihim

إِيْتَنَا بِيَنِّتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنَكَرَ يَكَادُونَ

Aayaatunaa baiyinaatin ta'rifu fee wujoohil lazeena kafarul munkara yakaadoona

يَسْطُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ إِيْتَنَا قُلْ أَفَأَنِئِنْكُمْ بِشَرِّ

yastoona bil lazeena yatloona 'alaihim Aayaatunaa; qul afaa unab bi'ukum bisharrim

مِنْ ذَلِكُمْ أَنَّا رَأَيْنَا اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا طَوَّبَنَا

min zaalikum; an Naaru wa 'adhal laahul lazeena kafaroo wa bi'sal

الْمُصِيرُ ﴿٧٢﴾ **يَا يَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتِعِوا لَهُ إِنَّ**

maseer (section 9) (72) Yaaa ayyuhan naasu duriba masalun fastami'oo lah; innal

الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوْا جَتَمَعُوا

lazeena tad'oona min doonil laahi lai yakhluqoo zubaaban wa lawijtama'oo

معنی: اون ہڈے اور سم مٹھے دیکھا اداڑا کیاں الف کے برادر لاما کرنا

معنی: اون سماں اداڑا کیاں اور سم مٹھے دیکھا اداڑا کیاں مٹھے دیکھا (ب) ہوئی آؤ اوناں پیش، (ب) آئی آپ

معنی: اس سب سے اداڑا کیاں کے برادر لاما کے پڑھا جائیں گے

معنی: .. تمیں الف کے برادر پانچ الف کے برادر لاما کے پڑھا جائیں گے

لَهُ طَ وَإِنْ يَسْلُبُهُمُ الْذِبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَقْدِمُهُ طَ ضَعْفَ

lahoo wa iny yaslab humuz zubbabu shai'al laa yastan qizoohu minh; da'ufat

الظَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ ﴿٧٣﴾ مَا قَدَرُوا اللَّهُ حَقّ قَدْرِهِ طَ إِنَّ اللَّهَ

taalibu walmatloob(73)Maa qadrul laaha haqqa qadrih; innal laaha

لَقُوْيٌ عَنِيزٌ طَ إِنَّ اللَّهَ يَضْطَغِي مِنَ الْمَلِكَةِ رُسُلًا وَ مِنَ

la Qawiyyun 'Azeez(74)Allahu yastafee minal malaa'i kati Rusulanw wa minan

النَّاسِ طَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ طَ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَ

naas; innal laaha Samee'u Baseer(75)Ya'lamu maa baina aydeehim wa

مَا خَلَفُهُمْ طَ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ طَ يَا يَاهَا الَّذِينَ آمَنُوا

maa khalfahum; wa ilal laahi turja'ul umoor(76)Yaaa ayyuhal lazeena aamanur

أَرْكَعُوا وَاسْجَدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعُلُوا الْخَيْرُ لَعَلَّكُمْ

ka'oo wasjudoo wa'badoo Rabbakum waf'alul khaira la'allakum

تُقْلِحُونَ طَ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ طَ هُوَ جَنِّبَتُكُمْ

tuflihoon (make sajda) (77) Wa jaahidoo fil laahi haqqa jihaadih; Huwaj tabaakum

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَاجٍ طَ مِلَّةَ أَبِيكُمْ

wa maa ja'ala 'alaikum fid deeni min haraj; Millata abeekum

إِبْرَاهِيمَ طَ هُوَ سَمِّكُمُ الْمُسْلِمِينَ هَذِهِ مِنْ قَبْلٍ وَ فِي هَذَا

Ibraheem; Huwa sammaakumul muslimeena min qablu wa fee haaza

لَيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَ تَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَىٰ

li yakoonar Rasoolu shaheedan 'alaikum wa takoonoo shuhadaaa'a 'alan

النَّاسِ هَذِهِ فَاقِيْمُوا الصَّلَاةَ وَاتُّوا الزَّكُوْةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ طَ هُوَ

naas; fa aqeemus salaata wa aatuz zakaata wa'tasimoo billaahi Huwa

مَوْلَكُمْ طَ فَنِعْمَ الْمُوْلَى وَ نِعْمَ النَّصِيرُ

mawlaakum fani'mal mawlaa wa ni'man naseer (section 10) (End Juz 17) (78)

١٨

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سُورَةُ الْمُؤْمِنُونَ

Bismillaahir Rahmaanir Raheem

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ۖ إِنَّ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَشِعُونَ

Qad aflahal mu'minoon(1)Allazeena hum fee Salaatihim khaashi'oon(2)

وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ۖ وَالَّذِينَ هُمْ لِنَزَّلَكُوٰةٌ

Wallazeena hum 'anillaghwimu'ridoon(3) Wallazeena hum liz Zakaati

فَعَلُونَ^٢ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُوْجِهِمْ حَفِظُونَ^٣ إِلَّا عَلَىٰ

faa'iloona(4) Wallazeena hum lifuroo jihim haafizoon(5) Illaa 'alaaa

أَرْوَاحُهُمْ أَوْمَا مَلَكُتُ أَيِّنَاهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ

azwaajihim aw maa malakat aimaanuhum fa innahum ghairu maloomeen(6) Famanib

إِنَّمَا تُغْنِي وَرَأْءَهُ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعُدُونَ ۝ وَالَّذِينَ هُمْ لَا مُنْتَهٰمُ

taghaa waraaa'a zaalika fa ulaaa'ika humul 'aadoon(7) Wallazeena hum li amaanatihim

wa 'ahdihim raa'oon(8) Wallazeena hum 'ala Salawaatihim yuhaafizoon(9) Ulaaa'i ka

الْوَرْتُونَ ١٠ الَّذِي يَرْتَوْنَ الْفَرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ

humul waarisoon(10) Allazeena yarisoonal Firdawsa hum feehaa khaalidoon(11)

١٢ حَمْدُ اللّٰهِ مَنْ سَلَّمَ مِنْ طَيْنٍ خَلَقَنَا الْإِنْسَانَ مِنْ

Wa laqad khalaqnal insaana min sulaalatim minteen(12) Summa ja'alhaahu

فَإِنَّمَا حَلَقْنَا النَّطْفَةَ عَلَقَهُ وَخَلَقْنَا

nutfatan fee qaraarim makeen(13) Summa khalaqnan nutfata 'alaqatan

مَفْعُلٌ فَخَلَقْنَا لِلْمُفْعَلِهِ عَظِيمًا فَدَسُونا الْعِظَمَ لِحَمَّامٍ

fakhalaqnal 'alaqata mudghatan fakhalaq nal mudghata 'izaaman fakasawnal 'izaama lahman summa

الشانة حلقا احر فتبرك الله احسن الحلقين

منزل ۲ **تلقیہم:** حروف کو پڑھنے والوں کو رکنا
غُصہ: نون مدد و اور سهم مدد دی کی اور کوئی اللہ کے بر ایلہ کرنا
اِلخفا: نون ساکن اور حکم اور سهم ساکن حس کے بعد (ب) یوں آکی اُلوجیہم (ناف) میں پھر کر پڑھنا
دُجیں: اس سب کو ایک اللہ کے بر ایلہ کر کے پڑھنا جبکہ پیش میں کے
دُخُل: تین اللہ کے بر ایلہ پیش اف کے بر ایلہ کر کے پڑھنا جبکہ

بَعْدَ ذَلِكَ لَيَّقِتُوْنَ ﴿١٥﴾ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَّـةِ تُبَعَثُوْنَ ﴿١٦﴾ وَلَقَدْ

ba'da zaalika la maaiyitoon(15) Summa innakum Yawmal Qiyaamatib tub'asoon(16) Wa laqad

خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَّـاً آتِقٌ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخُلُقِ غَـلِيْـنَ ﴿١٧﴾

khalaqnaa fawqakum sab'a taraaa'iqa wa maa kunnaa 'anil khalqi ghaaffileen(17)

وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدْرِ فَـاـسـكـنـهـ فـي الـأـرـضـ وـاـنـاـ

Wa anzalnaa minas samaaa'i maa'am biqadarin fa-askannaahu fil ardi wa innaa

عَلَى ذَهَابِهِ لَقَدِرُوْنَ ﴿١٨﴾ فَـاـشـاـنـاـ لـكـمـ بـهـ جـنـتـ مـنـ نـخـيـلـ

'ala zahaabim bihee laqaa diroon(18) Fa anshaanaa lakum bihee Jannaatim min nakheelinw

وَأَعْنَابٌ لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهٌ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُوْنَ ﴿١٩﴾ وَشَجَرَةٌ

wa a'naab; lakum feehaa fawaakihu kaseeratunw wa minhaa taakuloon(19) Wa shajaratun

تَخْرُجٌ مِنْ طُورِ سَيْنَاءَ تَبِعُهُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٌ لِلْأَكْلِيْـنَ ﴿٢٠﴾

takhruju min Toori Sainaa'a tambutu bidduhni wa sibghil lil aakileen(20)

وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةٌ نُسْقِيْـكـمـ مـهـاـ فـيـ بـطـوـنـهـاـ وـلـكـمـ

Wa inna lakum fil an'aami la'ibrah; nusqueekum mimmaa fee butoonehaa wa lakum

فِيهَا مَنَافِعٌ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُوْنَ ﴿٢١﴾ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ

feehaa manaafi'u kaseeratunw wa minhaa taakuloon(21) Wa 'alaihha wa'alal fulki

تُحَلِّـلـوـنـ ﴿٢٢﴾ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَقُولُمْ اعْبُدُ دُوا

tuhmaloon (section 1) (22) Wa laqad arsalnaa Noohan ilaa qawmihee faqaala yaa qawmi'buludul

اللَّهُمَّ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِهٗ أَفَلَا تَتَّقُوْنَ ﴿٢٣﴾ فَقَالَ الْمُلُوُّـالـذـيـنـ

laaha maa lakum min ilahin ghairuhoo afalaa tattaqoon(23) Faqaalal mala'ul lazeena

كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا هـذـا إـلـا بـشـرـ مـشـلـكـمـ لـيـرـيـدـ أـنـ يـتـفـصـلـ

kafaroo min qawmihee maa haazaaa illaa basharum mislukum yureedu ai yatafaddala

عَلَيْكُمْ وَلَوْشَاءُ اللَّهُ لَأَنْزَلَ مَلِيْـكـةـ مـاـ سـيـعـنـاـ بـهـذـاـ فـيـ أـبـاـنـاـ

'alaikum wa law shaaa'al laahu la anzala malaaa'ikatun maa sami'naa bihaazaa feee aabaaa'inal

مُتَّقَ: اُونِي هادی واریم مفتھ وکی آدا زلولیک الٰف کے برادر لہما کرنا

مُنْزَل: ۲ قَلْقَلَم: حروف کو پر لینی آدا زلولیک کے بھائی آدا زلولیک رکن

مُوكَرَی: الٰف کے آدا زلولیک کوئی بھائی نہیں (ب) ہوئی آدا زلولیک شیخ (آ) میں مجھا کرچے جانا

مُتَّقَ: اُن سب سے آدا زلولیک الٰف کے برادر لہما کے پڑھانے اجب ہے

الْأَوَّلِينَ ﴿٢٤﴾ إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ بِهِ جِنَّةٌ فَتَرَبَّصُوا بِهِ حَتَّىٰ

awwaleen(24) In huwa illaa rajulum bihee jinnatun fatarabbasoo bihee hattaa

حِينِ ﴿٢٥﴾ قَالَ رَبُّ النَّصْرَةِ نِبِيًّا كَذَّابُونَ ﴿٢٦﴾ فَاوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ

heen(25) Qaala Rabbin surnee bimaa kazzaboon(26) Fa awhainaaa ilaihi anis

اَسْنَعَ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَحَبِّنَا فَإِذَا جَاءَ أَجَاءَ اَمْرُنَا وَفَارَ الشَّوَّدُ
na'il fulka bi a'yuninaa wa wahyinaa fa izaa jaaa'a amrunaa wa faarat tannooru

فَاسْكُنْ فِيهَا مِنْ كُلِّ رُوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَاهْلَكْ إِلَّا مَنْ سَبَقَ

fasluk feehaa min kullin zawjainis naini wa ahlaka illaa man sabaqa

عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ وَلَا تُخَاطِبُنِي فِي الدِّينِ ظَلِمُوا إِنَّهُمْ

'alaihil qawlu minhum wa laa tukhaat ibnee fil lazeena zalamooo innaahum

مُغْرِقُونَ ﴿٢٧﴾ فَإِذَا سَتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِّ

mughraaon(27) Fa izas tawaita ata wa mam ma'aka 'alal fulki faqul

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّنَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّلِيمِينَ ﴿٢٨﴾ وَقُلْ رَبِّ

hamdu lillaahil lazee najjaanaa minal qawmiz zalimeen(28) Wa qur Rabbi

أَنْزَلَنَا مُنْزَلًا مُبَرَّكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزَلِينَ ﴿٢٩﴾ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ

anzilnee munzalam mubaarakanw wa Anta khairul munzileen(29) Inna fee zaalika la Aayaatinw

وَإِنْ كُنَّا لَهُمْ بِتَلِيْنَ ﴿٣٠﴾ ثُمَّ أَشَانَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنَانًا أَخْرَيْنَ

wa in kunnaa lamubtaleen(30) Summaa anshaana mim ba'dihim qarnan aakhareen(31)

فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ

Fa arsalnaa feehim Rasoolam minhum ani'budul laaha maa lakum min ilahin

بَعْ

غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَقَوَّنَ ﴿٣٢﴾ وَقَالَ الْبَلَامُونَ قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَ

ghairuhoo afalaa tattaqoon (section 2) (32) Wa qaatal mala-u min qawmihil lazeena kafaroo wa

كَذَّبُوا بِلِقَاءَ الْآخِرَةِ وَأَتْرَفُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا مَا هُدَآ إِلَّا

kazzaboo bi liqaail Akhirati wa atrafnaahum fil hayaatid dunyaa maa haazaa illaa

منزل ۲ ﴿٣٣﴾ تَقْتِيْمِ: حروف کو پڑی جائیں اور کوچھ رکھنا
کوچھ رکھنا ایک اور سہم سانگ میں کے بعد (ب) یا (ک) ایک آٹو ٹیکسٹ (ت) میں بھی کر سکتا ہے
جیسے تین سب سے ایک الک کے پڑھنا کر کے پڑھنا ایسے بھی ہے

بَشَّرَ مِثْلَكُمْ لِيَاكُلُّ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشَرِّبُ مِمَّا تَشَرِّبُونَ

basharum mislukum yaakulu mimmaa taakuloona minhu wa yashrabu mimmaa tashraboona(33)

وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَّرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذَا لَخِسْرَةً ﴿٣٤﴾ **أَيَعْدُكُمْ أَنَّكُمْ**

Wa la'in at'atum basharam mislakum innakum izal lakhaasiroon(34) A-Ya'idukum annakum

إِذَا مِتْتُمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ ﴿٣٥﴾ **هَيَّاهَا هَيَّاهَا**

izaa mittum wa kuntum turaaban wa izaaman annakum mukhraajoon(35) Haihaata haihaata

لِيَأْتُو عَدُوْنَ ﴿٣٦﴾ **إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَّاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا**

limaa too'adoon(36) In hiya illaa hayaatunad dunyaa namootu wa nahyaa wa maa

نَحْنُ بِسَبَبِ عُوْشِينَ ﴿٣٧﴾ **إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَ**

nahnu bimab'ooseen(37) In huwa illaa rajulunif taraa 'alal laahi kaziban wa

مَا نَحْنُ لَهُ بِمُؤْمِنِينَ ﴿٣٨﴾ **قَالَ رَبِّ اصْرَنِي بِسَاكِنَذْبُونِ** ﴿٣٩﴾ **قَالَ عَمَّا**

maa nahnu lahuu bimu'mineen(38) Qaala Rabbin surnee bimaa kazzaboon(39) Qaala 'ammaa

قَلِيلٌ لَيُصِحُّ نِدِيمِينَ ﴿٤٠﴾ **فَاخَذَتُهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ فَجَعَلْنَاهُمْ**

qaleel la yusbihunna naadimeen(40) Fa akhazat humus saihatu bilhaqqi faja'alnaahum

غُشَّاءٌ فَبَعْدًا الْلُّقُومُ الظَّلِيمِينَ ﴿٤١﴾ **ثُمَّ أَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قُرْنَانِ**

ghusaa'a'a; fabu'dal lilqaw miz zaalimeen(41) Summa anshaanaa mim ba'dihim quroonan

أَخْرَيْنِ ﴿٤٢﴾ **مَا تُسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجْلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ** ﴿٤٣﴾ **ثُمَّ**

aakhareen(42) Maa tasbiq min ummatin ajalahaa wa maa yastaakhiroon(43) Summa

أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتَرَّا طَكْلَيَا جَاءَ أُمَّةً رَسُولُهَا كَذَبُوهُ فَاتَّبَعُنَا

arsalnaa Rusulanaa tataraa kulla jaaa'a ummatar Rasooluhaa kazzaboo; fa atba'anaa

بَعْصَهُمْ بَعْضًا وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ فَبَعْدًا الْقَوْمِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٤٤﴾

ba'dahum ba'danw wa ja'alnaahum ahaadees; fabu'dal liqawmil laa yu'minoon(44)

ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَى وَآخَاهُ هُرُونَ هُرُونَ هُرُونَ هُرُونَ هُرُونَ هُرُونَ هُرُونَ هُرُونَ ﴿٤٥﴾ **مُبِينِينَ**

Summa arsalnaa Moosaa wa akhaahu Haaroona bi Aayaatinaa wa sultaanim mubeen(45)

إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَائِهِ فَاسْتَكْبِرُوا وَكَانُوا قَوْمًا عَالِيًّا ﴿٤٦﴾ فَقَالُوا

Ilaa Fir'awna wa mala'ihee fastakbaroo wa kaanoo qawman 'aleem(46) Faqaaloo

أَنَّمِنْ لِبَشَّارِينَ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عِبْدُونَ ﴿٤٧﴾ فَكَذَّبُوهُمَا

annu'min libasharaini mislinaa wa qawmuhumaa lanaa 'aabidoon(47) Fakazzabohumaa

فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ ﴿٤٨﴾ وَلَقَدْ أَتَيْنَا مُوسَى الْكِتَبَ لَعَلَّهُمْ

fakaanoo minal mmuhlakeen(48) Wa laqad aatainaa Moosal Kitaaba la'allahum

يَهْتَدُونَ ﴿٤٩﴾ وَجَعَلْنَا إِبْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّةَ آيَةً وَأَوْيَنْهُمَا إِلَى

yahtadoon(49) Wa ja'alnab na Maryama wa ummahooo aayatannw wa awainaahumaaa ilaa

٤٨

رَبْوَةٌ ذَاتٌ قَنَارٍ وَمَعِينٌ ﴿٥٠﴾ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ كُلُّوْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ

rabwatin zaati qaraarinw wa ma'een (section 3)(50) Yaaa aiyuhar Rusulu kuloo minat taiyibaati

وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِسَاتُعْمَلُونَ عَلَيْمٌ ﴿٥١﴾ وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ

wa'maloo saalihan innee bimaa ta'maloona 'Aleem(51) Wa inna haaziheee ummatukum

أُمَّةٌ وَاحِدَةٌ وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونَ ﴿٥٢﴾ فَتَقْطَعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ

ummatanw waahidatanw wa Ana Rabbukum fattaqoon(52) Fataqatta'ooo amrahum bainahum

زُبُرًا طَكُلُ حِزْبٌ بِسَالَدَيْهِمْ فِي حُرُونَ ﴿٥٣﴾ فَذَرُهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّىٰ

zubraa; kullo hizbim bimaa ladaihim farihoon(53) Fazarhum fee ghamratihim hattaa

جِئْنِ ﴿٥٤﴾ أَيَّهُسَبُونَ أَنَّمَا نِيدُهُمْ بِهِ مِنْ مَالٍ وَبَنِينِ ﴿٥٥﴾ نُسَارِعُ

heen(54) A-yahsabonna annnاماا numiduhum bihee mimmaalinw wa baneen(55) Nusaari'u

لَهُمْ فِي الْخَيْرِ طَبْلٌ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٥٦﴾ إِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ

lahum fil khairat; bal laa yash'uroon(56) Innal lazeena hum min

حَشْيَةٌ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ ﴿٥٧﴾ وَالَّذِينَ هُمْ بِأَيْتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ

khashiyati Rabbihim mushfiqoon(57) Wallazeena hum bi Aayaati Rabbihim yu'mnoon(58)

وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ ﴿٥٨﴾ وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا اتَّوَا وَ

Wallazeena hum bi Rabbihim laa yushrikoon(59) Wallazeena yu'tona maaa aataaw

قُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ لَجْعُونَ ﴿٦﴾

wa quloobuhum wajilatun annahum ilaa Rabbihim raaji'oon(60) Ulaaa'ika yusaari'oona

فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سِيقُونَ ﴿٦﴾

fil khairaati wa hum lahaa saabiqoon(61) Wa laa nukallifu nafsan illaa wus'ahaa

وَلَدَيْنَا كِتَبٌ يََنْطَقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٧﴾

wa ladainaa kitaabun yantiqu bilhaqqi wa ahum la yuzlamoon(62) Bal quloobuhum

فِي غَيْرِهِ مِنْ هَذَا وَلَهُمْ أَعْيَانٌ مِنْ دُونِ ذَلِكَ هُمْ لَهَا

fee ghamratim min haaza wa lahum a'maalum min dooni zaalika hum laaha

عَمِيلُونَ ﴿٨﴾

'aamiloon(63) Hattaaa izaaa akhaznaa mutrafeehim bil'azaabi izaa hum yaj'aroon(64)

لَا تَجْزِرُوا الْيَوْمَ إِنَّكُمْ مِنَّا لَا تُنَصِّرُونَ ﴿٩﴾

Laa taj'arul yawma innakum minnaa laa tunsaaron(65) Qad kaanat Aayaateet tutlaa

عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ تَشْكِصُونَ ﴿١٠﴾

'alaikum fakuntum 'alaaa a'qaabikum tankisoon(66) Mustakbireena bihee saamiran

تَهْجُرُونَ ﴿١١﴾

tahjuroon(67) Afalam yaddabbarul qawla am jaaa'ahum maa lam yaati aabaaa'ahumul

الْأَوَّلِينَ ﴿١٢﴾

awwaleen(68) Am lam ya'rifo Rasoolahum fahum laahoo munkiroon(69) Am

يَقُولُونَ بِهِ جَنَّةٌ ﴿١٣﴾

yaqooloona bihee jinnah; bal jaaa'ahum bilhaqqi wa aksaruhum lil haqqi

كُرِهُونَ ﴿١٤﴾

kaarihoon(70) Wa lawit taba'al haqqu ahwaaa'ahum lafasadatis samaawaatu wal ardu

وَمَنْ فِيهِنَّ ﴿١٥﴾

wa man feehinna; bal atainaahum bizikrihim fahum 'an zikrihim mu'ridoon(71)

مُكْثُرٌ: اونوں میں مکھ دیکی آؤ اڑاکیں الگ کے بر اپر لامہ کرنا

مُنْزَلٌ: قلعہ، حروف کو پر لینی آؤ کوچھ رکھنا

مُكْرِهٌ: اسکو اور کوئی بخوبی نہیں کے بعد (ب) ہوئی آؤ کوچھ شہم (ٹک) میں بھیجا کر جانا

مُغْرِضٌ: اس سب سماں الگ کے بر اپر لامہ کر کے پڑھنا اجب ہے

أَمْ تَسْتَعْلِمُهُمْ خَرْجًا فَخَرَّا إِلَيْكَ حَيْرٌ وَ هُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ﴿٧﴾ وَ

Am tas'aluhum kharjan fakharaaju Rabbika khairunw wa Huwa khairur raaziqeen(72) Wa

إِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ مُسْتَقِيمٍ ﴿٨﴾ وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ

innaka latad'oohum ilaa Siraatim Mustaqeem(73) Wa innal lazeena laa yu'minoona

بِالْأُخْرَى عَنِ الصِّرَاطِ لَنَكِبُونَ ﴿٩﴾ وَلَوْزَ حِسْنُهُمْ وَكَشْفُنَا مَا بِهِمْ

bil Aakhirati 'anis siraati lanaakiboon(74) Wa law rahimnaahum wa kashafnaa maa bihim

مِنْ ضُرِّ الَّذِجُوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿١٠﴾ وَلَقَدْ أَخْذَنَهُمْ

min durril lalajjoo fee tughyaanihim ya'mahoona(75) Wa laqad akhaznaahum

بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَنُوا لَرِبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّرُ عُونَ ﴿١١﴾ حَتَّىٰ إِذَا

bil'azaabi famastakaanoo li Rabbihim wa maa yatastrarra'oon(76) Hattaaa izaa

فَتَخْنَأْ عَلَيْهِمْ بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ إِذَا هُمْ فِيهِ مُمْبَلِسُونَ ﴿١٢﴾

fatahnnaa 'alaikum baaban zaa 'azaabin shadeedin izaa hum feehi mublisoon (section 4) (77)

وَهُوَ الَّذِي أَشَارَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْدَةَ طَقْلِيلًا

Wa Huwal lazee ansha a-lakumus sam'a wal absaara wal af'idah; qaleelam

مَاتَشْكُرُونَ ﴿١٣﴾ وَهُوَ الَّذِي ذَرَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ

maa tashkuuron(78) Wa Huwal lazee zara akum fil ardi wa ilaihi tuhsharoon(79)

وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ وَلَهُ اخْتِلَافُ الْيَوْمِ وَالنَّهَارِ ط

Wa Huwal lazee yuhhee wa yumeetu wa lahukh tilaaful laili wannahaar;

أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٨٠﴾ بَلْ قَالُوا مِثْلَ مَا قَالَ الْأَوْلُونَ ﴿٨١﴾ قَالُوا عَرَادَا

afalaa ta'qiloon(80) Bal qaalo misla maa qaalal awwaloon(81) Qaalooo 'a-izaa

مِثْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا عِرَانًا لَمَبْعُوثُونَ ﴿٨٢﴾ لَقَدْ وَعَدْنَا نَحْنُ

mitnaa wa kunnaa turaabanw wa 'izaaman 'a-innaa lamab 'oosoon(82) Laqad wu'idnaa nahnu

وَابَاؤُنَا هَذَا مِنْ قَبْلِ إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴿٨٣﴾ قُلْ

wa abaaa'umaa haazzaa min qablu in haazzaa illaaa asaateerul awwaleen(83) Qul

مُتَّقَّدٌ: اُولوں داروں سکھتے تھے کہ آئا تو اپنے الٰہ کے برپا رہا کرتا

منزل ۲: تلقیتم: جروف کو پیر یعنی آپ کو اور کوچہ رکھنا۔ قلقلم: جرس، سکن جرف کو اکھر پر رکھنا۔

کوچھ: الٰہ کی آوارگی یعنی اور سکم سکن جس کے بعد (بے ہو) کی آئی وہی کوچھ (آک) میں جھپٹ کر پڑھنا۔

جھپٹ: اس سب سے آپ کے برپا رہا کے برپا رہا کرنے کے پڑھنا۔ اب یہ بے

لِّيَنَ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ سَيِّقُولُونَ بِلَهٗ

limanil ardu wa man feehaaa in kuntum ta'lamoona(84) Sa-yaqooloona lillaah;

قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ٨٥ **قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَ**

qul afalaa tazakkkaroon(85) Qul mar Rabbus samaawaatis sab'i wa

رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ٨٦ **سَيِّدُ الْوُلُونَ بِلِهٖ** ٨٧ **قُلْ أَفَلَا تَتَقَوَّنَ** ٨٨

Rabbul 'Arshil 'Azeem(86) Sa yaqooloona lillaah; qul afalaa tattaqoon(87)

قُلْ مَنْ بَيْدِهِ مَلْكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَ هُوَ يُحِيطُ بِوَلَا يُحَاجِرُ عَلَيْهِ

Qul mam bi yadihee malakootu kulli shai'inw wa Huwa yujeeru wa laa yujaaru 'alaihi

٨٩ ﴿٨٨﴾ اَنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ سَيَقُولُونَ لِلّهِ قُلْ فَأَنِّي تُسْحَّرُونَ

in kuntum ta'lamoona lillaah; qul fa annaa tus haroon(89)

بَلْ أَتَيْنَاهُم بِالْحَقِّ وَإِنَّهُمْ لَكَذِّابُونَ ﴿٢٧﴾ مَا تَحْدِثُ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ

مَكَانٌ مَعْهُ مِنْهُ اللَّهُ إِذَا لَزَهَتْ كُلُّ الْهَمَاءِ وَ

wa maa kaana ma'ahoo min ilaah; izal lazababa kulbi ilaahim bimaa khalaga wa

عَصْمُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ طَسْبُحُنَّ اللَّهُ عَمَّا يَصِفُو

عَلِمَ الْغَيْبُ وَالشَّهَادَةُ فَتَعْلَمُ عَمَّا يُشَرِّكُونَ ﴿٩٣﴾

'Aalilim Ghaibi wash shahhaadi fata'alaa 'ammaa yushrikoon (section 5) (92) Qur Rabbi immmaa

٩٣ **رَبِّ فَلَا تَجْعَلِي فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ**

turiyannee maa yoo'adoon(93) Rabbi falaa taj'alnee fil qawmiz zaalimeen(94)

Digitized by srujanika@gmail.com

أَخْسَنُ الستَّةِ نَحْمٌ أَعْلَمُ بِسَائِصَفُونَ ۖ وَقَادَرٌ أَعْدَذِكَ ۖ

٦٩ مِنْ هَمَزَتِ الشَّيْطِينُ ٦٨ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ

min hamazaatish Shayaateen(97) Wa a'oozu bika Rabbi ai-yahdureen(98)

٦٧ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدُهُمُ الْبَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونَ ٦٦ لَعَلَّىٰ

Hattaaa izaa jaaa'a ahada humul mawtu qaala Rabbir ji'oona(99) La'aleee

٦٥ أَعْمَلُ صَابِحًا فِيهَا تَرَكْتُ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَاتِلُهَاٰ وَمِنْ

a'malu saalihan feemaa taraktu kallaa; innahaa kalimatum huwa qaaa'iluhaa wa miuw

٦٤ وَرَآءِهِمْ بَرَزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبَعَثُونَ ٦٣ فَإِذَا نَفَخْتُ فِي الصُّورِ فَلَا

wararaa'iham barzakhun ilaa Yawmi yub'asoon(100) Fa izaa nufikha fis Soori falaaa

٦٢ أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَيْنِ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ ٦١ فَمَنْ ثَقَلَتْ مَوَازِينُهُ

ansaaba bainahum yawma'izinw wa laa yatasaaa'aloona(101) Faman saqulat mawaazee nuhoon

٦٠ فَأَوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ٥٩ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأَوْلَئِكَ الظَّالِمُونَ

fa ulaaa'ika humul muflihoon(102) Wa man khaffat mawaa zeenuhoo fa ulaaa'ikal lazeena

٥٨ حَسِنٌ وَّا أَنْفَسُهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَلِدُونَ ٥٧ تَلْفُحٌ وَجْوَهُهُمْ

khasiroo 'anfusahum fee Jahannama khaalidoon(103) Talfahu wujohahumun

٥٦ إِنَّا لَنَا أَخْرَجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عَدْنَا فَإِنَّا فَلِلَّٰهِ مُطْلِبُونَ ٥٥ قَالُوا بَنَانَا غَلَبْتُ عَلَيْنَا شِفَوتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ

Naaru wa hum feehaa kaalihoon(104) Alam takun Aayaatee tutlaa 'alaikum fakuntum

٥٤ بِهَا تُكَذِّبُونَ ٥٣ قَالُوا بَنَانَا شَفَوتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ

bihaa tukazziboon(105) Qaaloo Rabbanaa ghalabat 'alaina shiqwatunaa wa kunnaa qawman daaalleen(106)

٥٢ رَبَّنَا أَخْرَجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عَدْنَا فَإِنَّا فَلِلَّٰهِ مُطْلِبُونَ ٥١ قَالَ احْسُنُوا فِيهَا

Rabbanaa akhrijnaa minhaa fa in 'udnaa fa innaa zaalimoona(107) Qaalakh sa'oo feehaa

٥٠ وَلَا تُكَلِّبُونَ ٤٩ إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِيٍّ يَقُولُونَ رَبَّنَا

wa laa tukallimoona(108) Innahoo kaana fareequm min 'ibaadee yaqooloona Rabbanaaa

٤٨ امَّا فَاغْفِرْنَا لَنَا وَارْحَنْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرّٰحِيمِينَ ٤٧ فَاتَّخُذْ تِبْوَهُمْ

amannaafaghfir lanaa warhamnaa wa Anta khairul raahimeen(109) Fattakhaztumoohum

سِخْرِيًّا حَتَّىٰ أَنْسَوْكُمْ ذِكْرَهُ وَكُنْتُمْ مِّنْهُمْ تَضَعَّفُونَ ﴿١١٩﴾

sikhriyyan hattaaa ansawkum zikree wa kuntum minhum tadhakoon(110) Inee

جَزِيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا لَأَنَّهُمْ هُمُ الْفَاغِرُونَ ﴿١٢٠﴾

jazaituhum Yawma bimaa sabarooo annahum humul faaa'izoon(111) Qaala kam labistum

فِي الْأَرْضِ عَدَّةٌ سِنِينَ ﴿١٢١﴾ **قَالُوا لِيُشَانَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ فَسَلِّ**

fil ardi 'adada sineen(112) Qaaloo labisnaa yawman aw ba'da yawmin fas'alil

الْعَادِيْنَ ﴿١٢٢﴾ **قَلْ إِنَّ لَيْشْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا لَوْأَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ**

'aaddeen(113) Qaala il labistum illaa qaleelal law annakum kuntum ta'lamoona(114)

أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّنَا خَلَقْنَاكُمْ عَبْشًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ﴿١٢٣﴾

Afahsibtum annamaa khalaqnaakum 'abasanw wa annakum ilaina laa turja'oona(115)

فَتَعْلَمَ اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ ﴿١٢٤﴾

Fata'alal laahul Malikul Haqq; laaa ilaaha illaa Huwa Rabbul 'Arshil Kareem(116)

وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا أَخْرَىٰ لَا يُبْرَاهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّهَا حِسَابُهُ

Wa mai yad'u ma'allaahi ilaahan aakhara laa burhaana lahoo bihee fa inna maa hisaabuhoo

عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُغْلِحُ الْكُفَّارَ وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَإِذْحَمْ ﴿١٢٥﴾

'inda Rabbih; innahoo laa yufulihul kaafiroon(117) Wa qul Rabbigh fir warham

وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّحِيمِينَ

wa Anta khairur raahimeen (section 6) (118)

رَبُّ عَائِثَةٍ
٩

إِلَيْهَا
٢٣

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سُورَةُ النُّورِ
١٢٠

مَذْكُورَةٌ

Bismillaahir Rahmaanir Raheem

سُورَةُ أَنْزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا وَأَنْزَلْنَا فِيهَا آيَتٍ بَيِّنَاتٍ لَعَلَّكُمْ

Sooratun anzalnaahaa wa faradnaahaa wa anzalnaa feehaaa Aayaatim baiyinaatiil la'allakum

تَذَكَّرُونَ ﴿١٢٦﴾ **أَلْزَانِيَّةُ وَالْزَّانِيُّ فَاجْلِدُوهُ اكْلَ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةً**

tazakkaroon(1) Azzaaniyat wazzaanee fajlidoo kulla waahidim minhumaa mi'ata

معنی: اون ھڈہ اور سکھہ دیکی ادا اڑاکیں الک کے برادر لامہ کرنا

مِنْزَلٌ ۲۷ ﴿١٢٧﴾ قَلْبِيْمِ: حروف کو پر لینی آئندگانی اور کوچھ رکھنا۔ مکان حرف کو کارہ کرنا۔

کوچھ رکھنے والیں اور سکھیں اور سکھ مان کن جس کے لئے بھی آؤ تو کوچھ (ب) ہوں (کی) آؤ تو کوچھ (م) ہیں جیسا کچھ حدا

جیسا کچھ حدا۔ ان سب ایک الک کے برادر لامہ کے پڑھانا اجب ہے

جَلْدَةٌ وَ لَا تَأْخُذُكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ

jaldatinw wa laa taakhzukum bihimaa raafatun fee deenil laahi in kuntum

تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيُشَهِّدُ عَذَابَهُمَا طَائِفَةً مِنَ

tu'minoona billaahi wal Yawmil Aakhiri wal yashhad 'azaabuhumaa taaa'ifatum minal

الْمُؤْمِنِينَ ۝ أَلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَ الْزَانِيَةُ

mu'mineen(2) Azzaanee laa yankihu illaa zaaniyatun aw mushrikatanw wazzaaniyatun

لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانِيَ أَوْ مُشْرِكٌ وَ حُرَمَةً ذُلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ۝

laa yankihuhaaa illaa zaanin aw mushrik; wa hurrima zaalika 'alal mu'mineen(3)

وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةٍ شَهَدَاءَ

Wallazeena yarmoonal muhsanaati summa lam yaatoo bi-arba'ati shuhadaaa'a

فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَنِينَ جَلْدَةً وَ لَا تَقْبِلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبْدَأَ

fajlidoohum samaaneena jaldatanw wa laa taqbaloo lahumm shahaadatan abadaa;

وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَسِقُونَ ۝ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَ

wa ulaaa'ika humul faasiqoon(4) Illal lazeena taaboo mim ba'di zaalika wa

أَصْلَحُوا ۖ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ

aslahoo fa innal laaha Ghafoorur Raheem(5) Wallazeena yarmoona azwaajahum

وَلَمْ يَكُنْ لَّهُمْ شَهَادَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعٌ

wa lam yakul lahumm shuhadaaa'u illaaa anfusuhum fashahaadatu ahadihim arba'u

شَهَدَتْ بِاللَّهِ ۝ إِنَّهُ لَيْنَ الصَّدِيقِينَ ۝ وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ

shahaadaatim billaahi innahoo laminas saadiqeen(6) Wal khaamisatu anna la'natal

الَّهُ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكُذَبِينَ ۝ وَيَدْرُوَا عَنْهَا الْعَذَابَ

laahi 'alaihi in kaana minal kaazibeen(7) Wa yadra'u anhal 'azaaba

أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ ۝ إِنَّهُ لَيْنَ الْكُذَبِينَ ۝

an tashhada arba'a shahaa daatim billaahi innahoo laminal kaazibeen(8)

مُنْزَلٌ ۲۷ تَقْتِيمٌ: حروف کو پڑھنے کی آڑا لوکیں الف کے برادر لہما کرتا

مُنْخَلٌ: اونچے داروں سے مدد کی آڑا لوکیں الف کے برادر لہما کرتا

مُنْخَلٌ: اونچے داروں سے مدد کی آڑا لوکیں الف کے برادر لہما کرتا

مُنْخَلٌ: اونچے داروں سے مدد کی آڑا لوکیں الف کے برادر لہما کرتا

مُنْخَلٌ: اونچے داروں سے مدد کی آڑا لوکیں الف کے برادر لہما کرتا

وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّدِيقِينَ ﴿٩﴾

Wal khaamisata anna ghadabal laahi 'alaaihaa in kaana minas saadiqeen(9)

وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَابٌ حَكِيمٌ ﴿١٠﴾

Wa law laa fadlul laahi 'alaikum wa rahmatuhoo wa annal laaha Tawwaabun Hakeem (section 1) (10)

إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِإِلْفُكِ عَصِبَةً مِنْكُمْ لَا تَحْسِبُوهُ شَاهِلَّكُمْ ﴿١١﴾

Innal lazeena jaaa'oo bilifki 'usbatum minkum; laa tafsabooohu sharral lakum

بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ لِكُلِّ امْرٍ يُمِنُّهُمْ مَا اكْتَسَبُ مِنَ الْإِثْمِ ﴿١٢﴾

bal huwa khairul lakum; likul limri'im minhum mak tasaba minal-ism;

وَالَّذِي تَوَلَّ كِبِيرًا مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١٣﴾ لَوْلَا إِذْ سَعَتُمُوهُ

wallazee tawallaa kibrahoo minhum lahero 'azaabun 'azeem(11) Law laaa iz sami'tumooohu

ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا وَ قَالُوا هَذَا

zannal mu'minoona walmu'minaatu bi anfusihim khairanw wa qaaloo haazaaa

إِنْكُمْ مُبِينُونَ ﴿١٤﴾ لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شَهَادَاتٍ فَإِذْلَمْ يَأْتُوا

ifkum mmubeen(12) Law laa jaaa'oo 'alaihi bi-arba'ati shuhadaaaa'; fa iz lam yaatoo

بِالشَّهَادَاتِ فَأَوْلَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَذِبُونَ ﴿١٥﴾ وَلَوْلَا فَضْلُ

bishshuhadaaaa'i fa ulaaa 'ika 'indal laahi humul kaaziboon(13) Wa law laa fadlul

الَّهُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَكُمْ فِي مَا

laahi 'alaikum wa rahmatuhoo fiddunya wal aakhirati lamassakum fee maaa

أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١٦﴾ إِذْ تَلَقَّوْنَاهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ

afadtum feehi 'azaabun 'azeem(14) Iz talaqqawnahoo bi alsinatikum wa taqooloona

بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسِبُونَهُ هَيْنَا وَهُوَ عِنْدَ

bi afwaahikum maa laisa lakum bihee 'ilmunw wa tafsaboo nahoo haiyinaw wa huwa 'indal

الَّهُ عَظِيمٌ ﴿١٧﴾ وَلَوْلَا إِذْ سَعَتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ

laahi 'azeem(15) Wa law laaa iz sami'tu moohu qultum maa yakoona lanaaaa an

مُنْزَلٌ ۲۰ ﴿٢٠﴾ تَقْتِيسْهُمْ: حروف کو پر لینی، آنکے حروف کو پر لینا۔

مُكْوَفِّلُهُمْ: مکوون کرنے والے، مکوون کرنے والے کو مکوون کرنے والے کرنے والے۔

مُخْلَفُهُمْ: توں ساکن اور سکونتی اور سکونتی کے میں کے آنکھیں (آنکھیں) میں جھپٹ کر جھپٹا جانا۔

مُغْلَفُهُمْ: ان سب سے لاکپاں ایک الگ کے برابر لام کر کے پڑھنا۔ اسپر جائیں کے

نَّتَكَلَّمْ بِهَذَا سُبْحَنَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ ﴿١٦﴾ يَعْظُمُ اللَّهُ

natakallama bihaazaa Subhaanaka haaza buhtaanun 'azeem(16) Ya'izukumul

أَنْ تَعُودُوا إِلَيْهِ أَبَدًا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿١٧﴾ وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ

laahu an ta'oodoo limisihihee abadan in kuntum mu'mineen(17) Wa yubaiyinul laahu lakumul

الْآيَتِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ حَكِيمٌ ﴿١٨﴾ إِنَّ الَّذِينَ يُحْمِلُونَ أَنْ تَشْيِعَ

Aayaat; wallaahu 'Aleemun Hakeem(18) Innal lazeena yuhibboona an tashee'al

الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ أَمْنَوْا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

faahishatu fil lazeena aamanoo lahum 'azaabun aleemun fid dunyaa wal Aakhirah;

وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿١٩﴾ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَ

wallaahu ya'lamu wa antum laa ta'lamoon(19) Wa law laa fadlul laahi 'alaikum wa

رَحْمَةً

رَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿٢٠﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أَمْنَوْا

rahmatuhoo wa annal laaha Ra'oofur Raheem (section 2) (20) Yaaa aiyuhal lazeena aamanoo
لَا تَتَّبِعُوا خُطُوتِ الشَّيْطَنِ وَمَنْ يَتَّبِعُ خُطُوتَ الشَّيْطَنِ

Iaa tattabi'oo khutuwaatish Shaitaan; wa many-yattabi' khutuwaatish Shaitani

فِإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَ

fa innahoo yaamuru bilfahshaa'i walmunkar; wa law laa fadlul laahi 'alaikum wa

رَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزِّكِّي مَنْ يَشَاءُ

rahmatuhoo maa zakaa minkum min ahadin abadanw wa laakinnal laaha yuzakkee many-yashaa';

وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلَيْهِمْ ﴿٢١﴾ وَلَا يَأْتِلُ أُولُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةُ

wallaahu Samee'un 'Aleem(21) Wa laa yaatali ulul fadli minkum wassa'ati

أَنْ يُؤْتُوا أُولَى الْقُرْبَى وَالْمُسِكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

ai yu'too ulil qurbaa walmasaakeena walmuhaajireena fee sabeelillaahi

وَلَيَعْفُوا وَلَيَصْفُحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ

walya'foo walyasfahoo; alaa tuhibboona ai yaghfir alaahu lakum; wal laahu Ghafoor

منزل ۲ تفہیم: حروف کو پڑھنے اور کوہا رکھنا
کوہا، الف کے آوارگوئی اور کوہا رکھنا جیسے آوارگوئی اور کوہا رکھنا (ب) ہوئے آوارگوئی اور کوہا رکھنا (ا) میں جیسا کچھ حدا

جیسا کچھ حدا۔ تمیں اللہ کے برادر ہیں پائیں اور کوہا رکھنا کے پڑھنا اجب ہے

رَحِيمٌ ۖ إِنَّ الَّذِينَ يَرْمَوْنَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَفِلَتِ الْمُؤْمِنَاتِ لَعْنُوا

Raheem(22) Innal lazeena yarmoonal muhsanaatil ghaafilaatil mu'minaati lu'inoo

فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۖ يَوْمَ تَشَهَّدُ عَلَيْهِمْ

fid dunyaa wal Aakhirati wa lahum 'azaabun 'azeem(23) Yawma tashhhadu 'alaikhim

السِّنَّتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۖ يَوْمَ مَيْزِنٍ

alsinatuhum wa aideehim wa arjuluhum bimaa kaanoo ya'maloon(24) Yawma iziny

يُوَفِّقُهُمُ اللَّهُ دِينُهُمُ الْحَقُّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْبَيِّنُ ۖ

yuwaf feehimul laahu deenahumul haqqa wa ya'lamoona annal laaha Huwal Haqqul Mubeen(25)

الْخَيْثَيْثُ لِلْخَيْثَيْثِينَ وَالْخَيْثَيْثُونَ لِلْخَيْثَيْثَ ۚ وَالطَّيْبُ لِلْطَّيْبِينَ

Alkhabeesaatu lilkha beeseena walkhabeesoona lilkhabeesaati wattaiyibaatu littaiyibeeena

وَالطَّيْبُونَ لِلْطَّيْبِتِ ۗ أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مَمَّا يَقُولُونَ ۖ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ

wattaiyiboonna littaiyibaat; ulaa'iha mubar ra'ona maimma yaqooloona lahum maghfiratun

وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ۖ يَأْتِيْهَا الَّذِينَ امْنَوْا لَاتَّدْخُلُوا بِيُوتًا غَيْرَ بَيْوِتِكُمْ

wa rizqun kareem (section 3) (26) Yaaa aiyuhal lazeena aamanoo laa tadkhuloo buyootan ghaira buyootikum

حَتَّىٰ تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا ۖ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ

hatta tastaanisoo wa tusallimoo 'allaah ahlihaha; zaalikum khairul lakum la'allakum

تَذَكَّرُونَ ۖ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّىٰ يُؤْذَنَ

tazakkaroon(27) Fa il lam tajidoo feehaaa ahadan falaa tadkhuloooha hattaa yu'zana

لَكُمْ ۖ وَإِنْ قَيْلَ لَكُمْ أَرْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَرْبَكُ لَكُمْ ۖ وَاللَّهُ بِمَا

lakum wa in qeela lakumurji'oo farji'oo huwa azkaa lakum; wallaahu bimaa

تَعْمَلُونَ عَلِيِّمٌ ۖ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَذَخُلُوا بِيُوتًا غَيْرَ

ta'maloona 'Aleem(28) Laisa 'alaikum junaaahun ann tadkhuloo buyootan ghaira

مَسْكُونَةٌ فِيهَا مَتَاعٌ لَكُمْ ۖ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدِونَ وَمَا تَكْتُبُونَ

maskoonatin feeha mataa'ul lakum; wallaahu ya'lamu maa tubdoona wa maa taktumoon(29)

قُلْ لِلّمُؤْمِنِينَ يَغْصُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرْجَهُمْ ذَلِكَ

Qul lilmu' mineena yaghuuddoo min absaarihim wa yahfazoo furoojahum; zaalika

أَرْكَ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ حَبِيبُ بِسَايَضَنَعُونَ ۝ وَقُلْ لِلّمُؤْمِنِتِ يَغْصُّنَ

azkaa lahumm; innallaaha khabeerum bimaa yasna'oona(30) Wa qul lilmu'minat yaghduudna

مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظُنَ فُرْجَهُنَّ وَلَا يُبَدِّيْنَ زِينَتَهُنَ إِلَّا مَا

min absaarihinna wa yahfazna furoojahunna wa laa yubdeena zeenatahunna illaa maa

ظَاهِرَ مِنْهَا وَلَيَضْرِبَنَ بِخُمُرِهِنَ وَلَا يُبَدِّيْنَ ۝

zahara minhaa walyadribna bikhumurihinna 'ala juyoobihinna wa laa yubdeena

زِينَتَهُنَ إِلَّا لِبُعْوَلَتِهِنَ أَوْ أَبَاءِ بُعْوَلَتِهِنَ أَوْ أَبْنَاءِهِنَ

zeenatahunna illaa libu'oolatihinna aw aabaaa'i hinna aw aabaaa'i bu'oolati hinna aw abnaaa'i hinna

أَوْ أَبْنَاءِ بُعْوَلَتِهِنَ أَوْ أَخْوَانِهِنَ أَوْ بَنِيَّ أَخْوَتِهِنَ

aw abnaaa'i bu'oolatihinna aw ikhwaanihinna aw banee ikhwaanihinna aw banee akhawaatihinna

أَوْ نِسَاءِهِنَ أَوْ مَامَدَكْ أَيْتَاهُنَ أَوِ التَّلِيعِينَ غَيْرُ أُولَى الْإِرْبَةِ

aw nisaaa'i hinna aw maa malakat aimaanuhunna awit taabi'eena ghairi ilil irbat

مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطَّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهِرُوا عَلَى عَوْلَاتِ النِّسَاءِ

minar rijaali awit tiflillazeena lam yazharoo 'ala 'awraatin nisaaa'i

وَلَا يَضْرِبَنَ بِأَذْجُلِهِنَ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِيْنَ مِنْ زِينَتِهِنَ ۝ وَتُوبُوا

wala yadribna bi arjulihinna min zeenatihiin; wa tooboo

إِلَى اللَّهِ جَبِيعًا أَيْهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝ وَأَنْكِحُوا الْأَيَامِي

ilallaahi jammee'an aiyuhal mu'minoona la'allakum tufliehoon(31) Wa ankihil ayaamaa

مِنْكُمْ وَالصَّلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَاءِكُمْ ۝ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ

minkum was saaliheena min 'ibaadikum wa imaa'kum; iny-yakoonoo fuqaraaa'a

يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۝ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلَيْهِ ۝ وَلَيُسْتَعْفِفِ

yughni himul laahu min fadlih; wal laahu Waasi'un 'Aleem(32) Wal yasta'fifil

مِنْكُمْ: اُولَئِنَاءِ هُدُوتُهُمْ مُهَمَّةٌ وَكُلُّ أَذْكَرِكُمْ الْفَكَرُ كَمَرَكَرَ

مِنْكُمْ: حروفِ كُوپِرِیتی آئی اور کوچارکنا

مِنْكُمْ: حروفِ کوپریتی آئی اور کوچارکی اور سکھیں جیسے آئی

مِنْكُمْ: حروفِ کوپریتی آئی اور سکھیں جیسے آئی

الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُعْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۖ وَالَّذِينَ

lazeena laa yajidoona nikaahan hatta yughniyahumul laahu min fadlih; wallazeena

يَتَّفَعَّنُ الْكِتَبَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَا تُبُوْهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ

yabtaghoonal kitaaba mimmaa malakat aimaanukum fakaatiboom in 'alimtum feehim

خَيْرًاٰ وَأَتُوْهُم مِّنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي أَتَكُمْ ۖ وَلَا تُكِرُّهُوَا فَتَبَيِّنُكُمْ

khairanw wa aatoohum mimmaalil laahil lazeee aataakum; wa laa tukrihoo fatayaatikum

الْبِعَاءُ إِنْ أَرْدَنَ تَحْصَنَ الْمَتَّبِغُوا عَرَضُ الْحَيَاةِ الدُّنْبُ
'al al bighaa'i in aradna tahassun al litabtaghoo 'aradal hayaatid dunyaa; wa

مَنْ يُكَسِّهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ أَكْمَاهِهِنَّ غَفُورٌ حَيْثُ وَلَقَدْ

أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ أَيْتٍ مُّبَيِّنٍ وَمَثَلًاً مِّنَ الَّذِينَ حَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ

anzalnaaa ilaikum Aayaatim mubaivinaatinw wa masalam minnal lazeena khalaw min qablikum

وَمَوْعِدَةٌ لِلْمُتَقْبِلِينَ ﴿٣٣﴾ أَذْلَلُهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مَثْلُ نُورِهِ

كَمْشُكَةٌ فِيهَا مِضيَامٌ الْمُضيَامُ فِي زُجَاجَةٍ الْزُجَاجَةُ كَانَهَا

kamishkaatin feehaa misbaah: almisbaahu fee zuuqaaatin azzuuqaaqatu ka annaabaa

كُوكب دري يوقد من شجرة مبركة زيتونة لا شرقية ولا

kawkabun durriyyun yooqadu min shajaratim mubaarakatin zaatoonatil laa shariqiyyatnw wa laa

حُبِّيْهُ يَهْدِيْهَا يَطْعِمُهَا وَلَوْلَمْ لَمْ يَسْتَسْهُ لَأَرَى بُوْرَعَانِيْ لَوْلَمْ

يَهْدِي اللَّهُ لِنُورٍ مَّنْ يَشَاءُ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ

yahdil laahu linoorihee mai yashaaa'; wa yadribul laahul amsaala linnaas;

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيهِمْ لِقَاءُ بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرُ

wallaahu bikulli shai'in Aleem(35) Fee buyootin azinal laahu an turfa'a wa yuzkara

منزل ۲ **نَفَّيْهُمْ**: حروف کو پڑھی جائیں کہ آنکھیں اپنے سامنے کو بند کر دیا جائے۔ **نَافِعُهُمْ**: اون سامنے کو وحشی کو اور سب سامنے کی جس کے بعد (ب) ہوئے آنکھیں کھل دیا جائے۔ **نَافِعُكُمْ**: اس پر کمک کرنے والے کو پڑھی جائے۔ **نَافِعُكُمْ**: مخفی اور پنهانی کی وجہ پر کمک کرنے والے کو پڑھی جائے۔ **نَافِعُكُمْ**: مخفی اور پنهانی کی وجہ پر کمک کرنے والے کو پڑھی جائے۔

فِيهَا اسْتَهِ يُسَيْحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْأَصَابِ ٣٦ **رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ**

feehasmuhoo yusabbihu lahoo feehaa bilghuduwwi wal aasaal(36) Rijaalul laa tulheehim

تِجَارَةٌ وَ لَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَ إِقَامِ الصَّلَاةِ وَ إِيتَاءِ الزَّكُوْةِ

tijaaratunw wa laa bai'un 'an zikril laahi wa iqamis Salaati wa eetaaaliz Zakaati

يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَبَّلُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ ٣٧ **لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ**

yakhaafoona Yawman tataqallabu feehil quloobu wal absaar(37) Liyajziyahumul laahu

أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ

ahsana maa 'amilio wa yazeedahum min fadlih; wal laahu yarzuqu mai yashaa'u

بِغَيْرِ حِسَابٍ ٣٨ **وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٌ بِقِيَّةٍ يَخْسِبُهُ**

bighairi hisaab(38) Wallazeena kafarooh a'maaluhum kasaraabim biqee'atiny yahsabuhuz

الظَّهَانُ مَاءٌ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَجَدَ اللَّهَ عِشْدَةً

zamaanu maaa'an hattaaa izaa jaaa'ahoo lam yajid hu shai'anw wa wajadal laaha 'indahoo

فَوْقُهُ حِسَابٌ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ ٣٩ **أَوْ كَظُلْمٍ فِي بَحْرٍ**

fa waffaahu hisaabah; wallaahu saree'ul hisaab(39) Aw kazulumaatin fee bahril

لُّجُّيٌّ يَغْشِيُهُ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ سَحَابٌ طَّلْمَتْ

lujjiyyiny yaghshaahu mawjun min fawqihee sahab; zulmatun

بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ يَدَهَا وَمَنْ لَمْ يَجْعَلْ

ba'duhaa fwqa ba'din izaa akhraja yadahoo lam yakad yaraahaa wa man lam yaj'alii

اللَّهُ لَهُ نُورٌ فَبِاللَّهِ مِنْ نُورٌ ٤٠ **الَّمَّ تَرَأَنَ اللَّهَ يُسَيْحُ لَهُ مَنْ فِي**

laahu lahoo nooran famaa lahoo min noor (section 5) (40) Alam tara annal laaha yusabbihu lahoo man fis

السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْطَّيْرِ صَفَتٌ كُلُّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَةً وَ

samaawaati wal ardi wat tairu saaaffaatim kullun qad 'alima Salaatahoo wa

تَسْبِيْحَةٌ وَاللَّهُ عَلِيْمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ٤١ **وَبِلِلَهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ**

tasbeehah; wallaahu 'aleemum bimaa yaf'aloon(41) Wa lillaahi mulkus samaawaati wal ardi

معنی: اون ہدھے اور سکھدھے دیکھا ادا رواہیں الٰہ کے برادر لہما کرنا

معنی: اون سکھن ادا رواہیں اور سکھن میں کے جو ادا (بیوی) آؤ ادا کو خوش (آک) میں سچا کرچھ خدا

معنی: اس سب ادا رواہیں الٰہ کے برادر لہما کے پڑھانا اجب ہے

وَإِلَّا إِلَهُ الْمَصِيرُ ﴿٤٢﴾ إِلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُرْجِي سَحَابَاتَمْ يُؤْلِفُ بَيْنَهُ

wa ilal laahil maseer(42) Alam tara annal laaha yuzjee sahaaban summa yu'allifu bainahoo

ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَاماً فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خَلْبِهِ وَيُنَزِّلُ مِنَ

summa yaj'aluhoo rukaaman fataral wadqa yakhruju min khilaalihee wa yunazzilu minas

السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَصْرَفُهُ

samaaa'i min jibaalin feehaa mim barain fa yuseebu bihee mai yashaa'u

عَنْ مَنْ يَشَاءُ طَيْكَادُ سَنَابَرْقَمْ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ ﴿٤٣﴾ يُقْلِبُ اللَّهُ

wa yasrifuhoo 'am mai yashaa'u yakkadu sanaa barqeeh yazhabu bil absaar(43) Yuqallibul laahul

الَّيْلَ وَالنَّهَارَ طَإِنَّ فِي ذَلِكَ لَعْبَرَةٌ لَا يُولِي الْأَبْصَارِ ﴿٤٤﴾ وَاللَّهُ خَلَقَ

laila wannahaar; inna fee zaalika la'ibratal li ulil absaar(44) Wallaahu khalaqa

كُلَّ دَآبَةٍ مِنْ مَاءٍ فَيُنْهُمْ مَنْ يَشَاءُ عَلَى بَطْنِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ

kulla daabatim mim maaa'in faminhum mai yamshee 'ala batnihee wa minhum mai

يَشَاءُ عَلَى رِجْلَيْنِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَشَاءُ عَلَى أَرْبَعٍ طَيْخُ اللَّهُ

yamshee 'ala rijlaine wa minhum mai yamshee 'alaaa arba'; yakhluqul laahu

مَا يَشَاءُ طَإِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٤٥﴾ لَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْتِ مُبَيِّنَاتٍ

maa yashaa'; innal laaha 'ala kulli shai'n in Qadeer(45) Laqad anzalnaa Aayaatim mubaiyinat;

وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٤٦﴾ وَيَقُولُونَ أَمَنَّا

wallaahu yahdee mai yashaa'u ilaa Siraatim Mustaqeem(46) Wa yaqooloona aamanna

بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطْعَنَا ثُمَّ يَتَوَلِّ فَرِيقٌ مِنْهُمْ مَنْ بَعْدَ ذَلِكَ

billaahi wa bir Rasooli wa ata'naa summa yatawallaa fareequm minhum mim ba'di zaalik;

وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ ﴿٤٧﴾ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمُ

wa maaa ulaaa'ika bilmu'mineen(47) Wa izaa du'ooo ilal laahi wa Rasoolihee li yahkuma

بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ ﴿٤٨﴾ وَإِنْ يَكُنْ لَهُمُ الْحُقْقَ يَا تُوا

bainahum izaa fareequm minhum mu'ridoon(48) Wa iny-yakul lahumul haqqu yaatooho

مَنْزِلٌ ۝ تَقْتِيمٌ: حروف کو پیٹھی آؤ کرو جائیں۔

مَنْزِلٌ ۝ تَقْتِيمٌ: حروف کو پیٹھی آؤ کرو جائیں۔

مَنْزِلٌ ۝ تَقْتِيمٌ: حروف کو پیٹھی آؤ کرو جائیں۔

مَنْزِلٌ ۝ تَقْتِيمٌ: حروف کو پیٹھی آؤ کرو جائیں۔

ۖ۲۹ أَفَ قُلُوبُهُمْ مَرْضٌ أَمْ أَرْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ

ilaihi muz'ineen(49) Afee quloobihim ma radun amirtaabooo am yakhaafoona

أَن يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلْ أُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

كَانَ قَوْلُ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ
ani yaheefallaahu 'alaihim wa Rasooluh; bal ulaa'ika humuz zaalimoon (section 6) (50) Innamaa

kaana qawla mu'mineena izaa du'ooo ilal laahi wa Rasoolihee li yahkuma bainahum

أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ١٥٣ وَمَنْ يُطِعْ

ai yaqooloo sami'naa wa ata'naa; wa ulaa'i ka humul muflihoon(51) Wa mai yuti'il

الله وَرَسُولُهُ وَيَخْشَى اللَّهَ وَيَتَّقِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَالِزُونَ

laaha wa Rasoolahoo wa yakhshal laaha wa yattaqhi fa ulaaa'ika humul faaa'izoon(52)

وَأَقْسَمُوا بِاللّٰهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لِئِنْ أَمْرَتَهُمْ لِيَخْرُجُنَّ ۖ قُلْ

Wa aqsamoo billaahi jahda aimaanihim la'in amartahum la yakhrujunna qu

لَا تُقْسِنُوا حَمَّةً مَعْرُوفَةً إِنَّ اللَّهَ حَبِّيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٥٣﴾

laa tuqsimoo taa'atum ma'roofah innal laaha khabeerum bimaa ta'maloon(53) Qul

أطِيعُوا اللَّهَ وَأطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلُّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِمَا حُبْلٌ

atee'ul laaha wa atee'ur Rasoola fa in tawallaw fa innamaa 'alaihi maa hummila

وَعَلَيْكُمْ مَا حِبْلَتُمْ وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا طَ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ

وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالْأُولَئِكُنَّا مَوْلَانَا مَحْمَدُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَعَلَى آنَتِهِ الرَّحْمَةُ وَعَلَىٰٓ الْأَصْحَاحِ

illal balaaghul mubeen(54) Wa'adal laahul lazeena aamanoo minkum wa 'amilus saalihaati

Ja vastakhlifan nahum fil ardi kamastakh lafal lazeena min qablihim

وَلَيَسْكُنَ لَهُمْ دِينُهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ

wa la yumakkinanna lahum deenahumul lazir tadaa lahum wa la yubaddilannahum mim

بَعْدِ حَوْفِهِمْ أَمْنًا ط يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِ شَيْئًا ط وَمَنْ كَفَرَ

ba'di khawfihim amnaa; ya'budoonanee laayushrikoona bee shai'aa; wa man kafara

بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَسِقُونَ ٥٥ وَ أَقْبَلُوا الصَّلَاةَ وَ اتَّوْا الزَّكُوْةَ

ba'da zaalika fa ulaa'iha humul faasiqoon(55) Wa aqeemus Salaata wa aatu Zakaata

وَ أَطْبَعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرَحَّمُونَ ٥٦ لَا تَحْسَبُنَ الَّذِينَ كَفَرُوا

wa atee'ur Rasoola la'allakum turhamoon(56) Laa tahlisabannal lazeena kafaroo

مُعْجِزِيْنَ فِي الْأَرْضِ ٤٧ وَ مَا وَهُمُ النَّازِ ط وَ لَيْسَ الْمَصِيرُ

mu'jizeena fil ard; wa maawaahumun Naaru wa labi'sal maseer (section 7) (57)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أَمْنُوا إِسْتَأْذِنُكُمُ الَّذِينَ مَلَكُتُ أَيْمَانَكُمْ وَ الَّذِينَ

Yaaa aiyuhal lazeena aamanoo li yastaazinkumul lazeena malakat aimanukum wallazeena

لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلْمَ مِنْكُمْ ثَلَثَ مَرْلِتٍ ط مِنْ قَبْلِ صَلْوَةِ الْفَجْرِ

lam yabluughul huluma minkum salaasa marraat; min qabli Salaatil Fajri

وَ حِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَ مِنْ بَعْدِ صَلْوَةِ

wa heena tada'oona siyaa bakum minaz zaheerati wa mim ba'di Salaatil

الْعِشَاءِ ط ثَلَثُ عَوْرَتِ لَكُمْ ط لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَ لَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ

Ishaaa'; salaasu 'awraatil lakum; laisa 'alaikum wa laa 'alaihim junaahum

بَعْدَهُنَّ ط طَوْفُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ ط كَذِيلَكَ يُبَيِّنُ

ba'dahunn; tawwaafona 'alaikum ba'dukum 'ala ba'd; kazaalika yubaiyun

اللَّهُ لَكُمُ الْأَيْتِ ط وَاللَّهُ عَلَيْمٌ حَكِيمٌ ٥٨ وَإِذَا بَلَغُ الْأَطْفَالُ مِنْكُمْ

laahu lakumul aayaat wallaahu 'Aleemun Hakeem(58) Wa izaa balaghal atfaalu minkum

الْحُلْمَ فَلَيُسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ط كَذِيلَكَ

huluma fal yastaazinoo kamas taazanal lazeena min qabilihim; kazaalika

يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَيْتِهِ ط وَاللَّهُ عَلَيْمٌ حَكِيمٌ ٥٩ وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ

yubaiyun laahu lakum Aayaatih; wallaahu 'Aleemun Hakeem(59) Walqawaa'idu minan nisaaih

● نقاش: اون ہڈی اور سکھ دیکی ادا اڑاکیں الگ کے بر ایسا کرنا

● بالغ: اون ساکن اور سکھ دیکی ادا اڑاکیں مس کے بعد (ب) ہوئی آؤ تو چشم (آ) میں سچا کر جائے

● پانی: اس سب ساکن ادا کے بر ایسا کر کے پانی پر جائے

الَّتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضْعُنَ شَيْاً بِهِنَّ

laatee laa yarjoona nikaahaa falisa 'alaikhina junaahun ai yada'na siyaabahunna

غَيْرُ مُتَبَرِّجٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفُنَ حَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ

ghaira mutabarrijaatin bi zeenah; wa ai yasta'ifna khairul lahumm; wallahu Samee'un

عَلَيْهِمْ ٦٠ لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَاجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْمَاجِ حَرَاجٌ وَلَا

'Aleem(60) Laisa 'alal a'maa harajunw wa laa 'alal a'traji harajunw wa laa

عَلَى الْمَرِيضِ حَرَاجٌ وَلَا عَلَى الْفُسِيْكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ

'alal mareedi harajun wa laa 'alaa anfusikum 'an ta'kuloo min buyootikum aw buyooti

أَبَارِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ

abaaa'ikum aw buyooti ummahaatikum aw buyooti ikhwaanikum aw buyooti akhwaatikum aw buyooti

أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوَالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَلْتِكُمْ أَوْ مَا

a'mamikum aw buyooti 'ammaatikum aw buyooti akhwaalikum aw buyooti khaalaatikum aw maa

مَلَكُتُمْ مَفَاتِحَهُ أَوْ صَدِيقُكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَبِيْعًا

malaktum mafaatihahooo aw sadeeqikum; laisa 'alaikum junaahun

أَوْ أَشْتَاتَا طِفَّالَهُنَّ بِيُوتَهُنَّ فَسَلِّمُوا عَلَى الْفُسِيْكُمْ تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ

'an ta'kuloo Jamee'an aw ashtaata; fa izaa dakhaltum buyootan fa sallimoo 'alaaa anfusikum tahiyyatan min 'indil

اللَّهُ مُبَرَّكَةٌ طَيِّبَةٌ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْأَيْتِ لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ

laahii mubaarakatan taiyibah; kazaalika yubai yinul laahii lakum Aayaati la'allakum ta'qiloon (section 8) (61)

إِنَّ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ امْنَوْا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى

Innal mu'minoonal lazeena aamanoo billaahi wa Rasoolihee wa izaa kaanoo ma'ahoo 'alaaa

أَمْرَ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ طِنَّ الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ

amrin jaami'il lam yazhaboo hattaa yasta'zinooh; innal lazeena yasta'zinoonaka

أُولَئِكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ

ulaaaa'ikal lazeena yu'minoona billaahi wa Rasoolih; fa izas ta'zanooka li ba'di

مُتَّقَّدٌ: اون ھڈہ اور سکھ دیکی اور اذکویں الٰہ کے برادر لامہ کرنا

منزل ۲: تلقین: حروف کو پڑھنی اور کوہارکنا: قافیلہ: سماں حرف کو اکار کرنا

کوہارکنا: الٰہ کی اور کوہار کی ریت ہے ایک آنوناہیاں (آن) میں جیسا کچھ حدا

بیچتے۔ ان سب ایک الٰہ کے برادر لامہ کے برادر لامہ کے پڑھانا اجب ہے

شَانِهِمْ فَأَذَنْ لَهُنْ شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ اللَّهُ طِ إِنَّ اللَّهَ

sha'nihim fa'zal liman shi'ta minhum wastaghfir lahumul laah; innal laaha

غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٢٢﴾ لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْتَكُمْ كَدُعَاءَ بَعْضِكُمْ بَعْضاً

Gahfoor Raheem(62) Laa taj'aloou du'aaa'ar Rasooli bainakum ka du'aaa'i badikum ba'daa;

عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةً أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلَيْهِمْ ۖ ۲۳


'an amriheee 'an tuseebahum fitnatun aw yuseebahum 'azaabun aleem(63) 'Alaaa innalillaahi

مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قَدْ يَعْلَمُ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ

maa fis samaawaati wal ardi qad ya'lamu maaa antum 'alaihi wa Yawma yurja'oona

إِلَيْهِ فَيُنِيبُونَ^{٢٣} بِمَا عَمِلُوا وَاللَّهُ يُعْلَمُ بِشَيْءٍ عَلَيْهِمْ

ilaihi fa yunabbi'uhum bimaa 'amiloo; wallaahu bikulli shai'in 'Aleem (section 9) (64)



Bismillaahir Rahmaanir Raheem

تَبَرَّكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدٍ هُوَ لَيْكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا

الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ

Allazee laahoo mulkus samaawaati wal ardi wa Jam vattakhiz waladanw wa Jam yakul

لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَرَهُ تَقْدِيرًا

Iahoo shareekun filmulki wa khalaqa kulla shai'in faqaddaraho taqdeeraa(2)

وَاتَّخِذُوا مِنْ دُونِهِ إِلَهًا لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَ

Wattakilazoo min doonimeec aamatalaa yakiliuqohna sinai aniw wa hundu yukinaqohna wa

لَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَ لَا نَفْعًا وَ لَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَ لَا حَيَاةً
Jaa vamlikoona li anfusihim darran wa laa naafthan wa laa yamlikoona mawtan wa laa havaatan

laa yamlikoona li anfusinhim darranw wa laa naafanw wa laa yamlikoona mawtanw wa laa hayaatanw

وَ لَانْشُورَا ﴿٣﴾ وَ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا إِفْكٌ افْتَرَهُ

wa laa nushooraq(3) Wa qaalal lazeena kafarooo in haazaaa illaaa ifkunif taraahu

وَ آعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ أَخْرُونَ ^٤ فَقَدْ جَاءَهُمْ ظُلْمًا وَ زُورًا وَ

wa a'aanahoo 'alaihi qawmun aakharoona faqad jaaa'oo zulmanw wa zoora(4) Wa

قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُنَاهِي عَلَيْهِ بُكْرَةً وَ

qaaloos asaateerul awwaleenak tatabahaa fahiya tumlaa 'alaihi bukratanw wa

أَصِيلًا ﴿٥﴾ قُلْ أَنْزَلَهُ اللَّهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ

aseelaa(5) Qul anzalhu lazee ya'lamus sirra fis samaawaati wal-ard;

إِنَّهُ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٦﴾ وَ قَالُوا مَالِ هَذَا الرَّسُولِ يَا أَكُلُّ

innahoo kaana Ghafoorar Raheemaa(6) Wa qaaloos maa li haazar Rasooli yaakulut

الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ ^٧ لَوْلَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونُ

ta'aama wa yamshee fil aswaaq; law laaa unzila ilaihi malakun fa yakoona

مَعَهُ نَذِيرًا ﴿٨﴾ أَوْ يُلْقِى إِلَيْهِ كَذَّابًا تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا وَ

ma'ahoo nazeeraa(7) Aw yulqaa ilaihi kanzun aw takoonu lahoo jannatun yaakulu minhaa; wa

قَالَ الظَّالِمُونَ إِنْ تَتَّقِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا ﴿٩﴾ أُنْظِرْ كَيْفَ ضَرِبُوا

qaalaaz zaalimoona in tattabi'oona illaa rajulam mas hooraa(8) Unzur kaifa daraboo

لَكَ الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَيِّلًا ﴿١٠﴾ تَبَرُّكَ اللَّهُ الَّذِي إِنْ

lakal amsala fadalloo falaa yastatee'oona sabeeela (section 1) (9) Tabaarakal lazeee in

شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِنْ ذَلِكَ جَنَّتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَرُ ^{١١}

shaaa'a ja'al laka khairam min zaalika jannaatin tajree min tahtihal anhaaroo

وَ يَجْعَلُ لَكَ قُصُورًا ﴿١٢﴾ بَلْ كَذَّبُوا بِالسَّاعَةِ وَ أَعْتَدْنَا لَهُنَّ كَذَبَ

wa yaj'al laka qusoora(10) Bal kazzaboo bis Saa'ti wa a'tadnaa liman kazzaba

بِالسَّاعَةِ سَعِيدًا ﴿١٣﴾ إِذَا رَأَتْهُمْ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ سَيِّعُوا لَهَا تَغْيِيظًا

bis Saa'ti sa'eeraa(11) Izaa ra'at hum mim ma kaanin ba'eedin sami'oo laaha taghayuzanw

● نقاش: اون ہڈھ داروں میں مدد کی ادا کرنے والے الف کے برادر لما کرنا

● نقاش: حروف کو پڑھنے آئندگی اور کوچھ رکھنا

● نقاش: حروف کو پڑھنے آئندگی اور کوچھ رکھنا (ب) ہوئی آئندگی خوش (ا) میں بھی کچھ رکھنا

● نقاش: اس سب سے آئندگی کے برادر لما کر کے پڑھانا اجب ہے

وَ زَفِيرًا ﴿١﴾ وَ إِذَا الْقَوْمِنْهَا مَكَانًا ضَيْقًا مُقْرَنَّ بِنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا ﴿٢﴾

wa zafeeraa(12) Wa izaaa ulqoo minhaa makaanah daiyiqam muqar raneena da'aw hunaalika suboora(13)

لَا تَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُورًا وَاحِدًا وَ اذْعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا ﴿٣﴾ قُلْ أَذْلِكَ حَيْزٌ

Laa tad'uul yawma subooranw waahidanw wad'oo subooran kaseeraa(14) Qul azaalika khairun

أَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ طَ كَانَتْ لَهُمْ جَزَاءً وَ مَصِيرًا ﴿٤﴾

am Jannatul khuldil latee wu'idal muttaqoon; kaanat lahum jazaaa'anw wa maseeraa(15)

لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ خَلِدِينَ طَ كَانَ عَلَى رَبِّكَ وَعْدًا مَسْوُلًا ﴿٥﴾

Lahum feehaa maa yashaaa'oon khaalideen; kaana 'ala Rabbika wa'dam mas'oolaa(16)

وَ يَوْمَ يَحْشِرُهُمْ وَ مَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُونَ إِنَّا تَنْتَمُ

Wa Yawma yahshuruhum wa maa ya'budoona min doonil lahfa yaqoolu 'a-antum

أَضْلَلْتُمْ عِبَادِيْ هَوْلَاءِ أَمْهُمْ ضَلَّوْا السَّبِيلَ ﴿٦﴾ قَالُوا سُبْطَهُ حَنَّكَ

adlaltum 'ibaadee haaa'ulaaa'i am hum dallus sabeel(17) Qaaloo Subhaanaka

مَا كَانَ يَنْبَغِي لَنَا آنَّ نَتَخِذَ مِنْ دُونِكَ مِنْ أُولَيَاءَ وَ لِكُنْ

maa kaana yambaghee lanaaa an nattakhiza min doonika min awliyaaa'a wa laakim

مَتَّعْتَهُمْ وَ أَبَاعَهُمْ حَتَّى نَسُوا الذِّكْرَ وَ كَانُوا قَوْمًا بُوْرًا ﴿٧﴾ فَقَدْ

matta'tahum wa aabaaa'ahum hattaa nasuz zikra wa kaanoo qawmam booraa(18) Faqad

كَذَّبُوكُمْ بِمَا تَقُولُونَ لَ فَمَا تَسْتَطِيُونَ صَرْفًا وَ لَانْصَارًا وَ مَنْ

kazzabookum bimaa taqooloona famaa tastatee'oona sarfanw wa laa nasraa; wa mai

يَظْلِمُ مِنْكُمْ نُذْقُهُ عَذَابًا كَبِيرًا ﴿٨﴾ وَ مَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ

yazlim minkum nuziquhu 'azaaban kabeeraa(19) Wa maaa arsalnaa qablaka minal

الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَ يَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ طَ وَ

mursaleena illaaa innahum la yaakuloonat ta'aama wa yamshoona fil aswaaq; wa

جَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً طَ أَتَصِرِّرُونَ وَ كَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا ﴿٩﴾

ja'alnaa ba'dukum liba'din fitnatan atasbiroon; wa kaana Rabbuka Baseera (section 2) (End Juz 18) (20)

وَقَالَ اللَّهُمَّ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا تَوْلَى أَنْزَلَ عَلَيْنَا الْمُلْكَةَ

Wa qaala la jazeena laa yarjoona liqaaa'anaa law laaa unzila 'alajinal malaaa'i katuu.

٢١ أَوْ نَرِدُ إِلَيْنَا لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنفُسِهِمْ وَعَتَّوْ عَتَّوْ كَبِيرًا

awnaraa Rabbanaa; laqadistakbaroo feeee anfusihim wa 'ataw 'utuwwan kabeeraa(21)

يَوْمَ يَرَوْنَ الْبَلِقَةَ لَا بُشَّارٍ يَوْمَئِذٍ لِلْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ

Yawma yarawnal malaaa 'ikata laa bushraa Yawma'izil lilmujrimeena wa yaqooloona

وَقَدِيمْنَا إِلَى مَا عَيْلُوا مِنْ عَيْلٍ فَجَعَلْنَاهُ حِجَرًا مَحْجُوًّا ٢٣

hijram mahjooraa(22) Wa qadimnaaa ilaa maa 'amiloo min 'amalin faja'alnaahu

أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُسْتَقْرٌ وَأَحْسَنُ هَبَاءً مُنْشُوِّرًا

habaaa'am mansooraa(23) As haabul jannati yawma'izin khairum mustaqar ranw wa ahsanu

وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْعَمَامِ وَنَزُلُ الْمَلَكَةُ تَبَرِّيلاً

mageela(24) Wa Yawma tashaggaqus samaaa'u bilghamaami wa puzzilal malaaa'ikatu tanzeela(25)

الْمَلِكُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ لِلَّهِ حُمْنٌ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكُفَّارِينَ عَسِيرًا

Almulku Yawma'izinil baggu lir Rahmaan: wa kaana Yawman'alal kaafireena 'aseeraa(26)

وَيَوْمَ يَعْصِي الظَّالِمُ عَلَى يَدِيهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي أَتَخَذْتُ مَعَ

Wa Yawma ya'adduz zaalimu 'ala yadaihi yagoolu yaa laitanit takhaztu ma'ar

الرَّسُولُ سَبِيلًا ٢٧ **يَوْمَ لَقِيَتِنِي لَمْ أَتَخُذْ فُلَانًا خَلِيلًا**

Rasooli sabeelaa(27) Yaa wailataa laitanee lam attakhiz fulaan khaleelaa(28)

لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الْذِكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِيٌّ وَكَانَ الشَّيْطَنُ لِلْإِنْسَانِ

Lagad adallanee 'aniz zikri ba'da iz jaaa'anee: wa kaanash Shaitaanu lil insaani

٢٦ وَقَالَ الرَّسُولُ يَرْبُّ إِنْ قَوْمِي أَتَخْذُنَا هَذَا الْقُرْآنَ خَدُولًا

khazoolaa(29) Wa qaalar Rasoolu yaa Rabbi inna qawmit takhazoo baazal Our-aana

مَهْجُورًا ٢٠ وَكَذِيلَكَ جَعَلْنَا إِلَيْكُلَّ نَبِيًّا عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ وَ

mahjooraa(30) Wa kazaalika ja'alnaa likulli Nabiyin 'aduwawm minal muirimeen; wa

منزل ۲ **تقطیعیم:** حروف کو پڑھنی اور سہم کو کہا کرنا
 مخفف: اون ساں کو اور سہم کا جس کے بعد (ب) کو آئاؤ تقطیعیم (نک) میں پھا کر پڑھنا
 مخفف: اون ساں کو کہا کرے بے پڑھنا اس کے پڑھنا اسے بے پڑھنا اسے بے

كَفَى بِرِبِّكَ هَادِيًّا وَنَصِيرًا ﴿٣١﴾ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ

kafaa bi Rabbika haadiyan wa naseeraa(31) Wa qaatal lazeena kafaroo law laa nuzzila

عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُنْلَةً وَاحِدَةً ۗ كَذَلِكَ ۗ لِنُشِّئَتِ بِهِ فُؤَادُكُمْ وَ

'alaihil Quraanu jumlatanw waahidah; kazaalika linusabbita bihee fu'aadaka wa

رَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا ﴿٣٢﴾ وَلَا يَأْتُونَكَ بِسَيْئَلٍ إِلَّا جَعَلْنَاهُ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ

rattalnaahu tarteelaa(32) Wa laa yaatoonaka bimasaaim illaa ji'naaka bilhaqqi wa ahsana

تَفْسِيرًا ﴿٣٣﴾ الَّذِينَ يُحْشِرُونَ عَلَى وُجُوهِهِمْ إِلَى جَهَنَّمَ ۗ أُولَئِكَ

tafsseeraa(33) Allazeena yuhsharoona 'ala wujohihim ilaa jahannama ulaa'i'ka

شَرَّ مَكَانًا وَأَضَلُّ سَبِيلًا ﴿٣٤﴾ وَلَقَدْ أَتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَ

sharrum makaananw wa adallu sabeeela (section 3) (34) Wa laqad aatainaa Moosal Kitaaba wa

جَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هُرُونَ وَزَيْرِيرًا ﴿٣٥﴾ فَقُلْنَا اذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ

ja'alnaa ma'ahooo akhahu Haaroonaa wazeeraa(35) Faqulnaz habaaa ilal qawmil lazeena

كَذَّبُوا إِيمَانَنَا ۖ فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا ﴿٣٦﴾ وَقَوْمَهُنُّ تُوحِّدُهُمْ كَذَّبُوا

kazzaboo bi Aayaatinaa fadammarnaahum tadmeeraa(36) Wa qawma Noohil lammaa kazzabur

الرُّسُلَ أَغْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ أَيْتَهُ ۖ وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ

Rusula aghraqnaahum wa ja'alnaahum linnaasi Aayatanw wa a'tadnaa lizzaalimeena

عَذَابًا أَلِيمًا ﴿٣٧﴾ وَعَادًا وَثَوْدًا وَأَصْحَابَ الرَّسِّ وَقُرْنَانًا بَيْنَ

'azaaban aleemaa(37) Wa 'Aadanw Samooda wa As haabar Rassi wa quroonam baina

ذُلِّكَ كَثِيرًا ﴿٣٨﴾ وَكُلُّ ضَرِبَنَا لَهُ الْأَمْثَالُ ۖ وَكُلُّ تَبَرَّنَا تَشْبِيرًا وَ

zaalika kaseeraa(38) Wa kullandarabnaa lahul amsala wa kulla tabbarnaa tatbeera(39) Wa

لَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطْرَ السَّوْءِ ۖ أَفَلَمْ يَكُونُوا

laqad ataw 'alal qaryatil lateeq umtirat mataras saw'; afalam yakoonee

يَرَوْنَهَا ۚ بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ نُشُورًا ﴿٤٠﴾ وَإِذَا رَأَوْكَ إِنْ يَتَخَذُونَكَ

yarawnahaa; bal kaanoo laa yarjoona nushoora(40) Wa izaa ra awka iny yattakhizoonaka

● نقاش: اون ہڈھ دار سکھ دیکی آدا زلیکہ الٰہ کے برادر لامہ کرنا

● بالغ: اون ساکن اور سکھ دیکی آدا زلیکہ الٰہ کے برادر لامہ کرنا (ب) یوں آدا زلیکہ شہزادہ (ت) میں صحیح کچھ حدا

● مُنْزَلٌ: اس سب سے زلیکہ الٰہ کے برادر لامہ کے پڑھانا اجب ہے

إِلَّا هُزُوا أَهْذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا إِنْ كَادَ لَيُضْلِلَنَا عَنْ

illaa huzuwan ahaazal lazee ba'asal laahu Rasoolaa(41) In kaada la yudillunaa 'an

إِلَهَتِنَا لَوْلَا أَنْ صَبَرْنَا عَلَيْهَا وَسُوفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرُونَ

aalihatinaa law laaa an sabarnaa 'alaihaa; wa sawfa ya'lamoona heena yarawnal

الْعَذَابَ مَنْ أَفْلَى سَبِيلًا أَرْعَيْتَ مَنْ اتَّخَذَ إِلَهَةً هَوَاهُ

'azaaba man adallu sabeeela(42) Ara'aita manit takhaza ilaahahoo hawaahu

أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِنْيَا لَمْ تَحْسَبْ أَنَّ الْكُفُرُ هُمْ يَسْعَوْنَ

afa anta takoonu 'alaihi wakeelaa(43) Am tafsabu annna aksarahum yasma'oona

أُوْيَعْقَلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَفْلَى سَبِيلًا إِلَمْ

aw ya'qiloon; in hum illaa kal an'aami bal hum adallu sabeeelan (section 4) (44) Alam

تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَ الظَّلَّ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا ثُمَّ جَعَلْنَا

tara ilaa Rabbika kaifa maddaz zilla wa law shaaa'a laja'alahoo saakinan summa ja'alnash

الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا ثُمَّ قَبَضْنَاهُ إِلَيْنَا قَبْضَا يَسِيرًا وَهُوَ

shamsa 'alaihe daleelaa(45) Summa qabadnaahu ilainaa qabdany yaseeraa(46) Wa Huwal

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْيَوْمَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ

lazeze ja'ala lakumul laila libaasanw wannawma subaatanw wa ja'alan nahaara

نُشُورًا وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيِ رَحْمَتِهِ

nushooraa(47) Wa Huwal lazee arsalar riyaha bushram bain yadai rahmatih;

وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا لِّنُحْيِي بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا وَنُسْقِيَةً

wa anzalnaa minas samaa'i maaa'an tahoora(48) Linuhyya bihee balda tam maitanw wa nusqiyahoo

مِنَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا وَلَقَدْ صَرَّ فُنْهُ بَيْنَهُمْ

mimmaa khalaqnaa an'aa manw wa anaasiyya kaseeraa(49) Wa laqad sarrafnaahu bainahum

لِيَذَّكَّرُوا فَآبَيَ الْكُفُرِ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا وَلَوْ شِئْنَا لَبَعْثَنَا فِي

li yazzakkaro fa abaaa aksarun naasi illaa kufooraa(50) Wa law shi'naa laba'asnaa fee

مُتَّقَدٌ: اون ھڈہ اور سکھ دیکی ادا دلکھیں الک کے برادر لام کرنا
منزل ۲۸: تلقینیم: حروف کو پڑھنی آئندگی اور کوچار کرنا
کوئی رالکی ادا دلکھیں اور سکھ ماننے میں کے دلکھ (بے ہوئی آئندگیاں پڑھنیں) تک میں سچا کرچے جانا
جیسے: اس سب سے الک کے برادر لام کے پڑھنا اسپتہ یعنی میں کے
مُغَلٰ: تم ان سب سے الک کے برادر لام کے برادر لام کے پڑھنا اسپتہ یعنی میں کے

كُلُّ قَرِيَةٍ نَذِيرًا ﴿٥١﴾ فَلَا تُطِعُ الْكُفَّارِينَ وَجَاهُهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا

kulli qar yatin nazeeraa(51) Falaa tuti'il kaafireena wa jaahidhum bihee jihaadan kabeeraa(52)

وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنَ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مُلْحٌ أَجَاجٌ

Wa Huwal lazee marajal bahraini haazzaa 'azbun furaatunw wa haazzaa milhun ujaaj;

وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَحْجُورًا ﴿٥٢﴾ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنْ

wa ja'ala bainahumaa barzakhwan wa hijram mahjooraa(53) Wa Huwal lazee khalaqa minal

الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسِيَّاً وَصَهْرًا ﴿٥٣﴾ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا وَيَعْبُدُونَ

maaa'i basharran fa ja'alahoo nasaban wa sihraa; wa kaana Rabbuka Qadeeraa(54) Wa ya'budoona

مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَ الْكَافِرُونَ عَلَىٰ رَبِّهِ

min doonil laahi maa laa yanfa'uhum wa laa yadurruhum; wa kaanal kaafiru 'ala Rabbihii

ظَهِيرًا ﴿٥٥﴾ وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴿٥٦﴾ قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ

zaheeraa(55) Wa maa arsalnaaka illaa mubashshiranw wa nazeeraa(56) Qul maaa as'alukum 'alaihi

مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مِنْ شَاءَ أَنْ يَتَخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا ﴿٥٧﴾ وَتَوَكَّلْنَ عَلَىٰ

min ajrin illaa man shaaa'a ai yattakhiza ilaa Rabbihii sabeelaa(57) Wa tawakkal 'alal

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَيِّخٌ بِحَمْدِهِ وَكَفَىٰ بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ

Haiyil lazee laa yamootu wa sabbih bihamdihi; wa kafaa bihee bizunoobi 'ibaadihii

حَبِيرًا ﴿٥٨﴾ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ آيَاتٍ

khabeeraa(58) Allazee khalaqas samaawaati wal arda wa maa bainahumaa fee sittiati aiyaamin

ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ إِلَرَّحْمَنُ فَسَلَّمَ بِهِ حَبِيرًا ﴿٥٩﴾ وَإِذَا قِيلَ

summmmastawaa 'alal 'Arsh; ar Rahmaanu fas'al bihee khabeeraa(59) Wa izaa qeela

لَهُمْ اسْجُدُوا لِلَّهِ حُمِّنْ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ أَنْسُجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَ

lahumus judoo lir Rahmaani qaaloo wa mar Rahmaanu anasjudu limaa taamurunaa wa

زَادَهُمْ نُفُورًا ﴿٦٠﴾ تَبَرَّكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاوَاتِ بُرُوجًا وَجَعَلَ

zaadahum nufooraa (section 5) (make sajda) (60) Tabaarakal lazee ja'ala fis samaaa'i buroojanw wa ja'ala

* نقاش: اون ہڈی دار سکھ دیکی ادا دلکشیں اپنے کے برادر لامبا کرتا
* بالآخر، اون سماں ادا دلکشیں اور سکھ میں کے برادر (بیوی) آؤ اور کوئی شہادت (تک) میں بھیجا کر جائے
* مذکور، ایسا کوئی ادا دلکشیں اور سکھ میں کے برادر (بیوی) آؤ اور کوئی شہادت (تک) میں بھیجا کر جائے
* مذکور، ایسا کوئی ادا دلکشیں اپنے کے برادر لامبا کر کے پڑھتا ہے

فِيهَا سَمَا حَا وَ قَبْرًا مُنْبِداً ۖ وَ هُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيلَ وَ النَّهَارَ خَلْفَةً

feehaa siraajinw wa qamaram muneeraa(61) Wa huwal lazee ja'alal laila wannahaara khilfatal

لِئَنْ أَرَادَ أَنْ يَذْكُرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا ۝ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ

liman araada ai yazzakkara aw araadaa shookeera(62) Wa 'ibaadur Rahmaanil lazeena

يَسْأَلُونَ عَنِ الْأَرْضِ هُوَنَا وَإِذَا حَاطَبُهُمُ الْجَهَلُونَ قَالُوا

yamshoona 'alal ardi hawnanw wa izaa khaata bahuun jaahiloona qaalo

سَلَّمَا ۝ وَالَّذِينَ يَبْيَثُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا ۝ وَالَّذِينَ

salaamaa(63) Wallazeena yabeetoona li Rabbihim sujjadanw wa qiyaamaa(64) Wallazeena

يَقُولُونَ رَبُّنَا أَصْرَفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ

yaqooloona Rabbanas rif 'annnaa 'azaaba Jahannama inna 'azaabahaa kaana

غَرَامًا ٦٣ **إِنَّهَا سَاعَةٌ مُسْتَقْرَأً وَ مُقَاماً** ٦٤ **وَالَّذِينَ إِذَا أَمْفَقُوا**

gharaamaa(65) Innahaa saaa'at mustaqarranw wa muqaamaa(66) Wallazeena izaaa anfaqoo

لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَاماً ۖ

lam yusrifoo wa lam yaqturoo wa kaana baina zaalika qawaamaa(67) Wallazeena

لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا أَخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ إِلَّا هُمْ

laa yad'oona ma'al laahi ilaahan aakhara wa laa yaqtuloonan nafsal latee harramal

اللَّهُ أَلَا بِالْحَقِّ وَلَا يَرْبُونَ وَمَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ يَلْقَ أَشَاماً^{٢٨} يَضْعَفُ

laahu illaa bilhaqqi wa laa yaznoon; wa mai yaf'al zaalika yalqa asaamaa(68) Yudaa'af

لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَيَخْلُدُ فِيهِ مُهَانًا ۖ إِلَامَنْ تَابَ

Ilaahul 'azaabu Yawmal Qiyaamati wa yakhlud feehi muhaanaa(69) Illaa man taaba

وَأَمَّنَ وَعَمِلَ عَبْلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَتِ

وَالْمُؤْمِنُونَ هُمُ الْأَقْرَبُ إِلَيْنَا وَلَا يُنَزَّلُ عَلَيْنَا إِلَيْهِمْ مِنْ أَنْذِرْنَا وَمَا كُنَّا مُنَذَّرِينَ

- مُنْزَلٌ ۝: اون ھڈے اور سکم مفتہ دیکی اور کوئی اللہ کے بر ایمان کرنا
- تَقْلِيْثِيْم: حروف کو پڑھنی اور مکار رکنا
- قَلْفَيْم: سکم ساکن جن کو جس کے برابر ہے
- حَكْرَيْم: حکومتی اور مکاری کو زیر باکی کرنے والی اور حکومتی اوقایع کو پڑھنے والا کی اور
- رَخْلَفَيْم: اون ساکن اور خود کو حکم ساکن جس کے برابر ہے (بپ ہو) کی آدی و تجویض (نات) میں پھر کرچے گا
- دَجَلَيْم: اس سب کیلئے اللہ کے بر ایمان کے پڑھانا جس کے
- دَقْلَلَيْم: اس سب کے بر ایمان کے پڑھانا جس کے بر ایمان کے پڑھانا جس کے
- دَقْلَلَيْم: اس سب کے بر ایمان کے پڑھانا جس کے بر ایمان کے پڑھانا جس کے

إِلَى اللَّهِ مَتَابًا ۚ وَالَّذِينَ لَا يَشْهُدُونَ الزُّورَ ۖ لَوْا إِمْرًا بِاللَّهِ

ilal laahi mataabaa(71) Wallazeena laa yash hadoonaz zoora wa izaa marroo billaghwi

مَرُوا كَمَا ۚ وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِرُوا إِبَايَتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخْرُجُوا عَلَيْهَا

marroo kiraamaa(72) Wallazeena izaa zukkiroo bi Aayaati Rabbihim lam yakhirroo 'alaihaa

صُمَّاً وَعُمَيَّانًا ۚ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هُبَّ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا

summanw wa'umyaanaa(73) Wallazeena yaqooloona Rabbanaa hab lanaa min azwaajinaa

وَذُرْيَتِنَا قَةً أَعْيُنِ ۖ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ۖ أُولَئِكَ

wa surriyatinaa qurrata a'yunin waj 'alnaa lilmuttaqeena Imaamaa(74) Ulaaa'ika

يُجَزُّونَ الْغُرْفَةَ بِسَا صَدَرُوا وَيُلْقَوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً ۖ وَسَلَّمَا

yujzawnal ghurfata bimaa sabaroo wa yulaqqawna feehaa tahiyyatanw wa salaamaa(75)

خَلِدِينَ فِيهَا طَحْسَنْتُ مُسْتَقْرًا وَمُقَاماً ۖ قُلْ مَا يَعْبُؤُ أَكُمْ

Khaalideena feehaa; hasunat mustaqarranw wa muqamaa(76) Qul maa ya'b'a'u bikum

رَبِّيْ لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسُوفَ يَكُونُ لِزَاماً

Rabee law laa du'aaa'ukum faqad kazzabtum fasawfa yakoona lizaamaa (section 6) (77)

رَبُّكُمْ شَاهِدٌ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ ۖ إِنَّمَا يَعْلَمُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

لِسْمَةُ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سُورَةُ الشُّعْرَاءِ ۖ مَكَّةُ

Bismillaahir Rahmaanir Raheem

طَسْمٌ ۖ تِلْكَ آيَتُ الْكِتَبِ الْمُبِينِ ۖ لَعَلَّكَ بِأَخْرَجْتَ نَفْسَكَ أَلَا

يُكُونُوا مُؤْمِنِينَ ۖ إِنْ نَشَاءُ نَنْزِلُ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّيَّاءِ أَيْةً فَظَلَّتْ

yakoonoo mu'mineen(3)In nashaa nunazzil 'alaihim minas samaaa'i Aayatan fazallat

أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَضِيعُنَ ۖ وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذُكْرٍ مِنْ الرَّحْمَنِ

a'naaquhum laha khaadi'een(4)Wa maa yaateehim min zikrim minar Rahmaani

مُحَدَّثٌ أَلَا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ ۖ فَقَدْ كَذَّبُوا فَسَيَّأْتِيهِمْ أَنْبُوا

uhdasin illaa kaanoo 'anhu mu'rideen(5) Faqad kazzaboo fasa yaateehim ambaa'a'u

منزل ۵۔ تَقْلِيقِهِمْ: حروف کو پر یعنی آواز کو مارکھنے۔ قَلْقِلَهُمْ: ساکن حرف کو پر کر کر مار کرنا۔

الْخَلْقُ: اپنے ساکن اور سکون اور سیم ساکن جس کے بعد (بَيْ) آیا آواز کو مارکھنے۔ قَلْقِلَهُمْ (نَكَّ) میں بھی کچھ حصہ

بَيْ: تب۔ ان سب ۷ آیوں کو پر کر کے برادر لام کر کے پڑھو جو بھی بے

مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهِزُونَ ٦ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهِزُونَ ٦

maa kaanoo bihee yastahzi'oon(6)Awa lam yaraw ilal ardi kam ambatnaa

فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٌ ٧ إِنَّ فِي ذٰلِكَ لَا يَةٌ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ

feehaa min kulli zawjin kareem(7)Inna fee zaalika la Aayah; wa maa kaana aksaruhum

مُؤْمِنِينَ ٨ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ٩ وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ

mu'mineen(8)Wa inna Rabbaka la Huwal 'Azeezur Raheem (section 1) (9)Wa iz naadaa Rabbuka

مُؤْسَىٰ أَنِ اتَّتِ الْقَوْمُ الظَّلِيمِينَ ١٠ قَوْمٌ فِرَّعَوْنَ ١١ أَلَا يَتَّقُونَ ١٢

Moosaa ani'-til qawmaz zaalimeen(10)Qawma Fir'awn; alaa yattaqoon(11)

قَالَ رَبِّي إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ ١٣ وَيَضْعِيقُ صَدْرِي وَلَا

Qaala Rabbi innee akhaafu ai yukazziboon(12)Wa yadeequ sadree wa laa

يَنْطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَى هُرُونَ ١٤ وَلَهُمْ عَلَى ذَنْبِ فَآخَافُ

yantaliqo lisaanee fa arsil ilaa Haaroon(13)Wa lahum 'alaiya zambun fa akhaafu

أَنْ يَقْتُلُونِ ١٥ قَالَ لَلَّا فَادْهَبَا بِأَيْتِنَا إِنَّا مَعْكُمْ مُسْتَبِعُونَ ١٦

ai yaqtuloon(14)Qaala kallaa fazhabaa bi Aayaatinaaa innaa ma'akum mustami'oon(15)

فَأَتِيَاهُرُونَ فَقُولًا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَلَمِينَ ١٧ أَنْ أَرْسِلْ

Faatiyya Fir'awna faqoolaaa innaa Rasoolu Rabbil 'alameen(16)An arsil

مَعَنَابِنِي إِسْرَاعِيلَ ١٨ قَالَ اللَّهُمَّ نُرِيدُ فِينَا وَلِيَدًا وَلِيَشْ

ma'anaa Baneee Israaa'eel(17) Qaala alam nurabbika feenaa waleedanu wa labista

فِينَا مِنْ عُمِّرِكَ سِنِينَ ١٩ وَفَعَلْتَ فَعَلْتَكَ الَّتِي فَعَدْتَ وَ

feenaa min 'umurika sineen(18) Wa fa'alta fa'latakal lateeq fa'alta wa

أَنْتَ مِنَ الْكُفَّارِينَ ٢٠ قَالَ فَعَلْتُهَا إِذَا وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ

anta minal kaafireen(19) Qaala fa'altuhaa izanw wa ana minad daaaleen(20)

فَرَدْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي

Fafarartu minkum lam maa khiftukum fawahaba lee Rabbee hukmanw wa ja'alanee

منزل ٥۔ تفہیم: حروف کو پڑھنے والوں کی اور حکم کو ملا کرنا۔ قفالۃ: سماں جن حرف کو کہا جائے۔

الخلف: اون سماں کو اور حکم سماں کی جس کے بعد (بے ہوئی) آئیں اور حکم میں بھاگ پڑے۔

جیسے: اس سماں کو پڑھنے والوں کے برادر لام کے پڑھو جو بے

٢١ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَنْهَا عَلَىَّ أَنْ عَبَدُّتَ بْنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ

minal mursaleen(21) Wa tilka ni'matun tamun nuhaa 'alaiya an 'abbatta Baneee

إِسْمَاعِيلٌ ﴿٢٢﴾ قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَلَمِيْنَ ﴿٢٣﴾ قَالَ رَبُّ السَّمَوَاتِ

Israaa'eel(22) Qaala Fir'awnu wa maa Rabbul 'aalameen(23) Qaala Rabbus samaawaati

وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ مُّوقِنِينَ ﴿٢٣﴾ قَالَ لِيَنْ حَوْلَةَ

wal ardi wa maa bainahumaa in kuntum mooqineen(24) Qaala liman hawlahooo

٢٥ ﴿ قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ أَبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ ۚ قَالَ إِنَّا لَا تَسْتَعِيْنَ ﴾

alaat tastami'oona(25) Qaala Rabbukum wa Rabbu aabaaa'ikumul awwaleen(26) Qaala

وَكَمْ الْأَذْكَارُ أَنْتَ مُؤْمِنٌ

inna Rasoolakumul lazee ursila ilaikum lamajnoon(27) Qaala Rabbul mashriqi

وَهُنَّ مِنْ أَكْبَرِ الظَّالِمِينَ

wal maghribi wa maa baina humaa in kuntum ta'qiloon(28) Qaala la'in it takhazta

ilaahan ghairee la aj' alannaka minal masjooneen(29) Oaala awalaw ji'tuka

بَشِّئْ عَمْبِيْنَ ٢٠ قَالَ فَأَتِ بَهٌ أَنْ كُنْتَ مِنَ الصَّدِيقِيْنَ

bishai'im mubeen(30) Qaala faati biheee in kunta minas saadiqeen(31)

فَالْئَقِ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعَبَانٌ مُّبِينٌ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا

Fa alqaa 'asaahu fa izaaa hiya su'baanum mubeen(32) Wa naza'a yadahoo faizaa

٤٣ ﴿ قَالَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنَّ هَذَا السَّحْرُ
هِيَ بَيِّضَاءُ لِلنَّظَرِينَ ۝

hiya baidaaa'u linnaa zireen (section 2) (33) Qaala lilmala-i hawlahooo inna haazaa lasahirun

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

تَأْمِنُونَ ۝ قَالَهُ أَرْجُهُ وَأَخَاهُ وَالْعَثْثَانَ حَشَّبَةَ لٰ

وَالْمُؤْمِنُونَ الْمُؤْمِنَاتُ وَالْمُؤْمِنُونَ الْمُؤْمِنَاتُ

منزل ۵ تفہیم: حروف کو ایجی آئی اور سکن رکھنا۔ فلکے ساکن کو اپنے بارے میں بخوبی پڑھنا۔ لخچاں ساکن اور جو اور سکن کے نام (نام) میں پھیا رہے ہوں۔

يَا تُوكَ بِكُلِّ سَحَارٍ عَلَيْمٌ ﴿٢٨﴾ فَجُبِعَ السَّحَرَةُ لِمِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ

Yaatooka bikulli sah haarin 'aleem(37) Fa jumi'as saharatu limeeqaati Yawmim ma'loom(38)

وَقِيلَ لِلنَّاسِ هُلْ أَتُنْتُمْ مُجْتَبِعُونَ ﴿٢٩﴾ لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ السَّحَرَةَ

Wa qeela linnaasi hal antum mujtami'oon(39) La'allanaa nattabi'us saharata

إِنْ كَانُوا هُمُ الْغَلِيبُونَ ﴿٣٠﴾ فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالُوا لِفَرْعَوْنَ

in kaanoo humul ghaalibeen(40) Falammaa jaaa'as saharatu qaaloo li Fir'awna

أَئِنَّ لَنَا لَآجْرًا إِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغَلِيبُونَ ﴿٣١﴾ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ

a'inna lanaa la ajran in kunnaa nahnu ghaalibeen(41) Qaala na'am wa innakum

إِذَا لَمِنَ الْمُقْرَبِينَ ﴿٣٢﴾ قَالَ لَهُمْ مُوسَى الْقُوَامًا أَنْتُمْ مُلْقُونَ

izal laminal muqarrabeen(42) Qaala lahum Moosaa alqoo maaa antum mulqoon(43)

فَالْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعِصَمَيْهِمْ وَقَالُوا بِعْزَةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ

Fa alqaw hibaalahum wa 'isiyyahum wa qaaloo bi'izzati Fir'awna innaa lanahnul

الْغَلِيبُونَ ﴿٣٣﴾ فَالْقَوْيَ مُوسَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِيكُونَ

ghaaliboon(44) Fa alqaa Moosaa 'asaahu fa izaa hiya talqafu maa yaafikoon(45)

فَالْقَوْيَ السَّحَرَةُ سَجِدُونَ ﴿٣٤﴾ قَالُوا أَمَنَّا بِرَبِّ الْغَلِيبِينَ رَبِّ

Fa ulqiyas saharatu saajideen(46) Qaalooo aamanna bi Rabbil 'aalameen(47) Rabbi

مُوسَى وَهُرُونَ ﴿٣٥﴾ قَالَ أَمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ اذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ

Moosaa wa Haaroon(48) Qaala aamantum laahoo qabla an aazana lakum innahoo

لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَيْكُمُ السِّحْرُ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ هَلْ لَا قَطَعَنَ

lakabeerukumul lazee 'alla makumus sihra falasawfa ta'lamoona; la uqatti'annee

أَيْدِيْكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَا وَصْلَبَنَكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٣٦﴾

aidiyakum wa arjulakum min khilaafinw wa la usallibanna kum ajma'een(49)

قَالُوا لَا صَيْدٌ إِنَّا إِلَى دِينِنَا مُنْقَلِبُونَ ﴿٣٧﴾ إِنَّا نَطَّعُ أَنْ يَغْفِرَ لَنَا

Qaaloo la daira innaaa ilaa Rabbinaa munqalliboon(50) Innaa natma'u ai yaghfira lanaa

رَبُّنَا حَطَّلِنَا أَنْ كُنَّا أَوَّلَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٥١﴾ وَأُوحِيَنَا إِلَى مُوسَى

أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنْكُمْ مُتَّبِعُونَ ﴿٥٢﴾ فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْبَدَأِنَ

an asri bi'ibaadee innakum muttaba'oon(52) Fa arsala Fir'awnu filmadaaa'ini

حَشِّرَاهُنَّ ﴿٥٣﴾ إِنَّ هَؤُلَاءِ لَشَهَدَةٌ قَلِيلُونَ ﴿٥٤﴾ وَإِنَّهُمْ لَنَا

haashireen(53) Inna haaa'ulaa'i lashir zimatum qaleeloon(54) Wa innahum lanaa

لَغَابِطُونَ ﴿٥٥﴾ وَإِنَّا لَجَمِيعُ حَذِرُونَ ﴿٥٦﴾ فَأَخْرِجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّتِ

laghaaa'izoon(55) Wa imaa lajamee'un haaziroon(56) Fa akhrajnaahum min Jannaatinw

وَعَيْوَنَ ﴿٥٧﴾ وَكُنُوزٌ مَقَامٌ كَرِيمٌ ﴿٥٨﴾ كَذِلِكَ وَأَوْثَنَهَا بَيْنَ

wa 'uyoon(57) Wa kunoozinw wa ma qaamim kareem(58) Kazaalika wa awrasnaahaa Banee

إِسْرَائِيلَ ﴿٥٩﴾ فَاتَّبَعُوهُمْ مُشَرِّقِينَ ﴿٦٠﴾ فَلَمَّا تَرَأَءَ الْجَمِيعُ قَالَ

Israaa'eel(59) Fa atba'oohum mushriqeen(60) Falammaa taraaa'al jam'aani qaala

أَصْحَبُ مُوسَى إِنَّا لَمُدْرَكُونَ ﴿٦١﴾ قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي

as haabu Moosaaa innaa lamudrakoon(61) Qaala kallaaa inna ma'iyaa Rabbee

سَيِّهُمْدِيْنَ ﴿٦٢﴾ فَأُوحِيَنَا إِلَى مُوسَى أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ

sa yahdeen(62) Fa awhainaaa ilaa Moosaaa anidrib bi'asaakal baha

فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالْطُّودِ الْعَظِيْمِ ﴿٦٣﴾ وَأَزْلَفَنَا شَمَّ

fanfalaqa fakaana kullu firqin kattawdil 'azeem(63) Wa azlafnaa sammal

الْأَخْرَاهِيْنَ ﴿٦٤﴾ وَأَنْجَيْنَا مُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أَجْمَعِيْنَ

aakhareen(64) Wa anjaina Moosaa wa mam ma'ahooo ajma'een(65) Summa

أَغْرَقْنَا الْأَخْرَاهِيْنَ ﴿٦٦﴾ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَاءِيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ

مُؤْمِنِيْنَ ﴿٦٧﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُ الْعَزِيزُ الرَّحِيْمُ ﴿٦٨﴾ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ

mineen(67) Wa inna Rabbaka la Huwal 'Azeezur Raheem (section 4) (68) Watlu 'alaihiim naba-

منزل ٥۔ تَقْرِيْبًا: حروف کو پر یعنی آواز کو موڑ کرنے۔ فَلَمَّا قَالَ حَفْرٌ كَمَرْكَمْ: حروف کو پر یعنی آواز کو موڑ کرنے۔

تَقْرِيْبًا: حروف کو پر یعنی آواز کو موڑ کرنے۔ (بَيْتِيْمَ) میں بھار کر پڑے۔

تَقْرِيْبًا: ان سب پانچ الف کے برادر لہما کے برادر لہما کے پانچو چھوپ جب ہے۔

إِبْرَاهِيمٌ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ ﴿٦﴾ قَالُوا نَعْبُدُ

Ibraahimeem(69) Iz qaala li abeehi wa qawmihee maa ta'budoon(70) Qaaloo na'budu

أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عَكِيفِينَ ﴿٧﴾ قَالَ هَلْ يَسْبِعُونَكُمْ إِذْ

asnaaman fanazallu lahaa 'aakifeen(71) Qaaloo hal yasma'oona kum iz

تَدْعُونَ أَوْ يَشْفَعُونَكُمْ أَوْ يَضْرُبُونَ ﴿٨﴾ قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا أَبَاءَنَا

tad'oon(72) Aw yanfa'oonaakum aw yadurroon(73) Qaaloo bal wajadnaaa aabaaa 'anaa

كَذِيلَكَ يَفْعَلُونَ ﴿٩﴾ قَالَ أَفَرَعْيَتُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ ﴿١٠﴾ أَنْتُمْ وَ

kazaalika yaf'aloon(74) Qaaloo afara 'aitum maa kuntum ta'budoon(75) Antum wa

أَبَاؤُكُمُ الْأَقْدَمُونَ ﴿١١﴾ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّإِلَّا رَبِّ الْعَالَمِينَ

aabaaa'ukumul aqdamoon(76) Fa innahum 'aduwu illaa Rabbal 'alameen(77)

الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِيَنِي ﴿١٢﴾ وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيُسْقِيَنِي

Allazee khalaqanee fa Huwa yahdeen(78) Wallazee Huwa yu'imunee wa yasqeen(79)

وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِيَنِي ﴿١٣﴾ وَالَّذِي يُبَيِّنُنِي ثُمَّ يُحْبِيَنِي

Wa izaa maridtu fahuwa yashfeen(80) Wallazee yumeetunee summa yuhyeen(81)

وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرِ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ ﴿١٤﴾ رَبِّ هَبْ لِي

Wallazee atma'u ai yaghfir lee khateee' atee Yawmad Deen(82) Rabbi hab lee

حُكْمًا وَالْحِقْنِي بِالصِّلَاحِينَ ﴿١٥﴾ وَاجْعَلْنِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي

hukman wa alhiqnee bis saaliheen(83) Waj'al lee lisaana sidqin fil

الْأَخْرَيْنَ ﴿١٦﴾ وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ

aakhireen(84) Waj'alnee minw warasati Jannnat Na'eem(85) Waghfir li abeee

إِنَّهُ كَانَ مِنِ الظَّالِمِينَ ﴿١٧﴾ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبَعْثُونَ

innahoo kaana mind daalleen(86) Wa laa tukhzinee Yawma yub'asoon(87) Yawma laa

يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ ﴿١٨﴾ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقُلْبٍ سَلِيمٍ

yanfa'u maalun wa laa banoon(88) Illaa man atal laaha biqalbin saleem(89) Wa uzlifatil

● نقاش: دون هدف، اور سہم هدف کی آدا، اور اپنے الٰہ کے برادر لہما کرنے

● اخلاق: دون ساکن اور سہم ساکن جس کے بعد (بے ہوئی آیا) آزادی کو حاصل ہوئی، اسی کی وجہ پر

● نفع: اس سب اپنے الٰہ کے برادر لہما کے پار ہو جائیں گے

● منزل ۵: نقاش: حروف کو پیر یعنی آزاد کر کرنا، فلسفہ: ساکن جنگ کو کمر کرنے

الْجَنَّةُ لِلْمُتَقْبِلِينَ ٢٠ وَبَرَزَتِ الْجَحِيْمُ لِلْمُغُوْثِينَ ٢١ وَقُيْلَ لَهُمْ أَيْنَمَا

Jannatu lilmuttaqeen(90) Wa burrizatil Jaheemu lilghaaween(91) Wa qeela lahum aina maa

كُلُّتُمْ تَعْبِدُونَ لَا مِنْ دُوْنِ اللَّهِ هُلْ يَحْصُرُ وَنَّكُمْ أُوْيَنْتَصِرُونَ

kuntum ta'budoon(92) Min doonil laahi hal yansuroonakum aw yantasiroon(93)

فَكُلْبِكُبُوا فِيهَا هُمْ وَالْعَادُونَ ﴿٢٣﴾ **وَجَنُودُ إِبْلِيسِ أَجْمَعُونَ** ﴿٢٤﴾ **قَالُوا**

Fakubkiboo feehaa hum walghaawoon(94) Wa junoodu Ibleesa ajma'oon(95) Qaaloo

وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِّمُونَ ٩٦ تَالِهِ إِنْ كُنَّا نَفِيْضَلَ مُبِينٌ لَّا اذْ

wa hum feehaa yakkhtasimoon(96) Tallaahi in kunnaa lafee dalaalim mubeen(97) Iz

نُسُوكْمَ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ ۝ وَمَا أَصَلَّنَا إِلَّا الْمُجْرِمُونَ ۝ فَيَا أَيُّهَا

nusawweekum bi Rabbil 'aalameen(98) Wa maaa adallanaaa illal mujrimoon(99) Famaa lanaa

مِنْ شَافِعِينَ ۖ وَلَا صَدِيقٌ حَمِيمٌ ﴿١٠﴾ فَلَوْا نَ لَنَاكِهَةَ فَنَكُونَ

min shaa fi'een(100) Wa laa sadeeqin hameem(101) Falaw anna lanaa karratan fanakoona

١٢٣ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لِاءً يَهُ وَ مَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ

minal mu'mineen(102) Inna fee zaalika la Aayatanw wa maa kaana aksaruhum

مُؤْمِنِينَ ۖ وَإِنْ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿٢٣﴾ كَذَبَتْ قَوْمٌ نُوحٌ

mu'mineen(103) Wa innal Rabbaka la Huwal 'Azeezur Raheem (section 5) (104) Kazzabat qawmu Noohinil

الْمُرْسَلِينَ ٦٥ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخْوَهُمْ نُوحٌ أَلَا تَتَنَقَّفُونَ ٦٦ إِنْ كُمْ

Mursaleen(105) Iz qaala lahumm akhoohum Noohun alaa tattaqoon(106) Innee lakum

سُوْلَامٌ امِيْنٌ ﴿١٠٨﴾ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ ﴿١٠٩﴾ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ

Rasoolun ameen(107) Fattaqullaaha wa atee'oon(108) Wa maaa as'alukum 'alaihi min

أَجْرٌ إِنْ أَجْرٍ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ

ajrin in ajriya illaa 'alaa Rabbil 'aalameen(109) Fattaqul laaha wa atee'oon(110)

قَالُوا أَنْتُمْ نَّلَكَ وَاتَّبَعْكَ الْأَرْذُلُونَ ١١٣ قَالَ وَمَا عِلْمِيٌ بِمَا

Qaaloo anu'minu laka wattaba 'akal arzaloon(111) Qaala wa maa 'ilmee bimaa

متن ۸ تفخیم: حروف کو رجیع آواز کو موڑا کرنا۔ قلقلہ: ساکن جنگ کو کارکردا

میرزا کی آنچہ کوئی زیر یا کی آزادانہ بیٹی وہ کی ۱۶ء از
کو از اف کی آنچہ سارے یعنی آنکھیں اور میسم سارے کیں جس کے بعد (تہو) کی آنکھ کو تخت شوم (ناک) میں پھاگ کر بڑھا
اُخْفَاقٌ: اون سا کن اور تو من اور میسم سا کن جس کے بعد (تہو) کی آنکھ کو تخت شوم (ناک) میں پھاگ کر بڑھا

”عین الف کے برابر یعنی الف کے برابر لاما کر کے پڑھنا اجب سے

كَانُوا يَعْلُوْنَ ﴿١١٢﴾ إِنْ حِسَابُهُمْ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّهِ لَوْ تَشْعُرُونَ ﴿١١٣﴾ وَ

kaanooy ya'maloon(112) In hisaabuhum illaa 'ala Rabbee law tash'uroon(113) Wa

مَا آنَابِطَارِدُ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿١١٤﴾ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿١١٥﴾ قَالُوا إِنَّ

maaa ana bitaaridil mu'mineen(114) In ana illaa nazeerum mubeen(115) Qaaloo la'il

لَمْ تَحْتَهِ يَنْوُعْ لَتَكُونُنَّ مِنَ السَّاجِدُومِيْنَ ﴿١١٦﴾ قَالَ رَبِّ إِنَّ قَوْمِيْ

lam tantahi yaa Noohu latakoona nanna minal marjoomeen(116) Qaala Rabbi inna qawmee

كَذَّبُوْنَ ﴿١١٧﴾ فَأَفْتَحْ بَيْنِيْ وَبَيْنَهُمْ فَتَحَّا وَنَجَّنِيْ وَمَنْ مَعَيْ

kazzaboon(117) Faftab bainee wa bai nahum fat hanw wa najjinee wa mam ma'ya

مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿١١٨﴾ فَأَنْجَيْنِيْ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ الْمَسْحُوْنِ ﴿١١٩﴾ ثُمَّ

minal mu'mineen(118) Fa anjainaahu wa mamma'ahoo fil fulkil mashhoon(119) Summa

أَغْرَقْنَا بَعْدَ الْبَقِيْنَ ﴿١٢٠﴾ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَةٌ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ

aghraqnaa ba'dul baaqeen(120) Inna fee zaalika la Aayaah; wa maa kaana aksaruhum

مُؤْمِنِيْنَ ﴿١٢١﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿١٢٢﴾ كَذَّبَتْ عَادٌ

mu'mineen(121) Wa inna Rabbaka la huwal 'Azeezur Raheem (section 6) (122) Kazzabat 'Aadunil

الْمُرْسَلِيْنَ ﴿١٢٣﴾ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخْوَهُمْ هُوَ الْأَتَّقُوْنَ ﴿١٢٤﴾ إِنِّي لَكُمْ

mursaleen(123) Iz qaala lahum akhoohum Hoodun alaa tattaqoon(124) Innee lakum

رَسُوْلُ امِيْنَ ﴿١٢٥﴾ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيْعُوْنَ ﴿١٢٦﴾ وَمَا أَسْلَكُمْ عَلَيْهِ مِنْ

Rasoolun ameen(125) Fattaqullaaha wa atee'oon(126) Wa maa as'alukum 'alaihi min

آخِرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعِلْمِيْنَ ﴿١٢٧﴾ أَتَتَبْنُوْنَ بِكُلِّ رِيعٍ

ajrin in ajriya illaa 'ala Rabbil 'aalameen(127) Atabnoona bikulli ree'in

آيَةٌ تَعْبَثُوْنَ ﴿١٢٨﴾ وَتَتَّخِذُوْنَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُوْنَ ﴿١٢٩﴾ وَإِذَا

ayatan ta'basoon(128) Wa tattakhizoona masanai'a la'allakum takhludoon(129) Wa izaa

بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِيْنَ ﴿١٣٠﴾ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيْعُوْنَ ﴿١٣١﴾ وَاتَّقُوا

batashrum batashrum jabbaareen(130) Fattaqul laaha wa atee'oon(131) Wattaqul

● نقاش: نوح اور سام مددہ دیکھی اور دلوبیک الف کے برادر لام کرنا

● نقاش: نوح اسکی اور سام اسکی مددہ دیکھی اور دلوبیک الف کے برادر لام کرنا

● نقاش: نوح اسکی اور سام اسکی مددہ دیکھی اور دلوبیک الف کے برادر لام کرنا

● نقاش: نوح اسکی اور سام اسکی مددہ دیکھی اور دلوبیک الف کے برادر لام کرنا

الَّذِي أَمَدَكُم بِمَا تَعْلَمُونَ ١٣٢ أَمَدَكُم بِالْعَامِرِ وَبَنِينَ ١٣٣ وَجَنَّتِ

lazee amad dakum bimaa ta'lamoona(132) Amaddakum bi an'aa minw wa baneen(133) Wa jannaatinw

وَعِيُونِ ١٣٤ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ١٣٥ قَالُوا سَوَاءٌ

wa 'uyoon(134) Innee akhaafu 'alaikum 'azaaba Yawmin 'azeem(135) Qaaloo sawaaa'un

عَلَيْنَا أَوْ عَلَيْهِ أَمْ لَمْ تَكُنْ مِنَ الْوَعِظِيمِ ١٣٦ إِنْ هَذَا إِلَّا حُلْقُ

'alainaaa awa 'azta am lam takum minal waa'izeen(136) In haazaaa illaa khuluqul

الْأُولَئِينَ ١٣٧ وَمَا نَحْنُ بِسَعْدَيْنَ ١٣٨ فَكَذَّبُوهُ فَاهْلَكُنَّهُمْ إِنَّ فِي

awwaleen(137) Wa maa nahnu bimu 'azzabeen(138) Fakazzabooohu fa ahlaknaahum; inna fee

ذِلِّكَ لَا يَةٌ ١٣٩ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ١٤٠ وَإِنْ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ

zaalika la aayah; wa maa kaana aksaruhum mu'mineen(139) Wa inna Rabbaka la huwal 'Azeezur

الرَّحِيمُ ١٤١ كَذَّبَ ثُوُدُ الْمُرْسَلِينَ ١٤٢ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخْوَهُمْ صَلَحٌ

Raheem (section 7) (104) Kazzabat Samoodul mursaleen(141) Iz qaala lahum akhoohum Saalihun

الآتَتَتَّقُونَ ١٤٣ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ١٤٤ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ ١٤٥ وَ

alaa tattaqoon(142) Innee lakum Rasoolun ameen(143) Fattaql laaha wa

مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ ١٤٦ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ ١٤٧

atee'oona(144) Wa maaa as'alukum 'alaihi min ajrin in ajriya illaa 'ala Rabbil 'aalameen(145)

أَتُتَّرَكُونَ فِي مَا هُنَّا أَمْنِينَ ١٤٨ فِي جَنَّتٍ وَعِيُونٍ ١٤٩ وَزُرُوعٍ

Atutrakoon fee maa haahunnaaa aamineen(146) Fee jannaatinw wa 'uyoon(147) Wa zuroo inw

وَنَحْنُ طَلَعْهَا هَضِيمٌ ١٤٩ وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَرِهِينَ ١٥٠

wa nakhiin tal 'uha hadeem(148) Wa tanhitoota minal jibaali buyootan faariheen(149)

فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ ١٥١ وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسَرِّفِينَ ١٥٢ الَّذِينَ

Fattaql laaha wa atee'oona(150) Wa laa tutee'ooo amral musrifeen(151) Allazeena

يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ ١٥٣ وَلَا يُصْلِحُونَ ١٥٤ قَالُوا إِنَّا أَنْتَ مِنَ

yufsidoona fil ardi wa laa yuslihoon(152) Qaalooo innamaa anta minal

منزل ٥ تَقْرِيمُهُ: حروف کو پر ایجھے دیکھیں اور حکم مکمل کرنے کے لئے براہ راست کرنا۔

تَحْكِيمُهُ: حروف کو پر ایجھے دیکھیں اور حکم مکمل کرنے کے لئے براہ راست کرنا۔

تَحْكِيمُهُ: حروف کو پر ایجھے دیکھیں اور حکم مکمل کرنے کے لئے براہ راست کرنا۔

تَحْكِيمُهُ: حروف کو پر ایجھے دیکھیں اور حکم مکمل کرنے کے لئے براہ راست کرنا۔

الْمُسَحَّرَيْنَ ﴿١٥٣﴾ مَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا فَأُتِبِ بِآيَةٍ إِنْ كُنْتَ

musahhareen(153) Maaa anta illaa basharum mislunaa faati bi Aayatin in kunta

مِنَ الصَّدِيقِينَ ﴿١٥٤﴾ قَالَ هُذِهِ نَاقَةٌ لَهَا شَرَبٌ وَلَكُمْ شَرَبٌ يَوْمَ مَعْلُومٍ

minas saadiqueen(154) Qaala haazihee naaqatul lahaa shirbuun walakum shirbu yawnim ma'loom(155)

وَلَا تَسْوُهَا بِسُوءٍ فَيَا خَذْكُمْ عَذَابٌ يَوْمَ عَظِيمٍ ﴿١٥٦﴾ فَعَرَقَ وُهُنَّا

Wa laa tamassoohaa bisooo'in fa yaakhuzakum 'azaabu Yawmin 'Azeem(156) Fa'aqarohaa

فَاضْبَحُوا نَدِيمِينَ ﴿١٥٧﴾ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِيْةً وَ

fa asbahoo naadimeen(157) Fa akhazahumul 'azaab; inna fee zaalika la Aayah; wa

مَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿١٥٨﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ

maa kaana aksaruhum mu'mineen(158) Wa inna Rabbaka la Huwal 'Azeezur Raheem (section 8) (159) kazzabat

قَوْمٌ لُوطٌ الْمُرْسَلِيْنَ ﴿١٥٩﴾ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخْوَهُمْ لُوطٌ أَلَا تَتَّقَوْنَ

qawmu Lootinil mursaleen(160) Iz qaala lahum akhoohum Lootun alaa tattqafoon(161)

إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿١٦٠﴾ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ

Innee lakum rasoolun ameen(162) Fattaqul laaha wa atee'oон(163) Wa maaa as'alukum

عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرَى إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَلَمِيْنَ ﴿١٦١﴾ أَتَأْتُونَ الذُّكْرَ أَنَّ

'alaihi min ajrin in ajriya illaa 'ala Rabbil 'aalameen(164) Ataatoonaz zukraana

مِنَ الْعَلَمِيْنَ ﴿١٦٢﴾ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ آزْوَاجِكُمْ بَلْ أَتُمْ

minal 'aalameen(165) Wa tazaroona maa khalaqa lakum Rabbukum min azwaajikum; bal antum

قَوْمٌ عَدُوْنَ ﴿١٦٣﴾ قَالُوا لَئِنْ لَمْ تَتَّهِيْ يَلُوطٌ لَتَكُونَنَّ مِنَ السُّخْرِيْجِيْنَ

qawmun 'aadoon(166) Qaloo la'il lam tantahi yaa Lootu latakoonanna minal mukhrajeeen(167)

قَالَ إِنِّي لَعَمِلْكُمْ مِنَ الْقَالِيْنَ ﴿١٦٤﴾ رَبِّ نَجْنِيْنِ وَأَهْلِيْ مِمَّا يَعْلَمُونَ

Qaala innee li'amalikum minal qaaleen(168) Rabbi najjinee wa ahlee mimmaa ya'maloон(169)

فَنَجَّيْنِهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِيْنَ ﴿١٦٥﴾ إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَيْرِيْنَ

Fanajjainaahu wa ahlahoo ajma'een(170) Illaa 'ajoozan filghaabireen(171) Summa dammarnal

الآخِرِيْنَ ﴿١٧٣﴾ وَأَمْطَنَ نَا عَلَيْهِمْ مَطْرًا فَسَاءَ مَطْرُ الْمُنْذَرِيْنَ

aa khareen(172) Wa amtarnaa 'alaihim mataran fasaaa'a matarul munzareen(173)

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَةً ط وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِيْنَ ﴿١٧٤﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ

Inna fee zaalika la Aayah; wa maa kaana aksaruhum mu'mineen(174) Wa inna Rabbaka

لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿١٧٥﴾ كَذَبَ أَصْحَبُ لَئِكَةِ الْمُرْسَلِيْنَ ﴿١٧٦﴾ إِذْ قَالَ

la Huwal 'Azeezur Raheem (section 9) (175) Kazzaba As haabul Aykatil mursaleen(176) Iz qala

لَهُمْ شُعْبِيْبٌ أَلَا تَتَقَوَّنَ ﴿١٧٧﴾ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِيْنٌ ﴿١٧٨﴾ فَاتَّقُوا اللَّهَ

lahum Shu'aybun alaa tattaqoon(177) Innee lakum Rasoolun ameen(178) Fattaqul laaha

وَأَطِيْعُوْنِ ﴿١٧٩﴾ وَمَا أَسْلَكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرَى إِلَّا عَلَى

wa atee'oон(179) Wa maaa as'alukum 'alaahi min ajrin in ajriya illaa 'ala

رَبِّ الْعَلَمِيْنَ ط أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِيْنَ ﴿١٨٠﴾ وَزِنُوا

Rabbil 'aalameen(180) Awful kaila wa laa takoonoo minal mukhsireen(181) Wa zinoo

بِالْقُسْطَاسِ الْمُسْتَقِيْمِ ﴿١٨١﴾ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْشُوا

bilqistaasil mustaqeem(182) Wa laa tabkhasun naasa ashayaa 'ahum wa laa ta'saw

فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِيْنَ ﴿١٨٣﴾ وَاتَّقُوا الدِّيْنُ خَلَقْكُمْ وَالْجِيلَةُ الْأَوَّلِيْنَ

fil ardi mufsideen(183) Wattaqul lazee khalaqakum waljibillatal awwaleen(184)

قَالُوا إِنَّا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِيْنَ ﴿١٨٤﴾ وَمَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَإِنْ

Qaalooo innamaa anta minal musahhareen(185) Wa maaa anta illaa basharum mislunaa wa in

نَظْنُكَ لَيْكَ الْكُذَبِيْنَ ﴿١٨٥﴾ فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسْفًا مِنَ السَّيَّارِ إِنْ

nazunnuka laminal kaazibeen(186) Fa asqit 'alainaa kisafam minas samaaa'i in

كُنْتَ مِنَ الصَّدِيقِيْنَ ط **قَالَ رَبِّيْ** أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿١٨٦﴾ فَكَذَبُوهُ

kunta minas saadiqueen(187) Qaala Rabbee alamu bimaa ta'maloon(188) Fakazzaboo

فَأَخْذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظَّلَّةِ ط إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ

fa akhazahum 'azaabu Yawmiz zullah; innahoo kaana 'azaaba Yawmin 'Azeem(189)

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَةً ۚ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِينَ ۖ ۱۹۰ وَإِنَّ رَبَّكَ

Inna fee zaalika la Aayah; wa maa kaana aksaruhum mu'mineen(190) Wa inna Rabbaka

لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ۖ ۱۹۱ وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَلَيِّينَ ۖ ۱۹۲ نَزَّلَ بِهِ

la huwal 'Azeezur Raheem (secion 10) (191) Wa innahoo latanzeelu Rabbil 'aalameen(192) Nazala bihir

الْوُحْدَةُ الْأَمِينُ ۖ ۱۹۳ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُسْتَدِرِينَ ۖ ۱۹۴ بِلِسَانِ

Roohol Ameen(193) 'Alaa qalbika litakoona minal munzireen(194) Bilisaanin

عَرَبِيٌّ مُّبِينٌ ۖ ۱۹۵ وَإِنَّهُ لَفِي زِبْرِ الْأَوَّلَيْنَ ۖ ۱۹۶ أَوَلَمْ يَكُنْ لَّهُمْ آيَةً

'Arabiyyim mubeen(195) Wa innahoo lafee Zuburil awwaleen(196) Awalam yakul lahum Aayatan

أَنْ يَعْلَمَهُ عُلَمَاؤُبَنِي إِسْرَائِيلَ ۖ ۱۹۷ وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَىٰ بَعْضِ

ai ya'lamaho 'ulamaaa'u Baneee Israaa'eel(197) Wa law nazzalnaahu 'alaa ba'dil

الْأَعْجَمِينَ ۖ ۱۹۸ فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ ۖ ۱۹۹ كَذَلِكَ سَلَكْنَاهُ

a'jameen(198) Faqara ahoo 'alaihim maa kaanoo bihee mu'mineen(199) Kazaalika salaknaahu

فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ ۖ ۲۰۰ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ حَتَّىٰ يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ

fee quloobil mujrimeen(200) Laa yu'minoona bihee hattaa yarawul 'azaabal aleem(201)

فَيَأْتِيهِمْ بَعْتَةً ۖ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ۖ ۲۰۱ فَيَقُولُوا هَلْ نَحْنُ مُنْظَرُونَ

Fayaatiyuhum baghtatanw wa hum laa yash'uroon(202) Fa yaqooloo hal nahnu munzaroon(203)

أَفَيُعَذَّابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ ۖ ۲۰۲ أَفَرَأَيْتَ إِنْ مَتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ ۖ ۲۰۳ ثُمَّ جَاءَهُمْ

Aafabi 'azaabinaa yasta'jiloon(204) Aara'aita im matta'nahum sineen(205) Summa jaaa'ahum

مَا كَانُوا يُوعَدُونَ ۖ ۲۰۴ مَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يُسْتَعْوِنُونَ ۖ ۲۰۵ وَمَا أَهْلَكَنَا

maa kaanoo yoo'aduoon(206) Maaa aghnaaa 'anhum maa kaanoo yumaatoo'on(207) Wa maaa ahlaknaa

مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنْذِرُونَ ۖ ۲۰۶ ذُكْرٌ إِشْكَارٌ وَمَا كَانَ أَذْلِمُ

min qaryatin illaa lahaa munziroon(208) Zikraa wa maa kunnaa zaalimeen(209) Wa maa

تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيْطَانُ ۖ ۲۰۷ وَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِي عَوْنَانُ ۖ ۲۰۸ إِنَّهُمْ

tanazzalat bihis Shayaateen(210) Wa maa yambaghee lahum wa maa yastatee'o'on(211) Innahum

عَنِ السَّمِعِ لَمْ يَعْزُلُونَ ﴿٢١٢﴾ فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَّا هُنَّ فَتَكُونُونَ

'anis sam'i lama' zooloon(212) Falaa tad'u ma'al laahi ilaahan aakhara fatakoona

مِنَ الْمُعْذَبِينَ ﴿٢١٣﴾ وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ ﴿٢١٤﴾ وَأَخْفِضْ

minal mu'azzabeen(213) Wa anzir 'asheeratakal aqrabeen(214) Wakhfid

جَنَاحَكَ لِيَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢١٥﴾ فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ

janaahaka limanit taba 'aka minal mu'mineen(215) Fa in asawka faqul

إِنِّي بَرِّي عِمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٢١٦﴾ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ ﴿٢١٧﴾ الَّذِي

innee bareee'um mimmaa ta'maloon(216) Wa tawakkal alal 'Azeezir Raheem(217) Allazee

يَرِلَكَ حِينَ تَقُومُ ﴿٢١٨﴾ وَتَقْلِبَكَ فِي السُّجُدِيْنَ ﴿٢١٩﴾ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٢٢٠﴾

yaraaka heena taqoom(218) Wa taqallubaka fis saajideen(219) Innahoo Huwas Samee'u'l 'Aleem(220)

هَلْ أُنَيْكُمْ عَلَىٰ مَنْ تَنَزَّلُ الشَّيْطَيْنُ ﴿٢٢١﴾ تَنَزَّلُ عَلَىٰ كُلِّ أَفَّاٍ

Hal unabbi'ukum 'ala man tanazzalush Shayaateen(221) Tanazzalu 'ala kulli affaakin

أَثِيْمٌ ﴿٢٢٢﴾ يُلْقَوْنَ السَّمِعَ وَأَكْثَرُهُمْ كُذَّابُونَ ﴿٢٢٣﴾ وَالشَّعْرَاءُ يَتَسْبِّهُمُ الْغَاوَةُ ﴿٢٢٤﴾

aseem(222) Yulqoonas sam'a wa aksaruhum aaziboon(223) Washshu 'araau yattabi' 'uhulum ghaawoon(224)

الَّمْ تَرَأَّثُهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ ﴿٢٢٥﴾ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ


Alam tara annahum fee kulli waadiny yaheemoon(225) Wa annahum yaqooloona ma laa yaf'aloon(226)

إِلَّا الَّذِينَ أَمْنُوا وَعَمِلُوا الصِّلْحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَأَنْتَصَرْ وَامِنْ

Illal lazeena aamanoo w a'milus saalihaati wa zakarul laaha kaseeran wantasaroo mim

بَعْدِ مَا ظَلَمُوا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَسْقِلُبُونَ ﴿٢٢٦﴾

ba'di maa zulimoo; wa saya'lamlul lazeena zalameeo aiya munqalbiny yanqaliboon (section 11) (227)



Bismillaahir Rahmaanir Raheem

طَسْ ۝ تِلْكَ آيَتُ الْقُرْآنِ وَكِتَابِ مُبِينٍ ﴿١﴾ هُدًى وَّبُشْرَىٰ

Taa-Seen; tilka Aayaatal Qur-aani wa Kitaabim Mubeen(1) Hudanw wa bushraa

منزل ۵۔ تَقْرِيم: حروف کو پر یعنی آواز کو مارکھنے۔ قَلْقَلْه: ساکن جن جگہ کو کہا جائے۔

الْخَلْق: بُون ساکن اور سماں میں جس کے درجے (تَبَرِّي) آیا۔ وَالْجَنَّةُ: جن جنگی پر جائے۔

الْجَنَّةُ: جن جنگی پر جائے۔ ان سب پانچ الف کے برادر لام کے پڑھو جوپ ہے۔

لِلْمُؤْمِنِينَ ۖ الَّذِينَ يُقْرِبُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكُوَةَ وَهُ

lil mu'mineen(2) Allazeena yuqeemoonas Salaata wa yu'toonaz Zakaata wa hum

بِالْأُخْرَةِ هُمْ يُوقَنُونَ ﴿٢﴾ إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْأُخْرَةِ زَيَّنَ لَهُمْ

أَعْبَلُهُمْ فِيهِمْ لَعْنَهُمْ أَوْلَيَكُمُ الْذِيَّةَ لَهُمْ سُوءُ الْعَذَابِ وَهُمْ

a'maalahum fabum ya'mahoon(4) Ulaaa'ikal Jazeena labum sooo'u'l 'azaabi wa hum

فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْأَحْسَنُونَ وَإِنَّكَ لَتُلَقِّي الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ

fil Aakhirati humul akhsaroon(5) Wa innaka latulaqqal Qur-aana mil ladun

حَكِيمٌ عَلَيْهِمْ إِذْ قَالَ مُوسَى لِأَهْلِهِ إِنِّي أَنْتُ نَارًا طَسَاطِيكُمْ

Hakeemin 'Aleem(6) Iz qaala Moosaa li ahliheee innee aanstu naaran saaateekum

مِنْهَا بِخَبْرٍ أَوْ اتَّيْكُمْ بِشَهَابٍ قَبْسٍ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ

minhaa bikhabarin aw aateekum bishihaabin qabasil la'allakum tastaloon(7)

فَلَمَّا جَاءَهَا نُودِيَ أَنْ بُوْرَكَ مَنْ فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَانَ

Falammaa jaaa'ahaanoodiya am boorika man finnnnaari wa man hawlahaa wa Subhaanal

اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ يَوْمَئِنَ إِنَّهُ أَنَا اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

laahi Rabbil 'aalameen(8) Yaa Moosaaa innahooo Anal laahul 'Azeezul Hakeem(9)

وَالْقِعْدَةُ فَلَمَّا رَأَاهَا هَاتَهْتَرْ كَانَهَا جَانٌ وَلَيْ مُدْبِرًا وَلَمْ يُعْقِبْ

Wa alej 'asaak; falammmaa ra aahaa tahtazzu ka annahaa jaaannunw wallaa mudbiranw wa lam yu'aqqib;

يَمْوِى لَا تَخَفْ إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَى الْمُرْسَلُونَ إِلَّا مَنْ ظَلَمَ

yaa Moosaa laa takhaf innee laa yakhaafu ladaiyal mursaloon(10) illaa man zaalama

ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنَا بَعْدَ سُوءٍ فِي نَعْوَرَةِ حِيمٍ ۖ وَأَدْخِلْ يَدَكَ

summa baddala husnam ba'da sooo'in ta innee Ghafoorur Raheem(11) Wa adkhil yadaka

فِي جَيْلِكَ تَخْرُجُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ فِي تِسْعِ آيَتٍ إِلَى فَرَّاعُونَ

fee jaibika takhruj baldaaa a min ghairisooo in feetis i Aayaatin haa Fir awna

وَقَوْمَهُ أَنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَسِيقِينَ ٢٧ فَلَمَّا جَاءَهُمْ أَيْتَنَا مُبَصِّرَةً

wa qawmih; innahum kaanoo qawman faasiqeen(12) Falammaa jaaa'at hum Aayaatunaa mubsiratan

قَالُوا هَذَا سُحْرٌ مُّبِينٌ ۝ وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنُتْهَا أَنفُسُهُمْ طَلْبًا

qaaloo haazaa sihrum mubeen(13) Wa jahadoo bihaa wastaiqanat haaa anfusuhum zulmanw-

وَلَقَدْ أَتَيْنَاكُمْ كِفَّاً كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ

wa 'uluwwaa; fanzur kaifa kaana 'aaqibatul mufsideen (section 1) (14) Wa laqad aatainaa

دَاؤدْ وَسُلَيْمَانٌ عَلَيْهَا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلٰى

Daawooda wa sulaimaan 'ilmaa; wa qaalal hamdu lil laahil lazee faddalanaa 'alaat

كَثِيرٌ مِّنْ عِبَادَةِ الْمُؤْمِنِينَ ۝ وَرَثَ سُلَيْمَانَ دَاؤَدَ وَقَالَ

kaseerim min 'ibaadihil mu'mineen(15) Wa warisa Sulaimaanu Daawooda wa qaala

يَا أَيُّهَا النَّاسُ عِلْمُنَا مَنْطَقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ

yaaa aiyuhan naasu 'ullimnaa mantiqat tairi wa ooteenaa min kulli shai'in inna

هَذَا هُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ ۖ وَحُشْرٌ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ

haazaa lahuwal fadlul mubeen(16) Wa hushira Sulaimaan junooduhoo minal jinni

وَالْأَنْسُ وَالظَّيْرِ فَهُمْ يُؤْزَعُونَ ﴿٢﴾ **حَتَّىٰ إِذَا آتَوْا عَلَىٰ وَادِ النَّمْلِ**

wal insi wattairi fahum yooza'oon(17) hattaaa izaaa ataw 'alaa waadin namli

وَمِنْهُمْ مَنْ يَعْمَلُ مُجْرِيًّا وَمَنْ يَعْمَلُ حَسْنًا يُؤْتَهُ أَجْرًا وَمَنْ يَعْمَلُ مُثْنَى

قالت نملة يأ ايها اسفل ادخلوا مسجىتم ربي حفظكم سليمان
qaalat namlatun yaaa aiyuhana namlud khuloo masaakinakum laa yahtimannakum Sulaiman

وَوَدْدَلَارْ وَدَرْجَاتْ وَدَرْجَاتْ

وَجِئْدَهُ وَهُمْ رَيْسُعُرُونَ تَبَسَّمَ صَاحِبُهُ مِنْ كُوَيْهَا وَهُنَّ
wa junooduhoo wa hum laa yash'uroon(18) Fatabassama daahikam min qawlihaa wa qaala

Rabbi awzi'nee an ashkura ni'mata kal lateee an'amta 'alaiya wa 'alaa waalidaiya

وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِنْ إِنْسَانٍ

منزل ۵ **تفصیل:** حروف کو پڑھنے اور سکھنے میں ادا کو ایک الف کے برپا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس نام سے اور حکم سے اس کو کہا جائے۔ اس کو آئندہ حکم (نام) میں بھی اپر اضافہ کیا جائے۔ اس کو کافی الف کے برپا ہے۔ اس کے پڑھنے اور سکھنے میں ادا کو ایک الف کے برپا ہے۔

الصَّلِحِيْنَ ١٩ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِي لَا أَرَى الْهُدَى هُدًى أَمْ كَانَ

saalihineen(19) Wa tafaqqadat taira faqala maa liya laaa araa al hudhuda, am kaana

مِنَ الْغَالِبِيْنَ ٢٠ لَا عَذَّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيْدًا أَوْ لَا ذَبَحَنَّهُ أُولَئِيْتَيْنِيْ

minal ghaaaibeen(20) La-u'azzibahahoo 'azaaban shadeedan aw la azbahannahoo aw layaatiyannee

بِسُلْطِنِ مُبِيْنِ ٢١ فَيَكُثُرُ غَيْرُ بَعِيْدٍ فَقَالَ أَحَاطْتُ بِسَائِلَمٍ تُحِطْ

bisultaanim mubeen(21) Famakasa ghaira ba'edin faqala ahattu bimaa lam tuhit

بِهِ وَجَعْنَتْكَ مِنْ سَبِيْلِ بَنِيَّا يَقِيْنِ ٢٢ إِنِّي وَجَدْتُ امْرًا تَتَلَكُّهُمْ

bihee wa ji'tuka min Sabaim binaba iny-yaqeen(22) Innee wajattum ra atan tamlikuhum

وَأُوتِيَّشَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَمَّشَ عَظِيْمٌ ٢٣ وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا

wa ootiyat min kulli shai'inw wa lahaa 'arshun 'azeem(23) Wajattuhaa wa qawmaha

يَسْجُدُونَ لِلشَّيْسِ مِنْ دُوْنِ الْهُوَّةِ وَزَيْنَ لَهُمُ الشَّيْطَنُ أَعْبَالَهُمْ

yasjudoona lishshamsi min doonil laahi wa zaiyana lahummush Shaitaanu a'maaluhum

فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيْلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ ٢٤ أَلَا يَسْجُدُوا

fasaddahum 'anis sabeeeli fahum laa yahtadoon(24) Allaa yasjudoo

بِإِلَهٍ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبَءَ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَ

lillaahil lazee yukhriful khab'a fis samaawaati wal ardi wa ya'lamu maa tukhfoona wa

مَا تَعْلَمُونَ ٢٥ أَلَّهُ أَلَّا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ ٢٦ قَالَ سَنَنْظُرْ

maa tu'linoon(25) Allaahu laaa ilaaha illaa Huwa Rabbul 'Arshil Azeem (make sajda) (26) Qaala sananzuru

أَصَدَّقْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْكُذَيْبِيْنَ ٢٧ إِذْهَبْ بِكِتْبِيْ هَذَا فَالْقِهَ إِلَيْهِمْ

asadaqta am kunta minal kaazibeen(27) Izhab bikitaabee haaza fa alqih ilaihim

ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَانْظُرْ مَاذَا يَرِيْدُ جُعْوَنَ ٢٨ قَاتَلَتْ يَأْيَهَا الْبَلْوَاءِ فِي الْقِيْمَ

summama tawalla 'anhuma fanzur maazaa yarji'oon(28) Qaatalat yaaa aiyuhal mala'u innee ulqiya

إِلَى كِتَبِ كَرِيْمٍ ٢٩ إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَيْنَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

ilaiya kitaabun kareem(29) Innahoo min Sulaimana wa innahoo bismil laahir Rahmaanir Raheem(30)

● نَكْتَهَ: توْنَهَادِيْرَهْ دَارِسَهْ مَهْرَهْ وَكِيْ آدِرَوكِيْبَ الْفَكَرَ كَيْ بَرَاهِيلَمَهْ

● إِلْخَافَ: تَوْنَهَادِيْرَهْ دَارِسَهْ مَهْرَهْ سَكَنَهْ كَيْ آدِرَوكِيْبَ الْفَكَرَ (تَبَّهْ) كَيْ آدِرَوكِيْبَ الْفَكَرَ (تَبَّهْ) مَيْنَ بَيْجَارَ كِيْرَهْ

● مَنْزَلٌ ٥: تَقْتِيْمَهْ: حَرْفَ كَوْپِيْ بَيْتَيْنِيْ: سَكَنَهْ كَيْ بَرَاهِيلَمَهْ

● إِلْخَافَ: تَوْنَهَادِيْرَهْ دَارِسَهْ مَهْرَهْ سَكَنَهْ كَيْ آدِرَوكِيْبَ الْفَكَرَ (تَبَّهْ) كَيْ آدِرَوكِيْبَ الْفَكَرَ (تَبَّهْ)

● مَنْزَلٌ: -عَنِ الْفَكَرَ كَيْ بَرَاهِيلَمَهْ پَانِيْتَ الْفَكَرَ كَيْ بَرَاهِيلَمَهْ كَيْ بَرَاهِيلَمَهْ بَيْجَارَ كِيْرَهْ

الاَّلَّا تَعْلُمُ اَعْلَمَ وَأَتُوْنَى مُسْلِمِيْنَ ﴿٣١﴾ قَالَتْ يَا اَيُّهَا الْمُلْكُ اَفْتُوْنِي فِي

Allaa ta'loo 'alaiya waa toonee muslimineen (section 2) (31) Qaalat yaaa aiyuhal mala'u aftoonee fee

اَمْرِيْ مَا كُنْتَ قَاطِعَةً اَمْرًا حَتَّى تَشَهَّدُونَ ﴿٣٢﴾ قَالُوا نَحْنُ اُولُوْ قُوَّةً وَ

amree maa kuntu qaat'i'an amran hattaa tashhhaddon(32) Qaaloo nahnu uloo quwwatiin wa

اُولُوْ بَاسٍ شَدِيدٍ لَّهُ وَالْاَمْرُ اِلَيْكَ فَانظُرْنِي مَاذَا تَأْمُرِيْنَ ﴿٣٣﴾ قَالَتْ اِنَّ

uloo baasin shadeed; wal amru ilaiki fanzuree maazaa taamureen(33) Qaalat innal

الْمُلْكُ اِذَا دَخَلُوا قَرْنَيْةً اَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا اَعْزَّةً اَهْلِهَا اَذِلَّةً وَكَذِيلَكَ

mulooka izaa dakhlooh qaryatan afsadoohaa wa ja'alooh a'izzata ahliah azillah; wa kazaaliika

يَفْعَلُونَ ﴿٣٤﴾ وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَظِرْنِيْهِ بِمَا يَرْجِعُ

yaf'aloon(34) Wa innee mursilatun ilaihim bihadiyyatin fanaaziratum bima yarji'u ul

الْمُرْسَلُونَ ﴿٣٥﴾ فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانَ قَالَ اَتَمِدُّوْنِي بِمَا اَتَيْتُنِيَ اللَّهُ

mursaloon(35) Falammaa jaaa'a Sulaimana qaala atumiddoonani bimaalin famaaa ataaniyal laahu

خَيْرٌ مِّمَّا اَتَيْتُكُمْ بَلْ اَنْتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرِحُونَ ﴿٣٦﴾ اِرْجِعْ إِلَيْهِمْ

khairum mimmaaa aataakum bal antum bihadiy-yatikum tafragoon(36) Irji' ilaihim

فَلَنَّا تَيْنَهُمْ بِجُنُودِ لَا قَبَلَ لَهُمْ بِهَا وَلَنْخَرَجُهُمْ مِّنْهَا اَذِلَّةٌ وَهُمْ

falanaatiyan nahum bijunoosil laa qibala lahumm bihaa wa lanukhri jannahum minhaa azillatan wa hum

صَغِرُونَ ﴿٣٧﴾ قَالَ يَا اَيُّهَا الْمُلْكُ اَيُّكُمْ يَا اَتَيْتُنِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ اَنْ يَأْتُونِي

saaghiron(37) Qaala yaaa aiyuhal mala'u aiyukum yaateenee bi'arshihaa qabla ai yaatoonee

مُسْلِمِيْنَ ﴿٣٨﴾ قَالَ عِفْرِيْتُ مِنَ الْجِنِّ اَنَا اَتِيْكَ بِهِ قَبْلَ اَنْ تَقُومَ مِنْ

muslimeen(38) Qaala ifreetum minal jinni ana aateeka bihee qabla an taqooma mim

مَقَامِكَ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقُوَّى اَمِينٌ ﴿٣٩﴾ قَالَ الَّذِيْ عِنْدَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ

maqaamika wa innee 'alaihi laqawiyun ameen(39) Qaalal lazee indahoo 'ilmum minal Kitaabi

أَنَا اَتِيْكَ بِهِ قَبْلَ اَنْ يَرَتِدَ إِلَيْكَ طَرْفَكَ ﴿٤٠﴾ فَلَمَّا رَأَاهُ مُسْتَقْرِئًا عِنْدَهُ

ana aateeka bihee qabla ai yartadda ilaika tarfuk; falammaa ra aahu mustaqirran 'indahoo

● نقاش: دون هنگار و در سهم هنگار و کی آدا زدایک الٰف کے برادر لام کرنے

● اخلاق: دون سماں اور سهم سماں میں کے بعد (بے ہوئی آیا) اور شیخ (بے ہوئی آیا) اور شیخ (بے ہوئی آیا)

● جیسے تھے۔ ان سب پانچ الٰف کے برادر لام کے برادر لام کے پانچوں جیسے

● ... تمین الٰف کے برادر پانچ الٰف کے برادر لام کے پانچوں جیسے

قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّيِّ لَيَبْلُوْنِي عَاشِكُمْ أَمْ أَكُفُّرُ وَمَنْ شَكَرَ

qaala haazaa min fadli Rabbee li yabluwaneee 'a-ashkuru am akfuru wa man shakara

فَإِنَّمَا يُشْكِنُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبَّهُ عَلَيْهِ كَفِيرٌ ۖ

fa innamaa yashkuru linafsihee wa man kafara fa inna Rabbee Ghaniyyun Kareem(40) Qaala nakkiroo

لَهَا عَرْشَهَا نَظَرٌ أَتَهْتَدِي أَمْ تَكُونُ مِنَ الْذِينَ لَا يَهْتَدُونَ

lahaa 'arshahaa nanzur atahtadeee am takoonu minal lazeena laa yahtadoon(41)

فَلَمَّا جَاءَتْ قِيلَّ أَهْكَدَاهُ عَشْكٌ قَاتَ كَانَهُ هُوَ وَأُوتِيَنَا الْعِلْمَ

Falammaa jaaa'at qeela ahaakaza 'arshuki qaalat kaanna hoo; wa ooteenal 'ilma

وَمِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ ﴿٢﴾ وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ

min qablihaa wa kunnaa muslimeen(42) Wa saddahaan maa kaanat ta'budu min doonil laahi

إِنَّهَا كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ كُفَّارٍ إِنَّمَا لَهَا دُخُلُّ الصَّرَاطِ فَلَمَّا رَأَتُهُ حَسِبَتْهُ

nahaa kaanat min qawmin kaafireen(43) Qeela lahad khulis sarha falammaa ra at hu hasiba

جَهَةٌ وَكَشْفٌ عَنْ سَاقِيَّهَا قَالَ إِنَّهُ صَرْمٌ مَبَرَّدٌ مِنْ قَوَارِيرٍ قَالَتْ

lujjanw wa khasnafat an saaqimaa, qaala immanoo sardum innumarradum min qawaareer, qaafat

٢٣ ربِّ إِنِّيْ تَلَمَّتُ نَفْسِيْ وَأَسْلَمَتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

وَلَقَدْ أَسْلَنَا إِلَيْهِ شَرِيدَةً أَخَاهُمْ صَلَحًا أَنْ اعْتَدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ

Wiley-Blackwell Publishing Ltd, *Social Science Information*, 2003, Vol. 22, No. 1, pp. 1–14.

فَرِيقٌ يَخْتَصُّونَ ﴿٤﴾ **قَالَ يَقُومٌ لَمْ تُسْتَعْجِلُوهُنَّ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ**

forazzani valktasimoon(45) Osakla uca gavumi lima testatilile ova hiscaviviti asable.

الْحَسَنَةُ كُلُّهَا تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرَحَّمُونَ ﴿٢٣﴾

baconet law las tas tagbisognal lache ls'allakum tushameen(46) Qasut tajwarras bika wa

بَيْنَ مَعَكُمْ قَالَ طَهِيرٌ كُمْ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمًا أَنْتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُونَ ٢٤

bimam ma'ak: qaala taaa'irukum 'indal laabi baJ antum qawmum tuftanoor(47) Wa

مِنْ **أَنْ** **كُلُّ** **مُجْرِمٍ** **يُعَذَّبُ** **وَمَنْ** **يُعَذَّبُ** **فَإِنَّمَا** **أُنْذَنَ** **لِلْكُفَّارِ** **كُلُّ** **أَنْ** **مُجْرِمٍ** **يُعَذَّبُ** **وَمَنْ** **يُعَذَّبُ** **فَإِنَّمَا** **أُنْذَنَ** **لِلْكُفَّارِ**

مدرسہ: مدرسہ کو اپنے بھائیوں کے ساتھ بھائیوں کا بھائیوں کا مدرسہ کہا جاتا ہے۔ مدرسہ کو اپنے بھائیوں کے ساتھ بھائیوں کا بھائیوں کا مدرسہ کہا جاتا ہے۔ مدرسہ کو اپنے بھائیوں کے ساتھ بھائیوں کا بھائیوں کا مدرسہ کہا جاتا ہے۔ مدرسہ کو اپنے بھائیوں کے ساتھ بھائیوں کا بھائیوں کا مدرسہ کہا جاتا ہے۔

”عَمَّنِ الْفَكَرَ بِهِ لَا يَرَى“ میں اسی الفکر کے بارے میں ابھی تکہلنا پڑتا ہے۔

كَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُضْلِلُونَ

kaana fil madeenati tis'atu rahtiny yufsidoona fil ardi wa laa yuslihoon(48)

قَالُوا تَقَاسِمُوا بِاللّٰهِ لَنْبَيِّنَهُ وَأَهْلَهُ ثُمَّ لَنْقُولَنَّ لَوْلٰيْهِ مَا شَهَدُنَا

Qaaloo taqaasamoo billaahi lanubajitannahoo wa ahlahoo summaa lanaqoolana liwaliv yihee maa shahidnaa

۴۹ مَهْلِكٌ أَهْلِهِ وَإِنَّ لَصَدِيقَوْنَ وَمَكَرٌ وَأَمَكَرٌ وَمَكَرٌ نَّا مَكَرٌ وَهُمْ

mahlika ahliee wa innaa lasaadigoon(49) Wa makaroo makranw wa makarnaa makranw wa hum

لَا يَشْعُرُونَ ﴿٢﴾ فَالظَّهِيرَةُ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرَاهِيمْ لَا أَنَّا دَمَرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ

laa yash'uroon(50) Fanzur kaifa kaana 'aaqibatu makrihim annaa dammar naahum wa qawmahum

أَجْمَعِينَ ﴿٥١﴾ فَتُلْكَ بُيُوتُهُمْ خَوِيهٌ بِهَا ظَلَمُوا إِنْ فِي ذَلِكَ لَا يَةٌ لِّقَوْمٍ

ajma'een(51) Fatilka buyootuhum khaa wiyatam bimaa zalamoo; inna fee zaalika la Aayatal liqaw miny-

يَعْلَمُونَ ﴿٥٢﴾ **وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ أَمْنَوْا وَكَانُوا يَتَّقُونَ** ﴿٥٣﴾ **وَلُوطًا إِذْ قَالَ**

ya'lamoona(52) Wa anjainal lazeena aamanoo wa kaanoo yattaqoon(53) Wa lootan iz qaala

لِقَوْمٍ هُنَّ أَتَّوْنَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبَصِّرُونَ ﴿٢٥﴾

liqawmiheee ataatoonal faa hishata wa antum qawmun tajjhaloon(54) A'innakum lataatoonar rijaala

شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ طَبَلَ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ ٥٥ فَمَا كَانَ جَوَابَ

shahwatam min doonin nisaaa'; bal antum qawmun tajhaloon (55) Famaa kaana jawaaba

قَوْمٌ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوا إِلَّا لُوْطٌ مِّنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أَنَّاسٌ

qawmiheee illaaa an qaalooo akhrijooo aalaa Lootim min qaryatikum innahum unaasuny

يَتَطَهَّرُونَ ٥٦ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَةً قَدَّرْنَا هَا مِنَ الْغَيْرِينَ

yatatahharon(56) Fa anjainaahu wa ahlahooo illam ra atahoo qaddarnaahaa minal ghaabireen(57)

وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطْرًا فَسَاءَ مَطْرُ الْمُنْذَرِينَ ﴿٥٨﴾ قُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ

Wa amtarnaa 'alaihimm mataran fasaaa'a matarul munzareen (section 4) (58) Quil hamdu lillaahi

وَسَلَّمَ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ اللَّهُ حَيْرَآمًا يُشَرِّكُونَ

wa salaamun 'ala'i ibaadihil lazeen as tafaa; aa'allahu khairun ammmaa yushrikoon(69) (End Juz 19)

منہاج ۲۷ فتحتھ: حروف کو ریتی آزاد کرنا گوار کھانا۔ قلقتھ: سانچے کو پکڑ کر مٹھا۔

مُعْتَدِل: اپنے سارے اوقات کو ایک اور محض سارے دن کی طرح مُعاشر کے طبق کرنا۔

..... عن الف کے بارے میں الف کے بارے میں الف کے بارے میں

أَمَّنْ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً

Amman khalaqas samaawaati wal arda wa anzala lakum minas samaaa'i maaa'an

فَأَنْبَثْنَا بِهِ حَدَّا إِيقَاظَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُنْبِتُوا شَجَرَهَا

fa ambatnaa bihee hadaa'iqa zaata bahjah; maa kanna lakum an tumbito shajarahaa;

عَرَالَهُ مَعَ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ ﴿٦٠﴾ **أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ**

'a-ilaahum ma'al laah; bal hum qawmun ya'diloon(60) Ammann ja'al arda

قَرَارًا وَ جَعَلَ خَلْلَهَا آنْهَرًا وَ جَعَلَ لَهَا رَوَاسِيًّا وَ جَعَلَ بَيْنَ

qaraaranw wa ja'ala khilaalahaa anhaaranw wa ja'ala lahaa rawasiya wa ja'ala baina

الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا عَرَالَهُ مَعَ اللَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٦١﴾

bahraini haajizaa; 'a-ilaahumma'allah; bal aksaruhum la ya'lamoon(61)

أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَ إِذَا دَعَاهُ وَ يَكْسِفُ السُّوَءَ وَ يَجْعَلُكُمْ

Ammany-yujeebul mud tarra izaa da'aahu wa yakshifussooo'a wa yaj'alukum

خُلَفَاءَ الْأَرْضِ عَرَالَهُ مَعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ ﴿٦٢﴾

khula faaa'al ardi 'a-ilaahum ma'al laahi qaleelam maa tazak karoon(62)

أَمَّنْ يَهْدِيْكُمْ فِي ظُلْمِ الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ وَ مَنْ يُرْسِلُ الرِّيحَ

Ammany-yahdeekum fee zulmaatil barri wal bahri wa many yursilu riyaha

بُشْرًا بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ عَرَالَهُ مَعَ اللَّهِ تَعْلَى اللَّهُ عَمَّا

bushram baina yadai rahmatih; 'a-ilaahum ma'al laah; Ta'alal laahu 'ammaa

يُشْرِكُونَ ﴿٦٣﴾ **أَمَّنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهَا وَ مَنْ يَرْزُقُكُمْ**

yushrikoon(63) Ammmany-yabda'u khalqa summa yu'eeduhoo wa many-yarzuqukum

مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ عَرَالَهُ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ

minas sammaaa'i wal ard; 'a-ilaahum ma'allah; qul haatoo burhaanakum

إِنْ كُنْتُمْ صَدِقِينَ ﴿٦٤﴾ **قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ**

in kuntum saadiqeen(64) Qul laa ya'lamu mman fis sammaawaati wal ardin

● نَفَقَتْ: اُونْ هڈھ اور سکھ دیکی ادا اڑا لوکیں الٰہ کے برابر لاما کرتا

● مَنْزِلٌ ۵: نَفَقَتْ: حروف کو پر لئی آئو کو جو رکھتا۔ قَلْقَلْ: سکن حرف کو اکار کرنا۔

● بَلْخَانَ: بَلْخَانَ: اون سکن اور سکھ دیکی ادا اڑا کوئی سکن کے بے (بے) کی آؤ اوناونا قیل، آئی آئی

● بَلْخَانَ: اس سب سے الٰہ کے برابر لاما کر کے پڑھانا اجب ہے

الْغَيْبِ إِلَّا اللَّهُ ۚ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبَعْثُرُونَ ﴿٦٥﴾ بَلْ اُدْرَكَ

ghaiba illal laah; wa maa yash'uroona aiyaana yub'asoon(65) Balid daaraka

عِلْمُهُمْ فِي الْأُخْرَى ۖ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِّنْهَا ۗ بَلْ هُمْ

'ilmuhum fil Aakhirah; bal hum fee shakkim minhaa bal hum

مِنْهَا عَمُونَ ﴿٦٦﴾ وَقَالَ الرَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا إِذَا كُنَّا تُرَبَاً وَابْأُونَا إِنَّا

minhaa 'amoon (section 5) (66) Wa qaadal lazeena kafaroo 'a-izaa kunnaa turaaban wa aabaaa'unaaa a'innaa

لِمُخْرَجِنَ ﴿٦٧﴾ لَقَدْ وَعَدْنَا هَذَا نَحْنُ وَابْأُونَا مِنْ قَبْلِ إِنْ

lamukhrajoon(67) Laqad wu'idnaa haazaa nahnu wa aabaaa'unaa min qablu in

هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴿٦٨﴾ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا

haazaaaa illaaa asaateerul awwaleen(68) Qul seeroo fil ardi fanzurroo

كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ ﴿٦٩﴾ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ

kaifa kaana 'aaqibatul mujremeen(69) Wa laa tahzan 'alaihim wa laa takun

فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَئِسُكُمْ وَنَ ﴿٧٠﴾ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ

fee daiqim mimmaa yamkuroon(70) Wa yaqooloona mataa haazal wa'du in kuntum

صَدِيقِينَ ﴿٧١﴾ قُلْ عَسَى أَنْ يَكُونَ رَدْفَ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي

saadiqueen(71) Qul 'asaaa any-yakoona radifa lakum ba'dul lazee

تَسْتَعْجِلُونَ ﴿٧٢﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ

tasta'jiloon(72) Wa innna Rabbaka lazoo fadlin 'alan naasi wa laakina

أَكْثَرُهُمْ لَا يَشْكُرُونَ ﴿٧٣﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ

aksarahum laa yashkuroon(73) Wa inna Rabbaka la ya'lamu maa tukinnu

صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿٧٤﴾ وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ

sudooruhum wa maa yu'linoon(74) Wa maa min ghaaibatin fis samaa'i

وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ ﴿٧٥﴾ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَقُصُّ عَلَى

wal ardi illaa fee kitaabimm mubeen(75) Inna haazal Qur-aana yaqussu 'ala

منزل ٥ تَقْرِيمُهُ: حروف كوفياتي آندازی کیا کرنا

کوئی زیر ایسا کی آندازی کرنے کی وجہ سے کافی نہیں کر سکتا۔

بِعْدَ: اس سب سے پرانی کتاب کے برادر لام کے پڑھانا اچھا ہے۔

بَنِي إِسْرَائِيلَ أَكْثَرُ الَّذِي هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿٧٦﴾ وَ إِنَّهُ

Banee israaa'eela aksaral lazee hum feehi yakhtalifoon(76) Wa innahoo

لَهُدَىٰ وَ رَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿٧٧﴾ إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ بِإِيمَنَهُمْ

lahudanwa wa rahmatul lilmu'mineen(77) Inna Rabbaka yaqdee bainahum

بِحُكْمِهِ وَ هُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ ﴿٧٨﴾ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّكَ عَلَى

bihukmih; wa Huwal 'Azeezul 'Aleem(78) Fatawakkal 'alal laahi innaka 'alal

الْحَقِّ الْمُبِينِ ﴿٧٩﴾ إِنَّكَ لَا تُسْبِعُ الْمَوْتَ وَ لَا تُسْبِعُ الصَّمَدَ الدُّعَاءَ

haqil mubeen(79) Innaka laa tusmi'ul mawttaa wa laa tusmi'us summad du'aaa

إِذَا وَلَوْا مُدْبِرِينَ ﴿٨٠﴾ وَ مَا أَنْتَ بِهِدَى الْعُنْ عَنْ ضَلَالِهِمْ

izaa wallaw mudibreen(80) Wa maaa anta bihaadil 'umyi 'an dalaalatihim

إِنْ تُسْبِعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِاِيْتَنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ ﴿٨١﴾ وَ إِذَا وَقَعَ

in tusmi'u illaa maiyu'minu bi aayaatinaa fahum muslimoon(81) Wa izaa waqa'al

الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَآبَةً مِنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ لَأَنَّ

qawhu 'alaihim akhrajnaa lahum daabbatam minal ardi tukal limuhum annan

النَّاسَ كَانُوا بِاِيْتَنَا لَا يُوقِنُونَ ﴿٨٢﴾ وَ يَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ

naasa kaanoo bi aayaatinaa laa yooqinoon (section 6) (82) Wa Yawma nahshuru min kulli ummmatin

فَوْجًا مِمَّنْ يُكَذِّبُ بِاِيْتَنَا فَهُمْ يُوَزَّعُونَ ﴿٨٣﴾ حَتَّىٰ إِذَا جَاءُو

fawjam mim many-yukazzibu bi Aayaatinaa fahum yooza'oon(83) Hattaaa izaa jaaa'oo

قَالَ أَكَذَّبْتُمْ بِاِيْتَنِي وَ لَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا أَمَّا ذَا كُنْتُمْ

qaala akazzabtum bi Aayaatee wa lam tuheetoo bihaa 'ilmam ammaazaa kuntum

تَعْبَلُونَ ﴿٨٤﴾ وَ قَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمْوْا فَهُمْ لَا يَنْظَقُونَ

ta'maloon(84)Wa waqa'al qawlu 'alaihim bimaa zalamoo fahum laa yantiqoon(85)

الَّمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا لَيْلَنَا لِيَسْكُنُوا فِيهِ وَ النَّهَارَ مُبِصِّرًا

Alam yaraw annaa ja'alna laila li yaskunoo feehi wannahaara mubsiraa;

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يُتِّلِ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي ﴿٨٦﴾

inna fee zaalika la Aayaatil liqaw miny-yu'minoon(86) Wa Yawma yunfakhu fis

الصُّورُ فَخَرَعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ

Soori fafazi'a man fis samaawaati wa man fil ardi illaa man

شَاءَ اللَّهُ وَكُلُّ أَتَوْهُ دُخَرِيْنَ وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسِبُهَا جَامِدَةً

shaaa'al laah; wa kullun atawhu daakhireen(57) Wa taral jibaala tahaabuhaa jaamidatanw

وَهِيَ تَرْمِمُ السَّحَابِ صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتَقَنَ كُلَّ شَيْءٍ

wa hiya tamurru marras sahaab; sun'al lahil lazee atqana kulla shai';

إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا ﴿٨٨﴾

innahoo khabeerum bimaa taf'aloon(88) Man jaaa'a bilhasanati falahoo khairum minhaa

وَهُمْ مِنْ فَنَاعِ يَوْمِيْدِ امِنُونَ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّثَ ﴿٨٩﴾

wa hum min faza'in Yawma'izin aaminoon(89) Wa man jaaa'a bissai yi'ati fakubbat

وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ هَلْ تُجَزُّونَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٩٠﴾

wujuohuhum fin Naari hal tujzawna illaa maa kuntum ta'maloon(90)

إِنَّا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَذِهِ الْبَلْدَةِ الَّذِي حَرَّمَهَا وَلَهُ

Innamaaa umirtu an a'buda Rabba haazihil baldatil lazee harramahaa wa laahoo

كُلُّ شَيْءٍ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿٩١﴾ وَأَنْ أَتُلُّوا

kullu shai'inw wa umirtu an akoona minal muslimeen(91) Wa an atlutowal

الْقُرْآنَ فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ

Qur-aana famanih tadaa fa innnamaaa yahtadee linafs-ihee wa man dalla

فَقُلْ إِنَّا آنَاءِنَا مِنَ الْمُنْذِرِينَ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيِّرِيْكُمْ أَيْتِهِ ﴿٩٢﴾

faqul innamaaa ana minal munzireen(92) Wa qulil hamdu lillaahi sa yureekum Aayaatihe

فَتَعْرِفُونَهَا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٩٣﴾

fata'r'i foonaahaa; wa maa Rabbuka bighaafil 'ammaa ta'maloon (section 7) (93)

٩
ذُو عَائِثًا٨٨
إِيَّاهَاسُوْدَةُ الْقَصْصِ
مَكْيَةٌ

١٨

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Bismillaahir Rahmaanir Raheem

طَسْمٌ ١ تِلْكَ آيَتُ الْكِتَبِ الْمُبِينِ ٢ نَثْلُوا عَلَيْكَ مِنْ

Taa-Seen-Meeem(1)Tilka Aayaatul Kitaabil mubeen(2)Natloo 'alaika min

نَبِيًّا مُّوسَى وَ فِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ٣ إِنَّ

naba-i Moosaa wa Fir'awna bilhaqqi liqawminyu'miinoon(3)Inna

فِرْعَوْنَ عَلَى الْأَرْضِ وَ جَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضْعِفُ

Fir'awna 'alaa fil ardi wa ja'al alahlaha shiya'ai yastad'ifu

طَاغِيَةً مِنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَ يَسْتَهْجِي نِسَاءَهُمْ طِ إِنَّهُ

taaa'ifatam minhum yuzabbihu abnaaa'ahum wa yastahyee nisaaa'ahum; innahoo

كَانَ مِنِ الْمُفْسِدِينَ ٤ وَ نَرِيدُ أَنْ نُنْهِي عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعَفُوا

kaana minal mufsideen(4)Wa nureedu an namunna 'alal lazeenas tud'ifoo

فِي الْأَرْضِ وَ نَجْعَلُهُمْ أَيْمَةً وَ نَجْعَلُهُمُ الْوَرِثِينَ ٥ وَ

fil ardi wa naj'alhum a'immatanwa naj'alhumul waariseen(5)Wa

نُمْكِنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَ نُرِيَ فِرْعَوْنَ وَ هَامَنَ وَ جُنُودُهُمَا

numakkina lahumm fil ardi wa nuriya Fir'awna wa Haamaana wa junoodahumaa

مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ ٦ وَ أَوْحَيْنَا إِلَيْ أُمِّ مُوسَى أَنْ

minhum maa kaanoo yahzaroona(6)Wa awhainaaa ilaaa ummi Moosaa an

أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَالْقِيَمِ فِي الْيَمِّ وَ لَا تَخَافِ

ard'i'ehi faizaa khifti 'alaihi fa alqeehi filyammi wa laa takhaafee

وَ لَا تَحْزَنِ إِنَّ رَادُوهُ إِلَيْكَ وَ جَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ ٧

wa laa tahzaneee innaa raaaddooohu ilaiki wa jaa'ilohu minal mursaleen(7)

منزل ٥ تَقْرِيمُهُ: حروف کو پڑھنی آئی اور کوہرا رکھنا
 مکروہ: افسوس کا نام اور سماں میں کے بھروسے (ب) ہوئی آؤ اکوچیشم (ت) میں سچا کرچھ حدا
 بخدا: اپنے اس سب سے اکیلہ کے برادر لہا کر کے پڑھا جائے
 مُغَلٰ: ... تمیں الٰہ کے برادر پائی الٰہ کے برادر لہا کر کے پڑھا جائے

فَالْتَّقَطَةُ إِلَى فِرْعَوْنَ لَيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًا وَ حَرَنَا طَ إِنَّ

Faltaqatahooo Aalu Fir'awna li yakoona lahum 'aduwwanw wa hazanaa; inna

فِرْعَوْنَ وَ هَامَنَ وَ جُنُودُهُمَا كَانُوا خَطِئِينَ ﴿٨﴾ وَ قَالَتِ امْرَأٌ

Fir'awna wa Haamaana wa junooda humaa kaanoo khaati'een(8)Wa qaalatim ra atu

فِرْعَوْنَ قَرَّتْ عَيْنِ لِيْ وَ لَكَ طَ لَا تَقْتُلُوهُ طَ عَسَى أَنْ يَعْنَى

Fir'awna qurratu 'aynil lee wa lak; laa taqtulooohu 'asaaa aiyanfa'anaa

أَوْ نَتَخَذَهُ وَلَدًا وَ هُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٩﴾ وَ أَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ

aw nattakhizahoo waladanu wa hum laa yash'uuroon(9)Wa asbaha fu'aadu ummi

مُوسَى فِرِغًا طَ إِنْ كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلَا أَنْ رَبَطْنَا عَلَى

Moosaa faarighan in kaadat latubdee bihee law laaa arrabatnaa 'ala

قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٠﴾ وَ قَالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّيَهُ

qalbihaa litakoono minal mu'mineen(10)Wa qaalat li ukhtihee qusseehi

فَبَصَرَتْ بِهِ عَنْ جُنُبٍ وَ هُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿١١﴾ وَ حَرَّمَنَا عَلَيْهِ

fabasurat bihee 'an junubinw wahum laa yash'uuroon(11)Wa harramnaa 'alaihil

السَّرَّاِضَعَ مِنْ قَبْلٍ فَقَالَتْ هَلْ أَدْلُكُمْ عَلَى أَهْلِ بَيْتٍ

maraadi'a min qablu faqaatalat hal adullukum 'alaaa ahli baitiny

يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَ هُمْ لَهُ نَصِحُونَ ﴿١٢﴾ فَرَدَدَنَهُ إِلَى أُمِّهِ كَيْ

yakfuloonahoo lakum wa hum lahoo naasihoon(12)Faradadnaahu ilaa ummihii kai

تَقَرَّ عَيْنِهَا وَ لَا تَحْرَنَ وَ لِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَ لَكِنَّ

taqarra 'ainuhua wa laa tazhana wa lita'lama anna wa'dal laahi haqqunw wa laakinna

أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٣﴾ وَ لَمَّا بَدَأَ أَشْدَدَهُ وَ اسْتَوَى أَتَيْنَاهُ

aksaruhum laa ya'lamoona (section 1) (13)Wa lammaa balaghha ashuddahoo wastawaaa aatai naahu

حُكْمًا وَ عِلْمًا وَ كَذِيلَكَ نَجِزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿١٤﴾ وَ دَخَلَ

hukman wa 'ilmaa; wa kazaalika najzil muhsineen(14)Wa dakhhal

الْبَدِيْنَةَ عَلَى حِينِ غُفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا

madeenata 'alaa heene ghaflatim min ahlihaa fawajada feeha

رَجُلِينِ يَقْتَلِنِ هَذَا مِنْ شِيْعَتِهِ وَهَذَا مِنْ عَدُوِّهِ فَاسْتَغَاشَهُ

raju laini yaqtatilaani haaza min shee'atihee wa haaza min 'aduwwihee fastaghaasahul

الَّذِي مِنْ شِيْعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ فَوَكَنَهُ مُوسَى

lazee min shee'atihee 'alal lazee min 'aduwwihee fawakazahoo Moosaa

فَقَضَى عَلَيْهِ قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَنِ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُضِلٌّ

faqadaa 'alaihi qaala haaza min 'amalish Shaitaani innahoo 'aduwrum mmudillum

مُبِينٌ ١٥ قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَغَفَرَ لَهُ

mubeen(15)Qaala Rabbi innee zalamtu nafsee faghfir lee faghafaralah;

إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ١٦ قَالَ رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَذْنَ

innahoo Huwal Ghafoorur Raheem(16)Qaala Rabbi bimaaa an'amta 'alaiya falan

اَكُونَ ظَهِيرًا لِلْمُجْرِمِينَ ١٧ فَأَصْبَحَ فِي الْبَدِيْنَةِ خَابِغاً

akoona zaheerat lilmuhrimeen(17)Fa asbaha fil madeenati khaaa'ifany

يَتَرَقَّبُ فَإِذَا الَّذِي اسْتَحْصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَضْرِخُهُ ١٨ قَالَ

yataraqqabu fa izal lajis tansarahoo bil amsi yastasrikhu; qala

لَهُ مُوسَى إِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُبِينٌ ١٩ فَلَمَّا آتَاهُ أَرَادَ أَنْ يَبْطَشَ

lahoo moosaaa innaka laghawiyum mubeen(18)Falammaaa an araada ai yabtisha

بِالَّذِي هُوَ عَدُوٌّ لَهُمَا ٢٠ قَالَ يَمُوسَى أَتْرِيدُ أَنْ تَقْتُلَنِي

billazee huwa 'aduwul lahuma qaaa yaa Moosaaa atureedu an taqtulanee

كَيْا قَاتَلْتَنَفْسًا بِالْأَمْسِ ٢١ إِنْ تُرِيدُ إِلَّا أَنْ تَكُونَ جَبَارًا

kamaa qatalta nafsam bil amsi in tureedu illaaa an takoona jabbaaram

فِي الْأَرْضِ وَ مَا تُرِيدُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْمُصْلِحِينَ ٢٢ وَ

fil ardi wa maa tureedu an takoona minal musliheen(19)Wa

منزل ٥ تَفْسِير: حروف کو پڑھنی آئی تو ایک الف کے برادر لام کرنا
کوئی زیر افسوس کی آنکھیں اور سیم سانگ میں کے دینے (بے ہوئی آنکھیں) اسکی آنکھیں پڑھنے
باخفا: بون سانک اور سیم اسکی آنکھیں کے دینے (بے ہوئی آنکھیں) اسکی آنکھیں پڑھنے
بُخْلٰ۔ ان سب ایک الف کے برادر لام کر کے پڑھنا اجب ہے

جَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَا الْمَدِينَةِ يَسْعَىْ قَالَ يَمُوسَى إِنَّ

jaaa'a rajulum min aqsal madeenati yas'aa qaala yaa Moosaa innal

الْمَلَأَ يَا تَيْرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَاخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ

mala a yaa tamiroona bika liyaqtulooka fakhruj innee laka minan

الْمُصْحِينَ ٢٠ فَخَرَجَ مِنْهَا خَإِفًا يَتَرَقَّبُ قَالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ

naasiheen(20)Fakharaja minhaa khaaa 'ifany-yataraqqab; quala Rabbi najjinee minal

الْقَوْمِ الظَّلِيمِينَ ٢١ وَ لَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَىٰ

qawmiz zaalimeen (section 2) (21)Wa lammaa tawajjaha tilqaa'a Madyana qaala 'asaa

رَبِّيْ أَنْ يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ ٢٢ وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ

Rabbeee ai yahdiyanee Sawaaa's as Sabeel(22)Wa lammaa warada maaa'a Madyana

وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَهُ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمْ

wajada 'alaihi ummatam minannaasi yasqoona wa wajada min doonihimum

أُمَّرَاتِينِ تَذُودِينَ ٢٣ قَالَ مَا حَطَبُكُمَا قَاتَنَا لَا نَسْقِيْ حَتَّىٰ

ra ataini tazoodaanii qaala maa khatubkumaa qaalataa laa nasqee hataa

يُصَدِّرُ الرِّعَاءُ ٢٤ وَأَبُونَا شَيْخُ كَبِيرٍ فَسَقَى لَهُمَا شَمْ تَوَلَّ إِلَيْهِ

yusdirar ri'aaa'u wa aboonaa shaikhun kabeer(23)Fasaqaa lahumaa summa tawallaaa ilaz

الظَّلِيلِ ٢٥ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ

zilli faqala Rabbi innee limaaa anzalta ilaiya min khairin faqeer(24)

فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَهْشِيْ عَلَى اسْتِحْيَاْءِ ٢٦ قَاتَثَ إِنِّي يَدْعُوكَ

Fajaaa'at hu ihdaahumaa tamshee' 'alas tihyaaa'in qaalat inna abee yad'ooka

لِيَجْزِيَكَ أَجْرًا مَا سَقَيْتَ لَنَا ٢٧ فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَ عَلَيْهِ

li yajziyaka ajra maa saqaita lanaa; falammaa jaaa'ahoo wa qassa 'alaihil

الْقَصَصَ ٢٨ لَا تَخَفْ نَجُوتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّلِيمِينَ

qasasa qaala laa takhaf najawta minal qawmiz zaalimeen(25)

قَالَتِ احْدِهِمَا يَأْبَى اسْتَأْجِرُهُ إِنَّ خَيْرًا مِّنْ اسْتَأْجِرَتِ الْقُوَىٰ

Qaalat ihdaahumaa yaaa abatis taajirhu inna khaira manistaajartal qawiyyul

الْأَمِينُ ٢٦ قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى الْبَنَاتِ هُنَّ مِنْ أَهْلِ الْمِنَاءِ

ameen(26)Qaala innee ureedu an unkihaka ihdab nataiya haataini

عَلَىٰ أَنْ تَأْجُرَنِي شَيْئًا حِجَاجٌ فَإِنْ أَتَمْتُ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ

'alaaa an taajuranee samaaniya hijaj; fa in atmamta 'ashran famin 'indika

وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشْتَى عَلَيْكَ سَتَجْدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنْ

wa maaa ureedu an ashuqqaa 'alaik; satajedunee in shaa'a'l laahu minas

الصَّلِحِينَ ٢٧ قَالَ ذُلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ طَائِيْلَةً لَا جَلِيلَةً قَسَيْتُ

saaliheen(27)Qaala zaalika bainee wa bainaka aiyamal ajalaini qadaitu

فَلَا عُدْ وَانْ عَلَىٰ وَاللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكَيْلٌ ٢٨ فَلَمَّا قَضَىٰ مُوسَىٰ

falaah 'udwaana 'alaiya wallaahu 'alaa ma naqoolu Wakeel (section 3) (28)Falammmaa qadaa Moosal

الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ أَنَّسَ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ نَازًا ٢٩ قَالَ

ajala wa saara bi ahlihee aanasa min jaanibit Toori naaran qala

لَا هُلِيهِ أَمْكُثُوا إِنِّي أَنْسُتُ نَازًا لَعَلَىٰ أَتِيكُمْ مِّنْهَا بِخَيْرٍ أَوْ

li ahlilim kusooo innnee aanastu naaral la 'alleee aateekum minhaa bikhabarin aw

جَذُوةٌ مِّنَ النَّارِ لَعَلَّكُمْ تَضَطَّلُونَ ٣٠ فَلَمَّا آتَهَا نُودِيَ مِنْ

jazwatim minan naari la 'allakum tastaloon(29)Falammmaa ataahaa noodiya min

شَاطِئُ الْوَادِ الْأَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْبُلْكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَنِّي

shaati'il waadil aimani fil buq'atil muubaarakati minash shajarati ai

يُمُوسِيٌّ إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ٣١ وَأَنْ أَلْقِي عَصَاكَ طَفَلًا

yaa Moosaa innnee Anal laahu Rabbul 'aalameen(30)Wa an alqi 'asaaka falam maa

رَاهَا تَهْتَرُ كَانَهَا جَانٌ وَلِي مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ طَبَّ يُمُوسِي أَقْبِلَ

ra aahaa tahtazzu ka annnahaa jaaannuw wallaa mudbiranu wa lam yu'aqqib; yaa Moosaa aqbil

● نقاش: اون ہڈہ اور سکھ دیکی ادا اڑاکیں الگ کے بر ایسا کرنا

● بالغ: اون ساکن اور سکھ دیکی ادا اڑاکیں الگ کے بر ایسا کرنا (ب) ہوئی آؤ اوناں پیش، (ب) آئی آپ

● جھیل: اس سب سے الگ کے بر ایسا کر کے پڑھانا اچب ہے

● منزلي ۵ نقاش: حروف کو پڑھنے میں سکھ دیکی ادا اڑاکیں الگ کے بر ایسا کر کے پڑھانا اچب ہے

وَلَا تَخَفُ۝ إِنَّكَ مِنَ الْأَمْنِيْنَ ﴿٣١﴾ أُسْلُكْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ

wa laa takhaf innaka minal aamineen(31)Usluk yadaka fee jaibika

تَخْرُجُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ وَ اضْسِمُ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنْ

takhruj baidaaa'a min ghairi sooo'iw wadmum ilaika janaahaka minar

الرَّهْبُ فَذِنْكَ بُزْهَانِنَ مِنْ رَبِّكَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَ مَلَأَهُ

rahbi fazaanika burhaanaani mir Rabbika ilaa Fir'awna wa mala'ih;

إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَسِيقِيْنَ ﴿٣٢﴾ قَالَ رَبِّ إِنِّي قَاتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا

innahum kaanoo qawman faasiqueen(32)Qaala Rabbi innee qataltu minhum nafsan

فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِي وَ أَخَى هَرُونُ هُوَ أَفْصُحُ مِنِّي لِسَانًا

fa akhaafu ai yaqtuloon(33)Wa akhee Haaroonu huwa afsahu minnee lisaanan

فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدًا يُصَدِّقِنِي إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُونِي

fa arsilhu ma'ya rid ai yusaddiqunee innee akhaafu ai yukazziboon(34)

قَالَ سَنَشِدُ عَضْدَكَ بِأَخِيْكَ وَ نَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا فَلَا

Qaala sanashuddu 'adudaka bi akheeka wa naj'alu lakumaa sultaanan falaa

يَصُلُّونَ إِلَيْكُمَا بِإِيْتِنَا أَتَتْمَى وَ مَنِ اتَّبَعَكُمَا الْغَلِيْبُونَ

yasiloonilaikumaa; bi Aayaatinaa antumaa wa manit taba'akumal ghaaliboon(35)

فَلَمَّا جَاءَهُمْ مُوسَى بِإِيْتِنَا بَيْنَتْ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا سِحْرٌ

Falammaa jaaa'ahum Moosaa bi Aayaatinaa baiyinaatin qaaloo maa haazaaa illaa sihrum

مُفْتَرٌ وَ مَا سِعِنَا بِهَذَا فِي أَبَائِنَا الْأَوَّلِيْنَ وَ قَالَ

muftaranw wa maa sami'naa bihaazaa feee aabaaa'in al awwaleen(36)Wa qaala

مُوسَى رَبِّي أَعْلَمُ بِمَنْ جَاءَ بِالْهُدَى مِنْ عِنْدِهِ وَ مَنْ

Moosaa Rabbee a'alamu biman jaaa'a bilhudaa min 'indihee wa man

تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّلِمُونَ وَ قَالَ

takoonu laahoo aaqibatud daari innahoo laa yuflihu zaalimoon(37)Wa qaala

منزل ٥ تَفْسِيْر: حروف کو پڑھنی آئی تو کوہا رکنا
کوہا رکنا، توں ساکن اور سکونتی اور کوہا رکنا کے معنی حروف کو پڑھنے کے
معنی ہے۔ ان سب سے آپ کو پڑھنے کے معنی حروف کو پڑھنے کے
معنی ہے۔ آپ کے پڑھنے کے معنی حروف کو پڑھنے کے

فِرْعَوْنُ يَا يَهُآ الْمَلَأُ مَا عَلِيْتُ لَكُمْ مِّنْ إِلَهٍ غَيْرِيْهِ فَأَوْقَدْلِيْ

Fir'awnu yaaa aiyuhal mala-u maa 'alimtu lakum min ilaha hin ghairee fa awqid lee

يَهَامِنْ عَلَى الطَّيْنِ فَاجْعَلْ لِي صَرَحًا لَعَلَّ أَطْبَعَ إِلَيْ

yaa Haamaanu 'alatteeni faj'al lee sarhal la'allee attali'u ilaaa

إِلَهٌ مُوسَى وَإِنِّي لَأَظْنَهُ مِنَ الْكُذَبِينَ ﴿٣٨﴾ وَاسْتَكْبَرَ هُوَ

ilaahi Moosaa wa innee la azunnahoo minal kaazibeen(38)Wastakbara huwa

وَجُنُودُهَا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَظَنَّوْا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا

wa junooduhoo fil ardi bighairil haqqi wa zannoo annahum ilainaa

لَا يُرْجَعُونَ ﴿٣٩﴾ فَآخَذْنَاهُ وَجُنُودَهَا فَنَبَذَنَهُمْ فِي الْيَمِّ فَانْظُرْ

لَا يُرْجَعُونَ ﴿٣٩﴾ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّلَمِينَ ﴿٤٠﴾ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى

kaifa kaana 'aaqibatuz zaalimeen(40)Wa ja'alnaahum a'immatayn yad'oona ilan

النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ لَا يُنْصَرُونَ ﴿٤١﴾ وَاتَّبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ

Naari wa Yawmal Qiyaamati laa yunsaroon(41)Wa atba'naahum fee haazihid

الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوْحِينَ ﴿٤٢﴾

dunyaa la'natanw wa Yawmal Qiyaamati hum minal maqboheen (section 4) (42)

وَلَقَدْ أَتَيْنَا مُوسَى الْكِتَبَ مِنْ بَعْدِ مَا آهَلْنَا الْقُرْآنَ

Wa laqad aatainaa Moosal Kitaaba mim ba'di maaa ahlaknal quroonal

الْأُولَى بِصَاحِرٍ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٤٣﴾

oolaa basaaa'ira linnaasi wa hudanw wa rahmatal la'allahum yata zakkaroon(43)

وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى الْأُمْرَ

Wa maa kunta bijaanibil gharbiyyi iz qadainaaa ilaa Moosal amra

وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّهِيدِينَ ﴿٤٤﴾ وَلَكِنَّا أَشَانَا قُرْآنًا فَتَطَوَّلَ

wa maa kunta minash shaahideen(44)Wa laakinnaa anshaanaaa quroonan fatataawala

عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ وَمَا كُنْتَ شَاوِيَا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَتَلَوَّ

'alaihimul 'umur; wa maa kunta saawiyaa fee ahli Madyana tatloo

عَلَيْهِمُ أَيْتَنَا وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ ٤٥ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ

'alaihim Aayaatinaa wa laakinnaa kunnaa mursileen(45)Wa maa kunta bijaanibit

الْطُورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِنْ رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا

Toori iz naadainaa wa laakir rahmatam mir Rabbika litunzira qawmam

مَآ أَتَتْهُمْ مِنْ نَذِيرٍ مِنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ٤٦

maaa ataahum min nazeerim min qablika la'allahum yatazakkaroon(46)

وَلَوْلَا أَنْ تُصِيبَهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمُتُ أَيُّدِيهِمْ فَيَقُولُوا

Wa law laaa an tuseebahum museebatum bimaa qaddamat aideehim fa yaqooloo

رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولاً فَنَتَبِعَ اِيْتَكَ وَنَكُونُ مِنَ

Rabbanaa law laaa arsalta ilainaa Rasoolan fanattabi'a Aayaatika wa nakoona minal

الْمُؤْمِنِينَ ٤٧ فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا لَوْلَا

mu'mineen(47)Falammaa jaaa'ahumul haqqu min 'indinaa qaalo law laa

أُوتِيَ مِثْلَ مَا أُوتِيَ مُوسَىٰ طَأْوَلَمْ يَكُفُّ وَا بِمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ

ootiya misla maaa ootiyaa Moosaa; awalam yakfuroo bimaaa ootiya Moosaa

مِنْ قَبْلٍ ٤٨ قَالُوا سِحْرٌ تَظَهَرَ ٤٩ وَ قَالُوا إِنَّا بِكُلِّ

min qablu qaalo sihraani tazaaharaa wa qaalo innaa bikullin

كُفُّونَ ٤٨ قُلْ فَاٰتُوا بِكِتَبِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ هُوَ أَهْدِي مِنْهُمَا

kaafiroon(48)Qul faatoo bi Kitaabim min 'indil laahi huwa ahdaa minhu maaa

أَتَتِعْهُ إِنْ كُنْتُمْ صَدِيقِينَ ٤٩ فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيْبُوا لَكَ فَاعْلَمْ

attabi'hu in kuntum saadiqeen(49)Fa il lam yastajeeboo laka fa'lam

أَنَّا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ طَ وَمَنْ أَضَلُّ مِنْ أَتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ

annamaa yattabi'oona ahwaaa'ahum; wa man adallu mimmanit taba'a hawaahu bighari

هُدًى مِنَ اللَّهِ ۖ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّلِيلِينَ ۚ وَلَقَدْ

hudam minal laah; innal laaha laa yahdil qawmaz zaalimeen (section 5) (50)Wa laqad

وَصَلَنَا لَهُمُ الْقَوْلَ عَلَلَهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ۖ الَّذِينَ أَتَيْنَاهُمْ

wassalnaa lahumul qawla la'allahum yatazakkaroon(51)Allazeena aatainaahu mul

الْكِتَبَ مِنْ قَبْلِهِ هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ ۖ وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَاتِلُوا

Kitaaba min qablihee hum bihee yu'minoon(52)Wa izaa yuthlaa 'alaihim qaaloo

أَمَّا نَبِهَ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ ۚ

aamanna biheee innahul haqqu mir rabbinaaa innaa min qablihee muslimeen(53)

أُولَئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَتِينِ بِمَا صَبَرُوا وَيَدْرُغُونَ بِالْحَسَنَةِ

Ulaaa'ika yu'tawna ajrahum marratayni bimaa sabaroo wa yadra'ona bil hasanatis

السَّيِّئَةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ۖ وَإِذَا سِعُوا لِلنَّعْوَاءِ أَعْرَضُوا

saiyi'ata wa mimmaa razzaq naahum yunfiqoon(54)Wa izaa sami'u'l laghwa a'radoo

عَنْهُ وَقَاتُلُوا لَنَا أَعْمَالَنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَّمُ عَلَيْكُمْ

'anhu wa qaaloo lanaaa a'maalunaa wa lakum a'malukum salaamun 'alaikum

لَا نَبْتَغِي الْجَهَلِينَ ۖ إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ

laa nabtaghil jaahileen(55)Innaka laa tahdee man ahbata wa laakinna

اللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ۖ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ۖ وَقَاتُلُوا

laaha yahdee mai yashaa'; wa Huwaa'lamu bilmuhtadeen(56)Wa qaaloo

إِنْ تَتَّبِعِ الْهُدَىٰ مَعَكَ نُتَخَّلِّفُ مِنْ أَرْضَنَاٰ ۖ أَوْ لَمْ نُتَكَّنْ

in nattabi'il hudaa ma'aka nutakhattaf min ardinaa; awalam numakkil

لَهُمْ حَرَمًا مَا أَمْنَا يُجَبِّي إِلَيْهِ شَرَاثُ كُلِّ شَيْءٍ رِزْقًا مِنْ لَدُنَّا

lahum haraman aaminany yujbaaa ilaihi samaraatu kulli shai'r rizqam mil ladunnaa

وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۖ وَكُمْ أَهْلَكُنَا مِنْ قَرَيْةٍ بَطَرَثُ

wa laakinna aksaruhum laa ya'lamoone(57)Wa kam ahlaknaa min qaryatiim batirat

مَعِيشَتَهَا فَتَلَكَ مَسِكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا

ma'eeshataaha fatilka masaa'inuhum lam tuskam mim ba'dihim illaa

قَلِيلًا وَكُنَّا نَحْنُ الْوَرِثُونَ ٥٨ وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرْبَى

qaleelaa; wa kunnaa Nahnu waariseen(58)Wa maa kaana Rabbuka muhlikal quraa

حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمَّهَا رَسُولًا يَتَلَوُ عَلَيْهِمْ أَيْتَنَا وَمَا كُنَّا

hattaa yab'asa fee ummihaa Rasoolany yatloo 'alaikhim aayaatina; wa maa kunnaa

مُهْلِكِي الْقُرْبَى إِلَّا وَأَهْلُهَا طَلِيمُونَ ٥٩ وَمَا أُوتِيتُمْ مِنْ

muhlikil quraaa illaa wa ahluhaa zaalimoon(59)Wa maaa ooteetum min

شَيْءٌ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ

shai'in famataa'u'l hayaatid dunyaa wa zeenatuhaa; wa maa 'indal laahi khairunw

وَآبَقِيٌّ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ٦٠ أَفَمَنْ وَعَدْنَهُ وَعْدَنَا حَسَنًا فَهُوَ

wa abqaa; afalaa ta'qiloon (section 6) (60)Afamanw wa'adnaahu wa'dan hasanan fahuwa

لَا قِيهِيَّ كَمْ مَتَعْنَهُ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ هُوَ يَوْمُ الْقِيَمَةِ

Iaaqeehi kamam matta'naahu mata'a'al hayaatid dunyaa summa huwa Yawmal Qiyaamati

مِنَ الْمُحْسَنِينَ ٦١ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَاءِي

minal muhdareen(61)Wa Yawma yunaadeehim fa-yaqoolu aina shurakaaa 'iyal

الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ٦٢ قَالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ رَبَّنَا

lazeena kuntum taz'umoon(62)Qaalalazeena haqqa 'alaikhimul qawlu Rabbanaa

هُوَلَاءِ الَّذِينَ أَغْوَيْنَا أَغْوَيْنَاهُمْ كَمَا غَوَيْنَا تَبَرَّأَنَا إِلَيْكَ دُ

haaa'ulaaa'ilazeena aghwainaah kamaa ghwainaah tabarraanaaa ilaaika

مَا كَانُوا إِيَّانَا يَعْبُدُونَ ٦٣ وَقَيْلَ اذْعُوا شُرَكَاءَكُمْ فَدَعَوْهُمْ

maa kaanoo iyyaanaa ya'budoon(63)Wa qeelaad 'oo shurakaaa'akum fada'awhum

فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَرَأُوا الْعَذَابَ لَوْأَنَّهُمْ كَانُوا يَهْتَدُونَ ٦٤

falam yastajeeboo lahumm wa ra awlu 'azaab; law annahum kaanoo yahtadoon(67)

وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ ﴿٦٥﴾ فَعَيْتُ

Wa Yawma yunaadeehim fa yaqoolu maazaaa ajabtumul mursaleen(65)Fa'amiyat

عَلَيْهِمُ الْأَنْبَاءُ يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ ﴿٦٦﴾ فَأَمَّا مَنْ تَابَ

'alaihimul ambaaa'u Yawma'izin fahum laa yatasaaa'aloon(66)Fa ammaa man taaba

وَأَمَّنَ وَعِيلَ صَارِحًا فَعَسَى أَنْ يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ ﴿٦٧﴾

wa aamana wa 'amila saalihan fa'asaaa ai yakoona minal mufliheen(67)

وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخَيْرَةُ طَسْبِحْنَ

Wa Rabbuka yakhluqu maa yashaa'u wa yakhtaar; maa kaana lahumul khiyarah; Subhannal

الله وَتَعْلَى عَمَّا يُشَرِّكُونَ ﴿٦٨﴾ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تَكْنُ صُدُورُهُمْ

laahi wa Ta'alaa 'ammmaa yushrikoon(68)Wa Rabbuka ya'lamu maa tukinnu sudooruhum

وَمَا يُعْلِمُونَ ﴿٦٩﴾ وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى

wa maa yu'linoon(69)Wa Huwal laahu laaa ilaha illaa Huwa lahul hamdu fil oolaa

وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٧٠﴾ قُلْ أَرَعِيْتُمْ إِنْ

wal Aakhirati wa lahul hukmu wa ilaihi turja'oون(70)Qul ara'aитum in

جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الَّيْلَ سَمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ مَنْ

ja'alal laahu 'alaikumul laila sarmadan ilaa Yawmil Qiyaamati man

إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَا أَتَيْكُمْ بِضَيَّاعٍ طَافِلَاتٍ سُبْعَوْنَ ﴿٧١﴾ قُلْ أَرَعِيْتُمْ

ilaahun ghairul laahi yaa teekum bidiyaa'in afalaa tasma'oون(71)Qul ara'aитum

إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ مَنْ

in ja'alal laahu 'alaikumun nahaara sarmadan ilaa Yawmil Qiyaamati man

إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَا أَتَيْكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ طَافِلَاتٍ تُبَصِّرُونَ ﴿٧٢﴾

ilaahun ghairul laahi yaateekum bilailin taskunoona feehi afalaa tubsiroon(72)

وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ

Wa mir rahmatihee ja'ala lakumul laila wannahaara litaskunoo feehi

وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٧٣﴾ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ

wa litabtaghoo min fadlihee wa la'allakum tashkuroon(73)Wa Yawma yunaadeehim

فَيَقُولُ أَيْنَ شَرَكَاءِ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ﴿٧٤﴾ وَنَرَعْنَا

fa yaqoolu aina shurakaa'iyal lazeena kuntum tazz'umoon(74)Wa naza'naa

مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ

min kulli ummatin shaheedan faqulnaa haatoo burhaanakum fa'alimoo annal haqqa

بِلِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿٧٥﴾ إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ

lillaahi wa dalla 'anhuma maa kaanoo yaftaroon (section 7) (75)Inna Qaaroona kaana min

قَوْمٍ مُؤْسَى فَبَغَى عَلَيْهِمْ وَأَتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ

qawmi Moosaa fabaghaaa 'alaihim wa aatainaahu minal kunoozi maaa inna

مَفَاتِحَهُ لَتَنُو أُبِالْعُصْبَةِ أُولَى الْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ

mafaati hahoo latanooo'u bil'usbatil ulil quwwati iz qaaila lahoo qawmu hoo

لَا تَفْرُخْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِجِينَ ﴿٧٦﴾ وَابْتَغِ فِيهَا أُثْنَ

laa tafrakh innal laahaa laa yuhibbul fariheen(76)Wabtaghi feemaa aataakal

الَّهُ الدَّارُ الْآخِرَةُ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ

laahud Daaral Aakhirata wa laa tansa naseebaka minad dunyaa wa ahsin

كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ

kamaa ahsanal laahu ilaika wa laa tabghil fasaada fil ardi innal

الَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿٧٧﴾ قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ

laaha laa yuhibbul mufsideen(77)Qaala innamaaa ootee tuhoo 'alaa 'ilm

عِنْدِي طَ أَوْ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ مِنْ

'indeee; awlam ya'lam annal laaha qad ahlaka min qablihee minal

الْقُرْوَنِ مَنْ هُوَ أَشَدُ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكْثَرُ جَمِيعًا وَلَا يُسْئَلُ

qurooni man huwa ashaddu minhu quwwatanwa wa aksaru jam'aa; wa laa yus'alu

عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ ﴿٧٨﴾ فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ

'an zunoobihimul mujrimoon(78)Fakharaja 'alaa qawmihee fee zeenatih;

قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا يُلَيِّثُ لَنَا مِثْلَ مَا

qaalal lazeena yureedoonal hayaatad dunyaa yaalaita lanaa misla maaa

أُوتِيَ قَارُونُ لَذُو حَظٍ عَظِيمٍ ﴿٧٩﴾ وَقَالَ الَّذِينَ

ootiya Qaaroomu innahoo lazoo hazzin 'azeem(79)Wa qaalal lazeena

أُوتُوا الْعِلْمَ وَيُلَكِّمُ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِّمَنْ أَمَّنَ وَعَمِلَ

ootul 'ilma wailakum sawaabul laahi khairul liman aamana wa 'amila

صَالِحًاٌ وَلَا يُدْقِهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ ﴿٨٠﴾ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ

saalihaa; wa laa yulaq qaahaaa illas saabiroon(80)Fakhasafnaa bihee wa bidaarihil

الْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِعْلَةٍ يَنْصُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ

arda famaa kaana laho min fi'atiny yansuroo nahoo min doonil laahi

وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ ﴿٨١﴾ وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنُوا مَكَانَةً

wa maa kaana minal muntasireen(81)Wa asbahal lazeena tamannaw makaanahoo

بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيَكَانُ اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ

bil amsi yaqooloona waika annal laaha yabsutur rizqa limany ya shaa'a'u

مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَوْلَا أَنْ مَنْ مِنَ اللَّهِ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا

min 'ibaadihee wa yaqdiru law laaa am mannal laahu 'alainaa lakahsafa binaa

وَيَكَانَهُ لَا يُفْلِحُ الْكُفَّارُ ﴿٨٢﴾ تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا

waika annahoo laa yuflihul kaafiroon (section 8) (82)Tilkad Daarul Aakhiratu naj'aluhaa

لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ

lillazeena laa yureedoona 'uluwan fil ardi wa laa fasaadaa; wal 'aaqibatu

لِلْمُتَّقِينَ ﴿٨٣﴾ مَنْ جَاءَ بِالْحُسْنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا وَمَنْ جَاءَ

lilmuttaqeen(83)Man jaaa'a bilhasanati falahoo khairum minhaha wa man jaaa'a

بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى الَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ إِلَّا مَا كَانُوا

bissaiyi'atti falaa yujzal lazeena 'amilus saiyyiaati illaa maa kaanoo

يَعْمَلُونَ ﴿٨٣﴾ **إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَأْدُكَ إِلَى**

ya'maloon(84)Innal azee farada 'alaikal Qur-aana laraaadduka ilaa

مَعَادٍ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ مَنْ جَاءَ بِالْهُدَىٰ وَمَنْ هُوَ فِيٌ

ma'aad; qur Rabbeee a'lamu man jjaaa'a bil huda wa man huwa fee

ضَلَلٌ مُّبِينٌ ﴿٨٤﴾ **وَمَا كُنْتَ تَرْجُوا أَنْ يُلْقَى إِلَيْكَ الْكِتَبُ**

dalaalim mubeen(85)Wa maa kunta tarjoo ai yulqaaa ilaikal Kitaabu

إِلَّا رَحْمَةً مِّنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ ظَاهِيرًا لِّلْكُفَّارِينَ

illaa rahmatam mir Rabbika falaa takoonanna zaheerat lilkaafireen(86)

وَلَا يَصُدُّنَّكَ عَنِ اِيَّتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أَنْزَلْتَ إِلَيْكَ وَادْعُ

Wa laa yasuddunnaka 'an Aayaatil laahi ba'da iz unzilat ilaika wad'u

إِلَيْكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿٨٧﴾ **وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ**

ilaa Rabbika wa laa takoonanna minal mushrikeen(87)Wa laa tad'u ma'al laahi

إِلَهًا أَخْرَىٰ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ

ilaahan aakhir; laaa ilaaha illa Hoo; kullo shai'in haalikun illaa Wajhah;

لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٨٨﴾

lahul hukmu wa ilaihi turja'aon (section 9) (88)

رَبُّنَا شَاهِي
۲۹

إِيَّاهُمْ
۲۹

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سُورَةُ الْعَنكَبُوتِ
۲۹
مَكِيَّةٌ

Bismillaahir Rahmaanir Raheem

الْۚ أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتَرْكُوا أَنْ يَقُولُوا أَمَنَّا وَهُمْ

Alif-Laaam-Meeem(1)Ahasiban naasu any yutrakooo any yaqoolooo aamannaa wa hum

لَا يُفْتَنُونَ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ

la yuftanoon(2)Wa laqad fatannal lazeena min qablihim fala ya'lammannal

منزل ۵ تَقْرِيم: حروف کو پڑھنی آؤکھی رکھنا
کوئی خدا، نون ساکن اور سکون اور سکم ساکن ہیں کے بعد (ب) ہوئی آؤکھی شہم (ت) میں پچھا کرچھ خدا
بُخْلٰ۔ ان سب ایک الٰہ کے برادر ہیں کہ برادر لام کے پڑھانا اچھا ہے
مُغْلٰ۔ تمیں الٰہ کے برادر پائیں الٰہ کے برادر لام کے پڑھانا اچھا ہے

اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَ لَيَعْلَمَنَ الْكُفَّارُ أَمْ حَسِيبَ

laahul lazeena sadaqoo wa la ya'lamannal kaazibeen(3)Am hasibal

الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَنْ يَسْبِقُونَا طَ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ

lazeena ya'mloonas sayyaati any yasbiqoonaa; saaa'a maa yahkumoon(4)

مَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَا تِطْ وَهُوَ

Man kaana yarjoo liqaaa 'allaahi fa inna ajalal laahi laaat; wa Huwass

السَّيِّئُ الْعَلِيمُ وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ

Sameeul 'Aleem(5)Wa man jaahada fainnmaamaa yujaahidu linafsih;

إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌ عَنِ الْعَلَمِيْنَ وَ الَّذِينَ امْنُوا وَ عَمِلُوا

innal laaha laghaniyyun 'anil 'aalameen(6)Wallazeena aamanoo wa 'amilus

الصِّلْحَتِ لَنُكَفِّرُنَّ عَنْهُمْ سَيِّاتِهِمْ وَ لَنَجْزِيَنَّهُمْ أَخْسَانَ

saalihaati lanukaf firanna 'anhuma saiyaatihim wa lanajziyannahum ahsanal

الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ وَ وَصَيْنَا إِلَّا نَسَانَ بِوَالَّدِيهِ

lazee kaanoo ya'mloon(7)Wa wassaina insaana biwaalidaihi

حُسْنَا طَ وَإِنْ جَاهَدُكَ لِتُشْرِكَ بِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ

husnanwa wa in jaahadaaka litushrika bee maa laisa laka bihee 'ilmun

فَلَا تُطْعِهُمَا إِلَى مَرْجِعِكُمْ فَإِنَّكُمْ تَعْمَلُونَ

falaa tuti'humaa; ilaiya marji'ukum fa unabbi'ukum bimaa kuntum ta'mloon(8)

وَ الَّذِينَ امْنُوا وَ عَمِلُوا الصِّلْحَتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّلِحِينَ

Wallazeena aamanoo wa 'amilus saalihaati lanudkhilan nahum fis saaliheen(9)

وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ أَمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ

Wa minan naasi many yaqoolu aamanna billaahi faizaaa ooziya fil laahi ja'alaa

فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ وَلَمَنْ جَاءَ نَصَّا مِنْ دَيْكَ

fitnatan naasi ka'azaabil laahi wa la'in jaaa'a nasrum mir Rabbika

مِنْزَلٌ ۵ تَقْتِيقُهُ: حروف کو پڑیں ایک آڈیو لیپ الف کے برادر لہما کرنا

بِالْخَلْقِ: بُون ساکن اور سکون میں کے برادر (بیوی) کی آؤ تو خوش (تک) میں سچا کچھ حدا

بِعَذَابِ: اس سب سے ایک الف کے برادر لہما کے پڑھانا اجب ہے

لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعْلُومٌ أَوْ لَيَسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِهَا فِي صُدُورِ

la yaqoolunna innaa kunnaa ma'akum; awa laisal laahu bi'a'lama bimaa fee sudooril

الْعَلَمِينَ ۖ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ ۚ

'aalameen(10)Wa la ya'lammal laahul lazeena aamanoo wa la ya'lammal munaafeeqeen(11)

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلَنَحْمِلْ

Wa qaalal lazeena kafaroo lillazeena aamanut tabi'oo sabeeelanaa walnahmil

خَطِيمُكُمْ وَ مَا هُمْ بِحَمِيلِينَ مِنْ خَطِيمِهِمْ مِنْ شَيْءٍ إِنَّهُمْ

khataayaakum wa maa hum bihaamileena min khataa yaahum min shai'in innahum

لَكَذِبُونَ ۖ وَ لَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَ أَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ وَ

lakaaziboon(12)Wa la yahmilunna asqaa lahum wa asqaalam ma'a asqaalihim wa

لَيُسْكُلُنَّ يَوْمَ الْقِيَمَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ ۖ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا

la yus'alunna Yawmal Qiyaamati 'ammaa kaanoo yaftaroon (section 1) (13)Wa laqad arsalnaa Noohan

إِلَى قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا ۖ فَأَخْذَهُمْ

ilaa qawmihee falabisa feehim alfa sanatin illaa khamseena 'aman fa akhazahumut

الْطُوفَانُ وَهُمْ ظَلِمُونَ ۖ فَانْجَيْنَاهُ وَأَصْبَحَ السَّفِينَةُ وَ

toofaanu wa hum zaalimoon(14)Fa anjainaahu wa as haabas safeenati wa

جَعَلْنَاهَا أَيَةً لِلْعَلَمِينَ ۖ وَابْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا

ja'alnaahaaa Aayatal lil'alameen(15)Wa Ibraheema iz qala liqawmihi' budul

الَّهُ وَاتَّقُوهُ ۖ ذَلِكُمْ خَيْرُكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۖ إِنَّا تَعْبُدُونَ

laaha wattaqoohu zaalikum khayrul lakum in kuntum ta'lamoona(16) Innamaa ta'budoona

مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْ شَانَا ۖ وَ تَخْلُقُونَ إِفْكًا إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ

min doonil laahi awsaananw-wa takhluqoona ifkaa; innal lazeena ta'budoona

مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ

min doonil laahi laa yamlikoona lakum rizqan fabtaghoo 'indal laahir rizqa

منزل ۵۔ تفہیم: حروف کو پڑھنے کی اور کوہارکنا

کوہارکنا، قافلہ، سکن، حرف کو پڑھنے کی اور کوہارکنا

کوہارکنا، ایک اور حرف کو پڑھنے کی اور کوہارکنا

کوہارکنا، ایک اور حرف کو پڑھنے کی اور کوہارکنا

کوہارکنا، ایک اور حرف کو پڑھنے کی اور کوہارکنا

وَاعْبُدُوهُ كَوَاسْكُمْ وَاللهُ طِيلِهِ تُرْجَعُونَ ﴿١٧﴾ وَإِنْ تُكَذِّبُوْا فَقَدْ

Wa'budoohu washkuroo lahoo ilaihi turja'oon(17)Wa in tukazziboo faqad

كَذَّبَ أُمَّمٌ مِّنْ قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا ابْلَغَ الْمُبَيِّنِ ﴿١٨﴾

kazzaba umamum min qablikum wa maa'al Rasooli illal balaaghul mubeen(18)

أَوْلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبَدِّيُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعَيِّدُهُ طِيلِهِ ذِلْكَ عَلَىٰ

Awa lam yaraw kaifa yubdi'ul laahul khalqa summa yu'eeduh; inna zaalika 'alal

الَّهُ يَسِيرُ ﴿١٩﴾ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقُ

laahi yaseer(19)Qul seeroo fil ardi fanzuroo kaifa baa al khalqa

ثُمَّ اللَّهُ يُنْشِئُ النَّشَاةَ الْآخِرَةَ طِيلِهِ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٠﴾

summal laahu yunshi'un nash atal Aakhirah; innal laaha 'alaa kulli shai'in Qadeer(20)

يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَيَرْحَمُ مَنْ يَشَاءُ وَإِلَيْهِ تُقْلِبُونَ ﴿٢١﴾

Yu'azzibu many yashaa'u wa yarhamu many yashaa'; wa ilaihi tuqlaboon(21)

وَمَا أَنْتُمْ بِسْعَجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَمَا لَكُمْ

Wa maaa antum bimuu'jizeena fil ardi wa laa fissamaa'i wa maa lakum

مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿٢٢﴾ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِاِيمَانِ

min doonil laahi minw waliyyin wa laa naseer (section 2) (22)Wallazeena kafaroo bi Aayaatil

الَّهِ وَلِقَاءَهُ أُولَئِكَ يَسِّرُوا مِنْ رَحْمَتِي وَأُولَئِكَ لَهُمْ

laahi wa liqaa'ihee ulaaa'ika ya'isoo mir rahmatee wa ulaaa'ika lahum

عَذَابُ أَلِيْمٍ ﴿٢٣﴾ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَقْتُلُوهُ

'azaabun aleem(23)Famaa kaana jawaaba qawmihee illaaa an qaaluqtulooohu

أَوْ حَرَقُوهُ فَأَنْجَهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ طِيلِهِ فِي ذِلْكَ لَأْيَتِ لِقَوْمِ

aw harriqoohu faanajaahul laahu minan naar; inna fee zaalika la Aayaatil laqawmin

يُؤْمِنُونَ ﴿٢٤﴾ وَقَالَ إِنَّمَا أَتَتَّخَذُ تُمُّ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْ شَانًا مَوَدَّةً

yu'minoon(24)Wa qaala innamat takhaz tum min doonil laahi awsaanam mawaddata

بَيْنِكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ **يَوْمَ الْقِيَمةِ يَكُفَّرُ بَعْضُكُمْ**

bainikum fil hayaatid dunyaa summa Yawmal Qiyaamati yakfuru ba'dukum

بِعَضٍ وَ يَلْعُنُ بَعْضَكُمْ بَعْضًا وَ مَاوْلَكُمُ النَّارُ وَ مَا

biba'dinw wa yal'anu ba'dukum ba'danw wa maa waakumun Naaru wa maa

لَكُمْ مِنْ نِصَارَىٰ إِنِّي مُهَاجِرٌ
فَامْنَأْنِي لَهُ لُوطٌ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ

lakum min naasireen(25)Fa aamana lahoo Loot; wa qaala innee mauhajirun

إِلَيْنَا رَبُّنَا إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ٢٢ وَوَهَبَنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَ

ilaa Rabbee innahoo Huwal 'Azeezul Hakeem(26)Wa wahabnaa lahoo Ishaqa wa

يَعْقُوبَ وَ جَعْلَنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَ الْكِتَابَ وَ اتَّيَنَاهُ

Ya'Qooba wa ja'alnaa fee surriyyatihin Nubuwwata wal Kitaaba wa aatainaahu

أَجْرَاهُ فِي الدُّنْيَا وَ إِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لِمَنِ الصَّلِحُونَ

ajrahoo fid dunyaa wa innahoo fil aakhirati laminas saaliheen(27)

وَ لُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا

Wa Lootan iz qaala liqawmiheee innakum laatoonal faahishata maa

سَبَقُكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعُلَمَاءِ ﴿٢٨﴾ أَئِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ

sabaqakum bihaa min ahadim minal 'aalameen(28)A'innakum lataatoonar

الرِّجَالَ وَ تَقْطُعُونَ السَّبِيلَ لَا وَ تَأْتُونَ فِي نَادِيكُمْ

rijala wa taqta'oonas sabeeла wa taatoona fee naadekumul

الْمُنْكَرُ فِيمَا كَانَ جَوَابُ قَوْمٍ إِلَّا أَنْ قَالُوا ائْتِنَا

munkara famaa kaana jawaaba qawmiheee illaaa an qaalu' tinaaa

بِعَذَابِ اللَّهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّدِيقِينَ ۝ قَالَ رَبِّ

bi'rāzaabil laahi in kunta minas saadiqeen(29)Qaalaa Rabbin

الْحُصُنِي عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ وَلَهَا جَاءَتْ رُسْلَنَا

surnee 'alal qawmil-mufsideen (*section 3*) (30)Wa lammaa jaaa'at Rusulunaaa

إِبْرَاهِيمَ بِالْبَشَّارِيِّ قَالُوا إِنَّا مُهِلُّكُوا أَهْلُ هَذِهِ الْقَرْيَةِ

Ibraaheema bil bushraa qaalooo innaa muhlikoo ahli haazihil qaryati

إِنَّ أَهْلَهَا كَانُوا ظَلِيلِينَ قَالَ إِنَّ فِيهَا لُؤْطًا ۖ قَالُوا

inna ahlahaa kaanoo zaalimeen(31)Qaala inna feeha Lootaa; qaaloo

نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا فِيهَا لَنْجِيَّةَ وَ أَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَةٌ

nahnu a'lamu biman feehaa lanuna jijiyanahoo wa ahlahoo illam ra atahoo

كَانَتْ مِنَ الْغَبَرِيْنَ ٢٣ وَلَمَّا آتَى جَاءَتْ سُلْنَا لُوطًا سِيَّعَةً

kaanat minal ghaabireen(32)Wa lammaaa an jaaa'at Rusulunaa Lootan seee'a

بِهِمْ وَ ضَاقَ بِهِمْ ذُرْعَا وَ قَالُوا لَا تَخْفُ وَ لَا تَحْنَنْ

bihim wa daaqa bihim zar'anw wa qaaloo laa takhaf wa laa tahzan

إِنَّا مُنْتَجُوكُ وَأَهْلِكُ إِلَّا امْرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ الْغَيْرِينَ

innaa munajjooka wa ahlaka illam ra ataka kaanat minal ghaabireen(33)

إِنَّا مُنْزَلُونَ عَلَىٰ أَهْلِ هَذِهِ الْقُرْيَةِ رِجَزًا مِّنَ السَّمَاءِ

Innaa munziloona 'alaaa ahli haazihil qaryati rijzam minas samaaa'i

بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴿٢٣﴾ وَلَقَدْ تَرَكَنَا مِنْهَا آيَةً بَيْنَهَا لِقَوْمٌ

bimaa kaanoo yafsuqoon(34)Wa laqat taraknaa min haaa aayatam baiyinatal liqawminy

يَعْقُلُونَ ٢٥ وَإِلَى مَدِينَ أَخَاهُمْ شَعِيبًا لَّفَقَالَ يَقُومُهُمْ أَعْبُدُوا

ya'qiloona(35)Wa ilaa Madyana akhaahum Shu'ayban faqaala yaa qawmi'-budul

اللهُ وَأَرْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ وَلَا تَعْشُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

laaha warjul yawmal aakhira wa laa ta'saw fil ardi mufsideen(36)

فَكَذَّبُوهُ فَاخْدَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَثِيْمِ

Fakazzaboohu fa akhazat humur rajfatu fa asbahoo fee daarihim jaasimeen(37)

وَعَاداً وَشُوّدَا وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُمْ مِنْ مَسِكِنِهِمْ وَرَيْنَ لَهُمْ

Wa 'Aadanw wa Samooda wa qat tabaiyana lakum mim masaakinihim wa zaiyana lahumush

الشَّيْطَنُ أَعْيَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَكَانُوا مُسْتَبِّصِينَ ﴿٣٨﴾

Shaitaanu a'maaluhum fasaddahum 'anis sabeeeli wa kaanoo mustabsireen(38)

وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَنَّ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مُوسَى بِالْبُيْنَتِ

Wa Qaaroona wa Fir'awna wa haamaana wa laqad jaaa'ahum Moosa bilbaiyinaati

فَاسْتَكْبِرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا سِقِّينَ ﴿٣٩﴾ فَعُلِّلَ أَخْذُنَا

fastakbaroo fil ardi wa maa kaanoo saabiqaan(39)Fakullan akhzaznaa

بِذَنْبِهِ فَيُنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبَاً وَمِنْهُمْ مَنْ

bizam bihee faminhum man arsalnaa 'alaihi haasibaa; wa minhum man

أَخْذَتُهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ

akhzazat hus saihatun wa minhum man khasafnaa bihil arda wa minhum man

مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا لَنْفَسَهُمْ

aghraqnaa; wa maa kaanal laahu li yazlimahum wa laakin kaanoo anfusahum

يَظْلِمُونَ ﴿٤٠﴾ مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ

yazlimoon(40)Masalul lazeenat takhazoo min doonil laahi awliyaaa'a kamasalil

الْعَنْكَبُوتُ إِتَّخَذَتْ بَيْتًا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتٍ

'ankboot, ittakhazat baitaa; wa inna awhanal buyooti la baitul

الْعَنْكَبُوتُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿٤١﴾ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ مِنْ

'ankboot; law kaanoo ya'lamoona(41)Innal laaha ya'lamu maa yad'oonaa min

دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٤٢﴾ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ

doonihii min shai'; wa Huwal 'Azeezul Hakeem(42)Wa tilkal amsaalu

نَفَرَ بِهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَلِمُونَ ﴿٤٣﴾ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ

nadrubuhaa linnaasi wa maa ya'qiluhaaa illal 'aalimoon(43)Khalaqal laahus samaawaati

وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَةً لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿٤٤﴾

wal arda bilhaqq; inna fee zaalika la aayatal lilmu mineen (section 4) (44) (End Juz 20)